

جائزہ کائنات

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جمادات کی محبت

اس کتاب کے مؤلفوں کی
کی منفرد تحریر






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
عَمْدًا مَوْلَانَا
عَارِحًا



کرمانیوالہ پبلشرز

مصنف
حضرت علامہ عبدالحق ظفر چشتی رحمتی





وَأَنْتَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
(بني اسرائيل ۲۲)

سہ ماہیہ علمیہ کے معجزات کی منفرد تحریر

جہان کائنات
سے

جمادات کی محبت

مصنف

حضرت علامہ عبدالحق ظفر چشتی رحمۃ اللہ علیہ

کرم الوالیہ کتب و نصاب

Ph: 042 7249 515

Marfat.com

فیضانِ کرم

حضرت سید السادات پیر محمد عمیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

المعروف حضرت کرمال کے آستانہ عالیہ
حضرت کرمانوالہ شریف
اوکاڑہ

شیریں باغ ولایت
حضرت سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

منظر بدایہ طریقت
حضرت سید محمد عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت پیر سید عیسیٰ علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت پیر سید مصمص شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

بیت حنظل
حضرت سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

سجادہ نشین حضرت کرمانوالہ شریف

زیر اہتمام

حاجی انعام اللہ بی نقشبندی برکاتی

زیر اہتمام
سمیع اللہ برکاتی

جمہد حقوق محفوظ ہیں

روپے

قیمت

2009

اشاعت

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹	سرکارِ کائنات ﷺ کے قدموں کی لمس	۹	انتساب
۶۱	کی برکت	۱۱	حرفِ دُعا
۶۱	پتھروں کی حضور سے محبت	۱۳	ابتدائیہ
۶۲	محبت کی معجز نمایاں		جذباتِ تشکر و امتنان
۶۵	حجرِ اسود	۱۷	دیباچہ: دیباچہ عشق میں لپٹے چند حروف
۶۶	جبلِ اُحد، جبلِ حرا اور جبلِ ثبیر	۲۳	جانِ کائنات ﷺ ہی مرکزِ محبت ہیں
۶۸	جبلِ ثبیر		مفرداتِ ثلاثہ میں جمادات اور ان سے ہم
۶۹	جبلِ اُحد	۳۰	کلامی
۷۲	جبلِ اُحد پیکرِ محبت رسول اللہ ﷺ	۳۲	جانِ کائنات ہی محبوبِ کائنات ہیں
۷۳	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۳۸	حضرت ظفر، شجرِ رُثمر
۷۴	ایک سوال اور اس کا جواب	۴۳	خاک کے ذرّوں کی حضور سے محبت
	آپ ﷺ کی تشریف آوری پر سلام کرنے	۴۶	وفدِ کندہ اور خاک کے ذرّے
۸۰	میں پہل کرنا	۵۱	کنکروں کی حضور ﷺ سے محبت
۸۲	اعلانِ نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ	۵۶	خاکِ شفا
۹۰	گوشت کی حضور سے محبت	۵۷	قدسیوں کی جماعت ہماری مہمان
	بغیر اجازت اٹھائی ہو ذبح شدہ بکری کی	۵۸	زمین پر عرشِ الہی
۹۵	حضور ﷺ سے محبت	۵۸	مزدلفہ کے پتھر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۸	غارِ حرا		آپ کی چھڑی مبارک کے اشارے سے
۱۶۱	غارِ ثور	۹۷	بتوں کا گرنا
۱۷۶	نہی رحمت سے محبت	۱۰۱	و مارمیت کا باقی ماندہ واقعہ
۱۸۷	مشکیزہ اور محبتِ راحتِ جاں <small>ﷺ</small>	۱۰۱	غزوہ حنین میں کنکروں کی حضور سے محبت
۱۸۹	لبہائے محبوب کے بوسے لینے والا پیالہ	۱۰۳	ایک غلط فہمی کا ازالہ
۱۹۰	مشکیزہ اور پانی کی حضور سے محبت	۱۰۷	پتھر کی غلامی
	پتھروں کی حضور سے محبت اور آپ کی اطاعت	۱۱۳	دشمن رسول کو قبر کا قبول نہ کرنا
۱۹۵	سواع بت کی کہانی	۱۱۶	مقامِ ابراہیم
۱۹۸	ضاربت کی کہانی	۱۲۱	دانتوں کا محبت رسول میں اطاعت کرنا
۲۰۰	بادربت کی کہانی	۱۲۳	چاندی کی بھری بوریاں
۲۰۷	نخعم کے قبیلے کے بتوں کی کہانی	۱۲۵	قبر انور کی مٹی
۲۱۰	ضام بت کی کہانی	۱۳۵	نور الدین زنگی اور قبرِ مصطفیٰ کے ذرے
	حضرت وائل بن حجر الحضر می کے بت	۱۴۱	نعلینِ مصطفیٰ کی سرکار <small>ﷺ</small> سے محبت
۲۱۳	کی کہانی		موسمِ وقت کی سرکار سے محبت اور آپ کی
۲۱۴	مُحَمَّدِ النَّبِيِّ خَيْرِ الرُّسُلِ	۱۴۶	اطاعت
	حضرت ورقہ بن نوفل اور عثمان ابوالحوریرث	۱۴۶	سردی کا گرمی میں تبدیل ہو جانا
۲۱۶	کے بت کی کہانی	۱۴۹	جوانی اور بڑھاپے کا موسم
۲۱۹	جبیر بن مطعم کے بت کی کہانی	۱۵۱	اس خیرات کے اثرات غیروں تک بھی پہنچے
۲۲۱	”سواع“ نامی بت کی ایک اور کہانی		سونا: یعنی زرِ خالص کی محبت و اطاعت
۲۲۱	سعید بن عمرو الہندی کے بت کی کہانی	۱۵۲	رسول <small>ﷺ</small>
۲۲۳	خصوصی نوٹ		غاروں کی حضور سے محبت اور آپ کی
۲۲۶	ورقہ بن نوفل، ایک بت اور نجاشی بادشاہ	۱۵۵	اطاعت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۸	ایک برتن اور پیالے کی شان	۲۲۸	خوید ضمیر کے بت کی کہانی
۲۸۱	آسمانی بجلی اور طاعون کی گلٹی	۲۲۹	قبیلہ بنی سعد کا بت خانہ
۲۸۵	آگ کی حضور ﷺ کے غلام سے محبت	۲۳۵	ایک ہنڈیا کی کہانی
۲۹۰	ستاروں کی حضور ﷺ سے محبت		بصرہ کے ایک درخت کی حضور سے محبت
۲۹۹	نجاشی بادشاہ، ورقہ بن نوفل اور ایک بت	۲۳۵	و پہچان
۲۹۲	چاند کی حضور ﷺ سے محبت	۲۳۷	بادل کی حضور سے محبت
۲۹۶	بادلوں کی حضور ﷺ سے محبت	۲۳۸	درخت کی حضور سے محبت
۲۹۹	جنتی پھل کی حضور ﷺ سے محبت	۲۴۱	منبر رسول اور استن حنانہ
۳۰۲	چھاگل کی حضور ﷺ سے محبت	۲۴۵	عشق
۳۰۴	توشہ دان کی حضور ﷺ سے محبت		گوشت، ہنڈیا، آٹا، سالن کی حضور ﷺ سے محبت اور
	پانی کی حضور ﷺ سے محبت اور کھانے کی	۲۴۷	آپ کی اطاعت
۳۰۷	اشیاء کی تسبیح کی سماعت	۲۴۷	عصاء مصطفویٰ ﷺ
۳۱۰	پانی اور برتن کا ایک اور تذکرہ	۲۵۵	تیر کی حضور ﷺ سے محبت
	کھجوروں کی حضور ﷺ سے محبت اور	۲۶۰	انگلیوں سے چشمے
۳۱۲	اطاعت	۲۶۳	ایک اور کنویں کی حضور ﷺ سے محبت
	واقعہ حضرت آصف بن برخیا اختصار کے	۲۶۵	اشیاء خورد و نوش، آپ سے محبت
۳۱۳	ساتھ	۲۶۶	آنکھوں کی حضور ﷺ سے محبت
۳۱۸	سورج کی حضور ﷺ سے محبت	۲۶۸	آگ کے شعلوں کی حضور ﷺ سے محبت
۳۲۳	گھی کے برتن کی حضور ﷺ سے محبت	۲۷۱	کھجوروں کی حضور ﷺ سے محبت و اطاعت
۳۲۶	جو کی حضور ﷺ سے محبت	۲۷۲	کنویں اور کنکر پوس کی آپ سے
۳۲۸	زمین کی حضور ﷺ سے محبت		محبت و اطاعت
	پتھروں اور درختوں کی حضور ﷺ سے	۲۷۷	

صفحہ	عنوان
۳۳۰	سے محبت
۳۳۶	لاٹھی کی حضور ﷺ سے محبت
	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے
۳۳۸	درود یوار کی حضور ﷺ سے محبت
۳۴۱	پتھروں کی حضور ﷺ سے محبت
۳۴۳	کنکریوں کی حضور ﷺ سے محبت
۳۴۴	اشارہ پاتے ہی بتوں کا ریزہ ریزہ ہونا .
	زمین کا حضور ﷺ کی محبت میں سراقہ کے
۳۴۶	گھوڑے کو دھنسا لینا
۳۵۷	مقامِ ابراہیم کی حضور ﷺ سے محبت ...

انتساب

میرے اللہ تعالیٰ کی پارٹی (حزب اللہ) کے ان اجزاء کے نام جن کو جمادات کہا جاتا ہے۔

آگ کے ان شعلوں، دہکتے انکاروں تپتے کونلوں کے نام جنہوں نے اپنے مالک کا حکم پا کر اس دور کے پارٹی کے سب سے عظیم رہنما حضرت ابراہیم کو پہچان بھی لیا اور ان کے قدموں میں گلاب، چنبیلی، موتیا، زرگس کی صورت بچھ بچھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسلم خولانی یمنی رضی اللہ عنہ کو بھی پہچان لیا جن کو جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود عسی نے آگ میں پھینکا تھا۔ اس چھری کے نام جو اپنی ازلی فطرت کاٹنے کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے صاحب عظمت و جلال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلقوم کے بوسے لینے لگی۔

اس مقام ابراہیم کے نام والے پتھر کے نام، جن نے اپنی فطری سنگ دلی ترک کر کے آپ کے قدموں کے پیغامات اور ان کے باریک ریشوں تک کو اپنے اندر سمولیا اور ساری کائنات کیلئے سجدہ گاہ بن گیا۔

صفا و مروہ کی ان سوکھی سڑی اور کالی کلوٹی پہاڑیوں کے نام جنہوں نے اپنی پارٹی کی عظیم عورت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدموں کے لمس سے دنیا بھر کے پہاڑوں کے منہ موڑ دیئے۔

میرا سلام ہو، حجر اسود کو، میرا سلام ہو، اُستن حنانہ کو، منبر رسول کو، عصاِ
 مصطویٰ کو، کھاری کنویں کے خشک پیندے اور منڈیر کو، کھجوروں کے ڈھیر کو، خشک
 کنویں کو لباب بھر دینے والی کنکریوں کو، میرا سلام ہو چھاگل کو، اور ہر اس چیز کو،
 جس کو جمادات سمجھ کر حضرت انسان بے حس سمجھتا رہا ہے، بے جان خیال کرتا رہا،
 لیکن جب ان سے باتیں کیں، ان کی سُنیں، تو احساس ہوا کہ جتنے وہ احساسِ محبت
 و عشق اور ادائے حکمِ الہی و محبوبانِ الہی میں گم ہیں، کوئی کیا ہوگا خصوصاً جانِ کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم سے شیفتگی قابلِ رشک ہے اسی شیفتگی نے مجھے جانِ کائنات صلی
 اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جام پلا دیا ہے۔

عبدالحق ظفر چشتی

ادارہ آغوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور

7 محرم الحرام 1430، 6 جنوری 2009ء

حرفِ دُعا

اے میرے باخبر رب! اور ہر بے خبری سے باخبر کئے جانے والے جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب!

اے ہر ڈکھ کا مداوا کر سکنے پر قادر رب! اور تیری مخلوق کے ہر ڈکھ پر تڑپ جانے والے رؤف و رحیم جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب!

اے میری رگِ جاں، جبل الوریڈ سے زیادہ قریب ترین تر بسنے والے رب! اور النَّبِيُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ کی شان والے جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب!

تجھ سے چھپا ہی کیا ہے۔ تیرا مجبور بندہ، محمد عبدالحق ظفر چشتی چند ماہ سے بسترِ علالت پر فراش ہے۔ سجدوں کی نعمتِ لذت سے محروم پڑا کراہ رہا ہے۔ اٹھنے، بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اغیار کی محتاجیوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔

میں بوسیرگی ہوں، نہ جامی اور نہ سعدی کہ اتنے درد سے روؤں، کہ تیری رحمت کی پھوار شفا بن کر اِنِّيْ قَرِيْبٌ کے نعرے لگاتی ہوئی آبر سے۔

میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری کائنات کا جھوٹا ہوں، فریبی ہوں، مکار ہوں، بہروپیا ہوں اور بد عمل ہوں، لیکن تیری ذات اور تیرے محبوب جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی محبت میں جھوٹا نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔

میں قول قرار دی جھوٹی - نالے کم تے کار دی چھوٹی
 نہیں تیرے پیار دی جھوٹی - بھانویں گل سنسار دی جھوٹی
 اس جھوٹی نوں آسرا تیرا - شالا وسدا رہوے تیرا ڈیرہ
 اس لئے میرے سوہنے پیارے اور لاڈلے رب جی۔ میرے خالق و مالک اور
 قادر رب جی۔ میں شفا کی بھیک مانگنے کہاں جاؤں۔ میرا کون ہے جس کے در پر
 جاؤں؟ میں نے اس کتاب میں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کے گیت گائے۔
 اس میں تیری بے زبان پارٹی (حزب اللہ) سے پوچھ پوچھ کر گائے ہیں۔ یہ صرف
 تجھے راضی کرنے کے لئے۔ تیرے محبوب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 خوشنودی کے حصول کے لئے اور اپنی شان و مرتبہ بڑھانے کے لئے گائے ہیں۔

ما ان مدحت محمدًا مقالتي

لكن مدحت مقالتي بمحمدی

آپ کے فیض و لطف سے میں ہوں جہاں میں سرفراز

میری بلند قامتی آپ کے دم قدم سے ہے

میں ان عطاؤں کی بھیک میں سے شفاءِ جسمی، روحی اور قلبی کی بھیک مانگتا
 ہوں۔ کبھی تو ایسا ہو کہ تیرا محبوب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شانِ عطا
 سے آئے۔ جس طرح بوسیری کی فریاد سن کر آئے تھے۔ اور مجھے بھی چادر شفا عطا
 فرما جائے۔ گنہگار سمجھے کا جنت ہی پالی۔

کدی میرے گھر وی آقا جی آؤ

میری عمر کھی سچیندے گزر گئی

دعاؤں، عطاؤں اور رداؤں کا طالب

محمد عبدالحق ظفر چشتی

ادارہ آغوش محمد ﷺ، مصطفیٰ آباد لاہور

ابتدائیہ

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق حضرت انسان ہے۔ ہر قسم کی تکریم و تعظیم کے تاج اسی کو زیب دیتے ہیں۔ متعلم رب العزت ہونے کا اعزاز بھی اسی کو حاصل ہے۔ مسجود ملائک بھی حضرت انسان ہے۔ تمام اعزازات و اکرامات کے باوصف سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شاہکار تخلیق، باعث تکوین دو عالم، فخر موجودات امکانی، ظل رحمانی و نور یزدانی، نقش قدم اول، قدم زندگی کی لوح پیشانی، رونق گلزار ہستی، سر وحدت، سراج بزم ایمانی، قاسم انعامات رب العلیٰ، ہادی سبل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم ماکان و مایکون، خلاق عالم کی تخلیق اول، طہ و یسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین و قرار، آقائے نامدار، عربی ناقہ سوار، شاہسوار ہفت آسماں، سیاح لامکان، راہبر انس و جاں، دھڑکن دل کے مکین، صاحب منصب الفقیر فخری، جن کے نور سے زمین و آسماں کا گوشہ گوشہ معمور، وہ زنجیر باطل توڑنے والے، ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، ارض و سموات کی دلفریب رعنائیوں کا حسن، ہواؤں کی جانفزا کیفیتوں میں کیف و سرور کا دھارا، فضاؤں میں گونجنے والے نعمات کا محور، کائنات آب و گل کے حسن و عشق کا مرکز، گل و لالہ کی نرم و نازک پنکھڑیوں کا نکھار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہی ہیں۔ انسانیت کی جان ہیں۔ انسانیت کی آن ہیں۔ انسانیت کا مان ہیں۔ انسانیت کا ایمان ہیں بلکہ انسانیت کا سب کچھ وہی ہیں۔ انہی کے

مقدس وجود سے کلمہ ہے۔ انہی کے حوالہ سے بیت المحرم ہے۔ انہی کے حوالہ سے رب ذوالمہن کے وجود کی تسلیم ہے۔ آنکھوں کا نور، انہی کی ذات، دل کا سرور، انہی کی ذات، کانوں میں رس گھولنے والی سماعت، انہی کی ذات، میرے انگ انگ میں بسنے والی، انہی کی ذات، میری بھیگی پلکوں کا احسان، انہی کے صدقے، میری خلوتوں میں اور حریم دل میں جلوہ افروزی، انہی کے صدقے، میرے قیام میں مرکزی نقطہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکوع و سجود اور قعود میں حسن مجسم، حضور، دنیا بھر کی صداقتوں کا منبع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانتوں دیانتوں کا حسن عمل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے متمم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، خاک بسر کرنے والوں کو اٹھانے والے، بے آسرا و بے سہاروں کا آسرا بننے والے، بشارت عیسیٰ اور دعاء خلیل و نجی و ذبیح، جن کی ذات دنیا بھر کے بتکدوں میں گھرے ہوئے کعبہ کو بیت اللہ بنانے والی، فداہ امی و ابی، عرضی و عزی الفأ الفأ بعد الف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بھی انسان ہی ہیں۔

جس انسان کی خاطر، مالک نے تسخیر کائنات فرمائی جس انسان کے لئے سات براعظموں پر نیلگوں چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر کے حسین ترین کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں، زحلوں، زمردوں، سورجوں اور ستاروں سے سجائی، دھمکتے ستاروں کا دکننا، مہتکے چاند کا مہکنا، چمکتے سورج کی شعاعوں کا چمکنا، جس انسان کی خاطر ہے۔ اسی انسان کے تمام سرداروں کا سردار، تمام اماموں کا امام، تمام قائدوں کا قائدہ تمام راہبروں کا راہبر، تمام رہنماؤں کا رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی، انہی انسانوں میں ایک انسان ہیں۔

بلکہ صحیح پوچھیں تو ان کی پہچان ہی انسانیت ہے۔ اس پہچان کے ساتھ ان کی تسلیم ہی، انسانیت ہے۔ پہچان اور تسلیم دونوں کا نام ایمان ہے۔ پہچان ہو تسلیم نہ

ہو یہ کفر ہے۔ تسلیم ہو لیکن ان کی عظمت و رفعت کی پہچان نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ کفر جہنم میں پھینکتا ہے اور منافقت، جہنم کے درکِ اسفل میں پھینکتی ہے۔ یہ ہر دو روش اختیار کرنے والا شکل جسماً انسان لگتا ہے لیکن وہ انسان ہی نہیں۔ وہ حیوان ہے۔ بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی بدتر

اور اگر بعض اشیاء جسماً و شکلاً تو انسان نہیں لیکن وہ ان کی جان اور پہچان اور تسلیم کی خو سے متصف ہو گئیں۔ تو بے شک وہ بظاہر انسان نہیں لیکن انسانیت کی جان اور پہچان نے انہیں انسانوں سے بلند مرتبہ پر فائز کر دیا۔

وہ عظیم انسان، وہ عظیم لوگ جنہوں نے اس انسانیت کی جان کو پہچانا، انہیں جانا، انہیں مانا، ان کی شان و منزلت، ان کی رفعت و عظمت کا کیا ٹھکانہ، ان کے ذکر جمیل کی بجائے آج ہمارا موضوع وہ اشیاء ہیں جو جمادات میں شامل ہیں۔ جنہوں نے بظاہر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا لبادہ تو نہیں اوڑھا لیکن انسانیت کی جان، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا، پہچانا، انہیں مانا اور اصل انسانیت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آج ہمارا وہ موضوع ہیں۔

میرا قلم، میرا ذہن، میری فکر، میری سوچ، میرا دل، میری جان، میرا ایمان، ان کی پہچان اور ان کے تسلیم پر ہزار بار قربان، وہ مٹی، وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ ذرے، جنہوں نے انہیں جانا، پہچانا اور انہیں مانا، پھر ماننے کا حق ادا کر دیا۔ ان کی اس تسلیم و رضا کی ادا پر ہزار جان فدا،

انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر۔۔۔ سے کام

اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا

عبدالحق ظفر چشتی

ادارہ آغوش محمد ﷺ مصطفیٰ آباد لاہور

جذباتِ تشکر و امتنان

من لم يشك الناس لم يشكر الله جو بندوں کا، محسنوں کا، اور خیر خواہوں کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے مالک کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔
احسان کرنے والوں کو نگاہ میں، فکر میں، دل میں بسائے رکھنے کا نام شکر یہ ہے نہ کہ احسان کو نگاہ میں رکھنا۔

انسان تو کئی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بہاری خوشبو کسی کسی میں آتی ہے۔
زندگی اتنی مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، پتہ نہیں، لوگ نفرت کے لئے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔

میں سب سے پہلے ان محسنوں کا شکر گزار ہوں جو ہر وقت میرے دل میں دھڑکن کی طرح میری آنکھوں میں، پتلیوں کی طرح اور میری فکر میں ”حسن خیال“ کی طرح چھائے رہتے ہیں۔

پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی، پروفیسر نصر اللہ معینی، علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صلاح الدین سعیدی، محمد عامر چشتی، فیضان محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، محمد فرقان چشتی حضرت کرمانوالہ بک شاپ کے سرپرست اعلیٰ حاجی پیر انعام اللہ طیبی نقشبندی برکاتی (خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت کرمانوالہ شریف) اور ہزاروں لاکھوں، اربوں اور کھربوں اربابِ محبت جن کی نیک خواہشات اور تمنائیں میرے ذہن و فکر اور رُشحاتِ قلم کو آباد رکھتے ہیں۔

دل تو جاتا ہے ان کے کوچے کو

جا! میری جان! جا خدا حافظ

عبدالحق ظفر چشتی

ادارہ آغوش محمد علیؑ مصطفیٰ آباد لاہور

دیباچہ عشق میں لپٹے چند حروف

ایک قبطنی، آل فرعون میں سے، اپنے پڑوسی، سبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے پاس اس کے گھر گیا اور بولا موسیٰ نے جادو کے ذریعے ہمارے لئے دریائے نیل کے پانی کو خون بنا دیا ہے اسی دریا سے اس کے چاہنے والے پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں اور ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں یہ خون ہمارے لئے بد قسمتی ہے یا بقول موسیٰ علیہ السلام

ہماری بد فطری ہے پتہ نہیں کیا ہے

تو ایسا کر، دریائے نیل سے پانی بھر لا، میں بھی اس میں سے پی لوں گا تو اپنے لئے بھرے گا تو پانی پاک رہے گا اور خون نہیں بنے گا، میں بھی تیرا طفیلی بن کر پانی پی سکوں گا۔

سبطی دریائے نیل پر گیا، اپنے برتن میں پانی بھر لایا۔ کچھ پی لیا کچھ رکھ لیا اور اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو پلایا اور جب برتن اس قبطنی کی طرف بڑھایا تو وہ خون ہو گیا۔

قبطنی غصے سے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، نہ جانے غصے میں کیا کیا بکتا رہا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے سبطی سے پوچھتا، یہ بتا کہ یہ گرہ کیسے کھلے گی۔

سبطی نے کہا کہ پانی ہماری پارٹی کا فرد ہے ہماری پارٹی حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی کہلاتی ہے ہماری پارٹی کا ہر فرد صرف اپنے مالک کی بات مانتا ہے اور اور کسی

کی نہیں مانتا۔ وہ صرف اسی کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ اور وہ اس قدر قدرت والا ہے کہ ہم نے اس کے حکم سے پانی کو پتھر ہوتے دیکھا ہے اور پتھر کو پانی ہوتے دیکھا ہے لاٹھی کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی ہوتے دیکھا زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر ہوتے دیکھا ہے۔ ہم سب ایک ہیں اس وقت مالک کے واحد نمائندے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انہی کی پارٹی میں شامل ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں شامل ہو جا پھر پیٹ بھر کر پانی پی، چونکہ تجھے خدا کے بندوں پر غصہ آتا ہے اس لئے تیری آنکھوں پر تاریکی کے پہرے ہیں تیرے پہاڑ جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیل کا پانی ایسا ہی رہے گا کہ وہ بھی اسی کا بندہ ہے جس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو لاکھ بھیس بدل کر آ، پانی تجھے پہچان لے گا، کتنی بد قسمتی ہے کہ تو انسان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکا اپنے کفر کو توبہ کے مضبوط ترین تیشے سے توڑ کر اسے گھاس کا تنکا بنا دے، پھر سبطیوں کے ہاتھ سے جام لے اور جی بھر پانی پی لے تیرا یہ حیلہ کہ میں پانی بھر دوں وہ تو پی لے کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ہر قبطنی کیلئے خون ہے اور خون ہی رہے گا کہ پانی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ قبطنی نے کہا میں اپنے مالک سے دوری کی غلاظت سے میں اتنا بھرا ہوں۔ کہ میں دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو مہربانی کر اور میرے لئے ایمان کی دولت کی دعا کر۔

سبطی نے اُس کے لئے ہاتھ اٹھائے ابھی وہ دعا میں مصروف تھا کہ قبطنی نعرے مارنے لگا اے میرے سبطی بھائی! تیری دوستی نے میری دستگیری کی جلدی کر، مجھے ایمان پیش کر کہ میں مؤمن بنوں اور کفر کا زنا توڑ کر پھینک دوں تیری صحبت میرے لئے کیسیا ہے خدا کرے، میرے دل کے گھر سے تیری محبت کا قدم کبھی باہر نہ نکلے، تو جنت کے درخت کی ایک شاخ ہے جسے پکڑ کر بندہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

سبٹی نے اس کو ایمان پیش کیا اور وہ ایمان قبول کر کے امت موسوی میں شامل ہو گیا سبٹی نے اس کی خدمت میں پانی پیش کیا اور کہا: لے اب پانی پی لے قبطی نے جواب دیا، اب اس پانی کی ضرورت نہیں میری پیاس بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے باطن میں چشمے جاری کر دیئے میرا جگر خشک تھا۔ پیاس تھا جگر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور پیاس بجھ گئی۔

میں سمجھتا تھا کہ ایمان لانے کے بعد میں دریائے نیل کا پانی پینے کے قابل ہو جاؤں گا یہ خبر نہ تھی کہ میرے اندر ہی انقلاب آ جائے گا اور خود مجھے ہی دریا نیل بنا دے گا میں اب خود اپنی نظروں میں ایک دریائے نیل ہوں جو ساری دنیا کی پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔

راقم الحروف اسی حزب اللہ اور حزب الرسول کا ایک فرد ہے اگرچہ سب سے آخری صف میں بیٹھنے والوں کے قابل بھی نہیں ہے تاہم ہوں میں اسی قبیلے کا ایک فرد۔

تعلق ہے میرا اہل نظر کے اُس قبیلے سے
خدا کو جس نے پہچانا محمدؐ کے وسیلے سے

میں نے اپنی پارٹی کے افراد سے باتیں کی ہیں ان کی سنی ہیں اپنی سنائی ہیں میں نے صدیوں نہیں ہزاروں سالوں کے سفر کئے ہیں، میرے لئے یہ دنیا ایک نئی دنیا تھی نئی دنیا میں، اجنبی دنیا میں، غیر ماحول میں، قدم رکھتے ہوئے انسان ڈرتا ہے لیکن اگر اس میں محبت اور مودت اور عشق و مستی کی چاشنی شامل ہو جائے تو راستے اجنبی نہیں رہتے غیر مانوس ماحول میں قلب و نظر کو گداز نصیب ہوتا ہے۔

میں نے ہزاروں سال پہلے کی آتش نمرود سے ملاقات کی اس نے مجھے بتایا میں تو ابراہیم کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میرا کام جلنا ہے جلانا ہے میں تو اپنے پوجنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتی میرا ظاہری رنگ سرخ اور سنہرا اور خوبصورت ہے۔ لیکن قریب آنے والوں کو خاک سیاہ کر دیتی ہوں مجھے کیا خبر تھی آج ایک نیا انقلاب

آنے والا ہے میرے شعلے آج آسمانوں کو چھو رہے تھے میرے اوپر سے پرندے بھی ڈرتے نہیں گزر رہے تھے۔ لیکن مالک کی طرف سے اچانک حکم نافذ ہوا۔ یاسار کونسی بردا او سلاما علی ابراہیم۔ اے آگ آج ابراہیم کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ یہ انوکھا حکم تھا جو میری تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔

میں نے اپنی آنکھیں کھولیں جوش کو ٹھنڈا کیا، ہوش کے ناخن لئے اور انتظار کرنے لگے کون ہے۔ ابراہیم جس نے کھربوں سالوں سے جلتے میرے مقدر کو ٹھنڈک نصیب کی۔ میرے دہکتے انگاروں کو پھول، گلاب، چنبیلی، موتیا، زرگس اور رات کی رانی کا روپ بخش دیا۔ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی تھیں میں نے ابراہیم کو دور سے آتے دیکھا ہاں یہ وہی ابراہیم تھا جس نے مالک کے کسی حکم سے روگردانی نہیں کی تھی بلکہ اس کا عندیہ یہ تھا۔

مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو

ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو

وہ ہمارے خالق و مالک کا خلیل تھا دوست تھا، نمائندہ تھا، خلیفہ تھا، ان کا میرے ہاں آنا کوئی معمولی بات نہ تھی وہ تشریف لائے اور میں قدموں میں بچھ بچھ گئی۔

البتہ میں نے اپنی تپش کا رخ فرعون اور آل فرعون کی طرف کر دیا وہ اپنی نامرادی، اپنی ناکامی، اپنی توہین اور اتنے بڑے اختیارات کی مسند بیٹھے ذلت و رسوائی کی آگ میں جھلس کر رہ گئے۔

میں اس چھری سے بھی ملا ہوں، میں نے داستانِ اسماعیل کا جب ورق الٹا تو فرط جذبات سے اس کی پلکیں بھیک گئیں۔ کہنے لگی چشتی بھائی، کیا پوچھتے ہو، ایک طرف پیکر تسلیم ابراہیم، اور ایک طرف پیکر صبر و رضا اسماعیل تھا۔ میرے لئے وہ لمحہ بڑا عجیب تھا میں اپنے خالق و مالک کے حکم کی پابند بھی تھی۔ پاس ادب تھا میں ایک نبی بلکہ ابوالانبیاء کے ہاتھ میں تھی اور ایک نبی کے نازک حلقوم پر تھی نہ جائے

ماندن، نہ پائے رفتن میرا کام کا ثنا ہے دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، لیکن میری کاٹ، تیز اور تیز دھار ہوتے ہوئے اسماعیل کے گلے کو کاٹ نہ سکتی تھی کہ مالک کا یہی حکم تھا ابراہیم جتنا زیادہ زور سے چلاتے میں اتنا ہی زیادہ کندھ ہو جاتی تھی ابراہیم تھے تو نبی لیکن انہیں ابھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ مالک پیچھے سے مجھ جیسی پتلی کی ڈور کس طرح ہلا رہا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ میں اپنے فطری کام سے، کاٹنے سے، غفلت برت رہی ہوں تو انہوں نے زور سے مجھے ایک پتھر پر دے مارا میں نے بھی پورا زور لگا کر پتھر کے ٹکڑے کر دیئے ابراہیم نے خشمگیں لگا ہوں سے جھڑکتے ہوئے کہا پتھر ٹکڑے کر سکتی ہو یہ نازک حلقوم کو کاٹ نہیں سکتی تو میں نے اپنی بے زبانی میں کچھ نہ کہنے کی آرزو کے باوجود، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود کی برودت اور سلامتی یاد کرا دی کہ اگر آتش نمرود کو کوٹھا آپ کیلئے ٹھنڈا ہونے کا حکم دے سکتا ہے تو مجھے بھی وہی حکم دینے والا حکم دے رہا ہے، بس اسی ثناء میں پردہ کشائی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکبادیوں کے پیغام فرماتے ہوئے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے سنا دی۔ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔

اگرچہ اس واقعہ کو چار ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کرم کے سحر سے میں آج تک باہر نہیں نکل سکی۔

دوستو! مہربانوں! میں اسی طرح کائنات کی بکھری رعنائیوں میں گھومتا رہا اپنی پارٹی کے اُن افراد کو ملتا رہا، جن کے کردار نے سنہری حروف سے اپنے نام تاریخ کے اوراق پر کندہ کئے ہیں اصحاب کہف اور ان کے کتے کے جسم کو گزند نہ پہنچانے والے غار کے پتھروں سے، ریزوں سے، ذرو سے ملا ان کی بیان کردہ کیفیات میں ڈوب ڈوب مست ہوتا رہا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے ملا اس سے ایک طویل عرصہ اس کے ہاتھ میں رہنے کی کیفیات و جذبات سن سن کر مست ہوتا رہا۔

میں نے تصور ہی تصور میں اس اونٹنی کے قدم چومے ہیں، جس کی اپنی کوئی کل بھی سیدھی نہ تھی، لیکن خالق و مالک کی محبوب ترین شخصیت کے قرب نے اسے بھی مامور من اللہ بنا دیا تھا وہ دراز گوش میرے خوابوں کی دنیا کو حسین ترین بنا تا رہا جسے ان کی صحبت و معیت نے اتنا باشعور بنا دیا تھا کہ اسے صحابہ کے نام، ان کے گھروں کے پتے اور گلی محلوں کے نام تک یاد ہو گئے تھے اور جب بھی کسی صحابی کو بلانے کا حکم ہوتا، وہ فوراً بھاگا بھاگا جاتا اور حکم کی تعمیل میں ذرہ بھر کوتاہی نہ کرتا۔

علیٰ ہذا القیاس! میں نے ان سے باتیں کیں، ان کی باتیں سنیں اور پھر قلم قرطاس کے حوالے کرتے ہوئے ان کی ترجمانی کی باتیں کیں۔ یہ باتیں اتنی سچی ہیں کہ کوئی جھٹلانے کی جرأت و حماقت نہیں کر سکتا۔ البتہ ترجمانی چونکہ میں نے کی ہے، اس لئے عین ممکن ہے ہزار جگہ میرے قلم نے لغزش کھائی ہو۔

کہاں سے لائے گا بقاصد دہن میرا زباں میری
یہی بہتر ہے خود سن لیں وہ مجھ سے داستاں میری

اس لغزش و کوتاہی پر مری گرفت نہ فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنی پارٹی، حزب اللہ، کے ان بے زبان افراد سے آپ خود ملاقات فرمائیں، بخدا یہ داستاں اتنی حسین ہیں، آپ کے خلوت کدے آباد ہو جائیں گے، آنکھوں کی پلکیں بھیگ بھیگ جائیں گی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے اس قدر سرشار کر دے گی کہ آپ بھی ہمہ وقت رجوع اللہ رجوع الی الرسول کی کیفیت اور جذبات سے مسحور رہنے لگیں گے۔ ان شاء اللہ

عبدالحق ظفر چشتی

چیرمین ادارہ آغوش محمد ﷺ

مصطفیٰ آباد، لاہور

2008

جانِ کائنات ﷺ ہی مرکزِ محبت ہیں

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی

نگران اعلیٰ مرکزی مجلس رضالاہور

علامہ عبدالحق ظفر چشتی، صاحب طرز ادیب ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، خطیب ہیں، ادیب شہیر ہیں کئی خوبصورت کتابوں کے مصنف اور کئی علمی مجالس میں شمع محفل بن کر بیٹھتے ہیں، سب سے بڑھ کر وہ ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، قدر دان ہیں اور ہمارے رفیق مجالس بھی ہیں انہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا ایک نذرانہ پیش کیا ہے، جس کا عنوان ہے۔

”جانِ کائنات ﷺ سے جمادات کی محبت“

یہ کتاب حضور سیدی و مولائی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں ایک انوکھا عنوان ہے، جسے غالباً پہلے کبھی نہیں لکھا گیا نہ پڑھا گیا جمادات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک منفرد انداز تحریر ہے، جسے ہمارے فاضل مؤلف بارگاہ رسالت میں پیش کر کے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

جمادے چند دا دم جان خریدم

بم اللہ چہ ارزاں خریدم

حضور جانِ کائنات ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات میں کروڑوں اشیاء ہیں، ان میں جمادات بھی ہیں جو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں شاید ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ آیا پتھر، حجر و شجر، چٹانیں، پہاڑ پوریت کے

حقیر ذرّے، اور پہاڑوں کی بلند چوٹیاں بکھرے ہوئے سنگ ریزے، پاؤں کے نیچے مسلے جانے والے حقیر ذرّے بھی جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں فاضل مصنف نے ان بے زبانوں کی بے زبانی کو زبان بخشی ہے۔ جمادات فاضل مصنف سے ہمکلام ہوتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، جذبات کی بھٹی تیز کرتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی وجد کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کبھی آہیں بھرتے، روتے، چیختے اور چلاتے ہیں اور فاضل مصنف ان کی زبان کو، جذبات کو، خیالات کو، آہوں کو، مسکراہٹوں کو وجد اور کیفیات کو اپنے نوکِ قلم پر رکھتے ہیں صفحات قرطاس پر بکھیرتے ہیں خود بھی جذبات میں ڈوب جاتے ہیں اور قاری کی خشک سے خشک ترین آنکھوں کے خشک سوتوں سے آنسو کھینچ لاتے ہیں سینکڑوں واقعات اور ہزاروں روایات بحوالہ بیان کرتے ہیں اور رہو! قلم کو مزید سے مزید اڑاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے قلم نے بتایا ہے۔

سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں

آپ کتاب کا صفحہ صفحہ الٹتے جائیں، آپ کو جمادات کے ذرے ذرے کا دل حضور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکتا دکھائی دے گا مطالعہ کرتے جائیں، صرف دکھائی نہیں دے گا بلکہ ذرّہ ذرّہ ثنائی خوانی سرکار میں دھڑکتا سنائی دے گا ہم چاہتے ہیں کتاب سے چیدہ چیدہ اقتباسات پیش کریں اور فاضل مصنف کے جمادات کے خوبصورت حواہر پارے جمع کردہ آپ کی نذر کریں اگر ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا تو جواہر و یواقیت کا بہتا ہوا دریا گدلا ہو جائے گا۔

غزوہ تبوک سے واپسی پر وفد کندہ کا حضور کے بارگاہ میں حاضری کا تذکرہ کرتے ہوئے چند ذروں کا تذکرہ یوں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

”اشعث نے کہا: اے ابوالقاسم! ہم نے دامن میں ایک چیز چھپا رکھی

ہے بتائیے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ باتیں تو جادوگروں سے پوچھی جاتی ہیں، ہم جادوگر نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ لو ایسا کرتے ہیں۔ میں چند خاک کے ذرے ہاتھ میں لیتا ہوں یہ گواہی دیں گے ہم کون ہیں۔“

آپ نے یہ فرمایا: تو ہماری قسمت جاگ اٹھی، زمین پر بچھے لاکھوں کروڑوں ذروں کی تمنا تھی کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس ہمیں نصیب ہو اور ہم گواہی دیں لیکن یہ تو نصیب نصیب کی بات ہے جن کی مٹھی میں ساری کائنات کا نظم ہے انہوں نے ایک مٹھی ہم ذروں سے بھری اور ہم واشگاف الفاظ میں آپ کے اور اپنے رب کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کے گیت گانے لگے، یوں تو کوئی ذرہ ایسا نہیں جو کسی بھی لمحے اپنی مالک کی تسبیح سے غافل ہو، البتہ اس روز تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہمیں ایسی زبان بخش دی گئی جس کو انسان بھی سمجھ سکتے ہیں۔

ہماری شہادت کی کیفیت، اس وفد کندہ پر ایسی طاری ہوئی کہ وہ بھی سب کے سب بیک زبان ہو کر پکارنے لگے، نشہد انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
”سنگ ریزے اور محبت“ کے عنوان کی چند سطور پڑھئے۔

ہم پتھر تو ہیں، پتھر دل نہیں، نہ ہماری آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں ہم محبت کرنا جانتے ہیں، ہم محبت نبھانا جانتے ہیں ہم اپنے قریب آنے والوں میں کون محبت کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں، دیکھ لیتے ہیں ہم اظہار محبت بھی کرتے ہیں سر دھنا جانتے ہیں مست ہونا جانتے ہیں ہم رقص کرنا جانتے ہیں ہم محبوبوں کی آمد پر چلنا بھی جانتے ہیں ہم محبوبوں کا استقبال کرنا بھی جانتے ہیں ہم قدم چومنا جانتے ہیں ہم رقص بسک کی طرح تڑپنا بھی جانتے ہیں ہم پانی کی نہریں بہانا جانتے ہیں

ہم محبوب کی محبت میں ریزہ ریزہ ہونا جانتے ہیں۔

ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو پتھر کو پتھر نہیں رہنے دیتا موم کر دیتا ہے جس طرح موم جلتا بھی ہے پگھلتا بھی ہے اسی طرح ہم بھی محبوب کی محبت میں جلتے بھی ہیں پگھلتے بھی ہیں۔

کہتے ہیں محبت مردہ کیلئے زندگی روح کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حیف ہے، اس پر جس کے پاس دل ہو، مردہ ہی سہی، لیکن وہ محبت کر کے زندہ نہ ہو سکے، حیف ہے اس پر، جو اپنی روح کو زندہ نہ کر سکے اور بجھ جائیں اس کی آنکھوں کے چراغ جو کسی کو اپنا محبوب بنا کر اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر سکے۔

محبت وہ روشنی ہے جس سے منزل نظر ہی نہیں آتی، منزل پر پہنچاتی بھی ہے۔ محبت کی روشنی میں سفر کرنے پر جو منزل ملتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی دھوکہ نہیں ہوتی فریب نہیں ہوتی۔“

کائنات کی تخلیق پر غور و خوض کرنے والے مورخین نے زمین کی تخلیق اور بناوٹ کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالی ہے۔ اور بڑے لطیف انداز میں خطہ ارضی پر جمادات کی ابتداء کا نقشہ کھینچا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت انسان کے زمین پر آنے سے لاکھوں سال پہلے کئی قسم کی مخلوق کا اقتدار قائم کیا پہاڑوں کو پیدا کیا، قرآنی اصطلاح میں انہیں ”اوتاد“ کہا گیا ہے۔ یہ وہ میخیں اور ستون تھے جنہوں نے زمین کو سکون بخشا۔

جمادات کی بے شمار قسمیں زمین کے تختے پر ان جمادات کا لاکھوں سال، کروڑوں سال تسلط رہا، پہاڑوں سے لے کر ریت کے حقیر ذروں تک بے شمار قسم کی جمادات نے اپنا سکہ جمایا اور ایسا اقتدار جمایا کہ ہزاروں نہیں کروڑوں سال تک زمین کو پرسکون رکھنے اور اپنی جگہ برقرار رکھنے کے فرائض انجام دیتے رہے،

زمین تھی جمادات تھے زمین تھی پہاڑ تھے، زمین تھی پتھر تھے، زمین تھی، لعل و جواہرات تھے، زمین تھی اور سنگریزے اور ذڑے تھے یہ سب جمادات کی دنیا تھی جو کائنات ارضی پر حکمران رہی۔

ہزاروں صدیاں گزرنے کے بعد دریائے رحمت جوش میں آیا تو بادلوں کو حکم ہوا کہ زمین کے پہاڑوں، پتھروں، وادیوں، صحراؤں پر جا کر برسو، بادلوں نے کمال محبت سے ہر جگہ ہر بستی اور ہر کونے کھدرے میں برسنا شروع کر دیا، بادلوں کے برسنے پر سنگلاخ زمین، نرم و گداز ہوئی اور نباتات نے اس کی ککھ سے جنم لیا، درختوں، پودوں بیلوں اور اشجار نے پیار کی چھاؤں سے ساری زمین، کو پہاڑوں کو، وادیوں کو، سرسبز کر دیا، ہر طرف بہار آگئی نباتات کے کرشمے دکھائی دینے لگے۔ جمادات کی کائنات پر نباتات کے اقتدار کا موسم آیا، یہ شجر، یہ پھل، یہ پھول، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ پھول کی وادیاں، جمادات کی دنیا میں جلوہ گر ہو گئیں۔

یوں زمین پر صدیوں پہاڑوں کے اقتدار پر نباتات کے اقتدار کا زمانہ آیا، پھر جمادات اور نباتات کا تسلط صدیوں تک قائم رہا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے حیوانات کو زمین پر بھیجا، جو جمادات (پتھروں) اور نباتات (پھلوں اور پھولوں) سے لطف اندوز ہونے لگے، حیوانات کی آمد کے بعد جمادات اور نباتات نے اپنے آنے والے مہمانوں حیوانات کے لئے اپنے سینے کھول دیئے اور وہ جمادات کے زیر سایہ رہنے والے اور نباتات کی گونا گوں مخلوق سے اپنا پیٹ بھرنے لگے، حیوانات کی دنیا کی مختلف شکلیں تھیں، یہ چرند، یہ پرند اور اڑنے والے اور رینگنے والے حیوان جمادات و نباتات سے نہ صرف فیض یاب ہوتے رہے بلکہ یہ بھی اپنی محبت کی چادر جمادات و نباتات کے سروں پر تانتے چلے گئے۔ کائنات ارضی کی یہ مخلوق اور خطہ زمین کی رونقیں اپنی جگہ مگر ایک وقت آیا کہ جنت کے باغوں میں کچھ تبدیلیاں نمودار ہونے لگیں، حضرت آدم علیہ السلام، رونق

کائنات ارضی بنائے جانے لگے، جہاں جمادات، نباتات اور حیوانات کا تسلط تھا، وہاں حضرت رب آدم علیہ السلام کا تخت بچھایا جانے لگا اور اعلانات ہونے لگے کہ ہم زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بھیجنے والے ہیں یہ تخلیق خالق عالم کی دنیائے زمین و آسمان کی تمام تخلیقات میں بالکل انوکھی اور نرالی تھی جسے مالک نے خلقت بیدی کا اعزاز بخشا تھا۔ ساری مخلوق ارادہ کے بعد کن کہنے سے بنی تھی اور آدم و بنی آدم کی تخلیق خود اپنے ہاتھ سے فرمائی تھی خالق نے اپنی اس تخلیق کو اپنا شاہکار بنا دیا اور بے حد و عد مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ملائکہ کو اس کی عظمت کا اعتراف کرا کر اس کے حضور سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔

زمین اور زمین پر رہنے والی ہر قسم کی مخلوق، جمادات، نباتات، حیوانات غرض جو کچھ بھی تھا، وہ تابع فرمان تو پہلے ہی تھی نافرمانی اس کی جہلت ہی میں نہ تھی فرمانبرداری اور صرف فرمانبرداری، اس کے کان میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو میں کائنات ارضی پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیج رہا ہوں دراصل یہی وہ شخصیت ہے جس کے لئے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے اس میرے خلیفہ کے حکم تعمیل دراصل میرے ہی حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور سنو! حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی تخلیق کا باعث ایک اور ذات بھی ہے جس کی عظمت کے جھنڈے ساری مخلوقات کی تخلیق سے بھی بہت پہلے گاڑے جا چکے تھے۔ جب وہ تشریف لے آئیں تو حضرت آدم و بنی آدم، ان میں جلیل القدر میرے فرمانبردار بندوں سے لے کر چیز کو ہمارے اسی محبوب کے حضور جھکنا ہوگا، اتباع کرنا ہوگی، محبت و اطاعت کرنا ہوگی، ان کا قرب، میرا قرب ہوگا، ان سے دوری، مجھ سے دوری ہوگی۔

تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں

دڑ بدر یونہی خوار، پھرتے ہیں

زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سے ہر ایک نے اس حکم کی اطاعت کا حق ادا

کر دیا، جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات، سب نے آپ کے حضور بے دام غلاموں کی طرح نقدِ دل کے نذرانے پیش کر کے انوکھے باب رقم کئے ہیں اور یہی ہمارے فاضل مصنف علامہ عبدالحق ظفر چشتی کا موضوع ہے آپ کے ہاتھوں کے لمس کا شرف پانے والی یہ کتاب اس موضوع کا ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نباتات کی محبت کے حسین تذکرے ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حیوانات کی محبت کے حیران کن، ایمان افروز، اور محبت کی دنیا کے انوکھے باب کے دروازے کھلنے والے ہیں۔

آپ کو ان کتابوں میں محبت کے عشق کے، پیار کے، فداکاری، جان نثاری کے ان بے جان و بے حس اور غیر متحرک اشیاء کے الہیلے واقعات ملیں گے۔ کبھی کبھی تو احساس ہوگا کہ اے کاش! ہم بھی ان پتھروں، ذروں، روڑوں، درختوں اور جانوروں کی فداکاری کے ابواب کا ایک حصہ ہوتے۔

اسی چاہت، اسی احساس کو بیدار کرنا ہی کتاب کی تصنیف کا اصل مقصد ہے کہ انہیں کی محبتوں کے معجزے اپنی جگہ، اگر کوئی انسان ہو کر، اس فخر انسانیت سے محبت کے زمزے بہانے لگے۔ تو یہ صرف مسجود ملائک ہی نہ رہے بلکہ محبوبیت خلاق عالم کے سب سے عظیم تر درجے پر پہنچ جائے، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو تو اس وقت ہی اپنے یہ دلفریب انداز دکھانے کا موقع ملا، لیکن انسان کیلئے تو اس شاہکار سے محبت، الفت، عشق اتباع اور اطاعت کے آج بھی دروازے کھلے ہیں۔ عظمتوں کے تاج ایک عرصہ سے اس کے سر پر سجنے کو بے چین و بے قرار ہیں۔

ہم فاضل مصنف کو دعا دیتے ہیں کہ انہوں نے محبت و اتباع اور اطاعت کے خوابیدہ جذبہ کو مہینز لگانے کے لئے خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ۔

04-08-2008

مفرداتِ تلاش میں جمادات اور ان سے ہم کلامی

سیرت النبی اور فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین موضوع رہا ہے، کوئی شعروں میں مدحت حبیب خدا کے نغمے الاپتا ہے تو کوئی نثر پاروں کی صورت میں محبت و عقیدت کے پھول محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرنے کی سعادت پاتا ہے اور یہ قافلہ عشاق روز بہ روز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔

اس قافلہ عشاق کے ایک فرد فرید جناب علامہ عبدالحق ظفر چشتی بھی ہیں محترم چشتی صاحب کا شمار ان قلم کاروں میں ہوتا ہے جو علم و دانش کے ساتھ ساتھ درد و سوز کی دولت فراواں سے بھی سرفراز ہیں، ان کا رہوارِ قلم ہمیشہ انوکھے مگر فیض رساں موضوعات کا متلاشی رہتا ہے۔

چند روز قبل آنجناب نے محترم صلاح الدین سعیدی ڈائریکٹر تاریخ اسلام فاؤنڈیشن لاہور کی رفاقت میں غریب خانہ کو قدوم میمنت لزوم کا شرف بخشا تو معلوم ہوا کہ جسمانی عوارض کی گرفت میں آئے لوگوں کو روحانی شفا خانوں کی راہ دکھانے والے یہ صاحب قلم اب چمنستان سیرت سے ایک حسین گلدستہ تیار کر کے ہمارے طاق قلب پر سجانے کے لئے کمر بستہ ہیں لگتا ہے اہل درد و فراق کی ”ہل من مزید“ نے انہیں یہ نئی راہ سمجھائی ہے جو ہمیشہ یہ فریاد کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ

مشاطہ را بگو کہ بر اسباب حسن یار
چیزے فزوں کند کہ تماشا بار سید

سو علامہ عبدالحق ظفر چشتی صاحب اپنی کتاب ”جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات کی محبت“ کے ذریعے تماشائے حسن یار کا سامان کرتے نظر آتے ہیں یہ کتاب شجر و حجر کی زبانی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات کی محبت کے عطر بیز تذکروں سے مزین ہے۔

اس پہ شاید کسی کا ماتھا ٹھنکنے کہ کیا جمادات بھی دل رکھتے ہیں؟ اور کیا ان میں بھی احساس و شعور ہے کیا یہ بات بھی کر سکتے ہیں؟

قرآن و حدیث اور صوفیانہ ادب سے آگاہی رکھنے والوں کے لئے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب العزت کے سامنے زندہ ہے ان میں جس ہے ادراک ہے، وہ رب العزت کے مطیع اور عبادت گزار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ناقص اور محدود علم اور اپنے حواس کی نارسائی کی بناء پر ان کے احساس و ادراک اور ان کی زندگی کو سمجھ نہ پائیں۔ ورنہ بعض اوقات تو ہم اپنے ہم جنس کی بات نہیں سمجھ سکتے۔

علم لدنی کے بحر ذخا حضرت عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جمادات کے دو پہلو ہیں ایک رخ خالق کی طرف سے ہے اسی میں وہ اللہ تعالیٰ سے نہ صرف واقف بلکہ اس کے مطیع و عبادت گزار بھی ہیں رب العزت کا یہ فرمانا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ”وان من شیء الا یسبح بحمدہ“ یعنی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہیں اور آیت کا دوسرا حصہ ”ولکن لا تفقہون تسبیحہم“ لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، جمادات کا یہ دوسرا رخ مخلوق کی طرف سے ہے کہ اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ بظاہر جمادات کچھ نہیں جانتے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ پردہ ہٹانے کی درخواست کی تھی تاکہ ہم ان کی تسبیح اور کلام سن لیں چنانچہ کنکریوں کی تسبیح کھجور کے تنے کی سسکیاں، پتھروں کا سلام اور درختوں کی سجدہ ریزی، ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے احساس و

ادراک اور قوت نطق و سماعت پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا۔

حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں خود اپنے بعض مشاہدات بھی بیان فرمائے کہ کس طرح انہوں نے جمادات سے تسبیح اور ذکر الہی سنا، اس پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ کلام انہوں نے عربی میں سنا۔ یا جمادات کی اپنی زبان میں تو حضرت دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جمادات کی زبان میں کیونکہ ان کی اپنی زبانیں اور اپنی بولیاں ہیں جو ان کی ذات کے لائق ہیں۔ (خزینہ معارف ترجمہ الابریز)

حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مثنوی میں کئی مقامات پر اس موضوع کے حوالے سے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں:

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند
 با من . و تو مردہ، با حق زندہ اند
 ہوا مٹی، پانی اور آگ یہ سب خدا کے مطیع و غلام بندے ہیں یہ میرے تیرے
 سامنے تو بے جان ہیں مگر حق تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں۔
 دوسری جگہ فرماتے ہیں:

در جمادات از کرم عقل آفرید عقل از عاقل بقر خود برید
 اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جمادات کے اندر عقل و شعور پیدا کیا ہے
 جبکہ وہ اپنے قہر سے عقلمند سے عقل چھین لیتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔

بذکرش ہر چہ بنی در خروش است
 ولے داند دریں معنی کہ گوش است

کائنات کی ہر چیز جو تجھے نظر آ رہی ہے ذکر الہی میں مصروف ہے لیکن یہ وہی
 جانتا ہے جو گوش (باطنی) رکھتا ہے۔

راقم الحروف کا خیال تھا کہ ایسے مخصوص ”گوش“ کے حاملین اب صرف

کتابوں میں ہی بستے ہیں۔ لیکن زیر نظر کتاب کے صفحات غمازی کر رہے ہیں کہ نہیں! صاحبان گوش ہوش آج ہمارے درمیان بھی موجود ہیں اور ہمارے کرم فرما مصنف کتاب تو ایسے صاحب گوش ہیں جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمادات کی ایمان افروز اور روح پرور گفتگو سننے کی سعادت بھی پا چکے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے لیکن اس مبارک دور کے شجر و حجر اور دیگر جمادات سے گفتگو کرنے کیلئے جس طرح انہیں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جینے کے لئے جتن کرنے پڑے ہوں گے۔ وہ سعادت در سعادت ہے آج جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جسے جینا مل جائے اس کی خوش بختی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ سو اس عظیم سعادت پر مصنف کتاب صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔

ایں سعادت بزور باز و نیست

تانہ بخشد خدائے بخشدہ

مصنف مدظلہ منجھے ہوئے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ شاعر بھی ہیں اور شعر گوئی و شعر نہی کا عمدہ ذوق رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسی کتاب میں بر محل خوبصورت اشعار پڑھ کر مزہ دو آتشہ ہو جاتا ہے اور قاری جھوم اٹھتا ہے۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں گندھی ہوئی یہ کتاب قارئین کے ہاتھ میں ہے میرے لئے اس پر تبصرہ اس لئے ممکن نہیں کہ

خوشبو آنت کہ خود بیوید نہ کہ عطار بگوید

سو قارئین اس سے اپنے مشامِ جان ایمان کو معطر کریں اور مصنف دامت برکاتہم کی صحت میں برکت کے لئے دعا کریں کہ ان کے دست مبارک سے مزید ایسی خوبصورت تحریریں ہمیں پڑھنے کو ملتی رہیں، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

محمد نصر اللہ معینی

ڈائریکٹر ریسرچ ونگ ادارہ منہاج القرآن لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جانِ کائنات ہی محبوبِ کائنات ہیں

نبوت ہر دور میں غالب تھی، غالب ہے اور غالب رہے گی۔ موجودہ دور، سائنسی انکشافات کا دور ہے۔ ایسے ایسے راکٹ، میزائل اور طیارے معرض وجود میں آچکے ہیں کہ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تر رفتار کے ساتھ محو پرواز ہیں لیکن اتنی برق رفتاری اور بلند پروازی کے باوجود، براقِ نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح طب کی کون سی دوا، لعابِ دہنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکتی ہے۔

یہ کمالِ نبوت ہے کہ جس کے آگے ساری کائنات زیرِ زبر ہو جاتی ہے۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے تاجدار بن کر جلوہ فرما ہوئے تو آپ کے کمالات و تصرفات کا کیا کہنا۔ آپ خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ارض و سموات کی وسعتوں میں آپ کی حکمرانی کے پرچم لہرا رہے ہیں۔

صدقے اس اکرام کے، قربان اس انعام کے

ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ

اللہ اکبر، آپ کی حکمرانی صرف جنوں اور انسانوں تک محدود نہیں۔ فرشتے

بھی آپ کے خدامِ بارگاہ ہیں۔ حورو غلمان بھی آپ کے متلاشیانِ حسن ہیں۔

جمادات، نباتات، حیوانات کے جہان بھی آپ کے حضور ناز میں مسخر ہیں۔ ذرّہ

ذرہ آپ کی محبت کی فراوانیوں سے سرشار ہے۔ قطرہ قطرہ آپ کی مودت کے سوز
دروں سے مالا مال ہے جس کو بھی اک نگاہ دلربائی سے دیکھتے ہیں وہ چیز سو جان
سے قربان ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے
لئے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے

ارسلت الی الخلق كافة

یعنی میں تمام مخلوقات کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

یاد رہے کہ رسالت، مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان واسطے اور رابطے کا نام
ہے۔ اب جس کو جو عظمت و نعمت، میسر ہوگی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے واسطے اور رابطے سے حاصل ہوگی۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے
ہیں جب تمام کائنات وجود میں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محتاج ہے تو
کمالات وجود میں کیوں ان کی محتاج نہ ہوگی۔ واقعی محبوب رب العالمین ایسا ہی
ہونا چاہئے۔ (ملخصاً)

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق و مخلوق عابد و معبود، ساجد و مسجود،
طالب و مطلوب اور رازق و مرزوق کے درمیان، واسطہ، رابطہ، وسیلہ اور برزخ بن
کر آئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر چیز حصول کمال کے لئے آپ کی محتاج ہوگی۔
امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

كُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ

اس پر آشوب دور میں باطل قوتوں کا سب سے خطرناک حربہ یہ ہے کہ امت
مسلمہ کو حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و تصرفات سے
نا آشنا کر دیا جائے۔ اس مذموم کوشش کے لئے ان کے وفادار ایجنٹ، دن رات
کام کر رہے ہیں توحید کی آڑ میں۔ آپ کی شان و عظمت کا انکار کیا جا رہا ہے۔

افسوس! توحید کے سب سے بڑے علمبردار کے کمالات کو ہی توحید کے لئے سب سے بڑا خطرہ سمجھ لیا گیا ہے تاکہ لوگ توحید رکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیگانہ ہو جائیں۔

عصرِ مازِ ما بیگانہ کرد
از جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیگانہ کرد

جس توحید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و وجاہت کا انکار پایا جاتا ہو۔ اس سے کسی کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ شیطان آج بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علمبردار ہے لیکن اس تسلیم و رضا کے باوجود، وہ شیطان ہی ہے۔ رائدہ درگاہ ہے، رجم ہے، کیوں؟

اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے محبوبانِ خدا کی عظمت کا انکار کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضائلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح آگاہ کیا جائے اور اسے شیطانی وسوسوں، حربوں اور حملوں سے بچایا جائے۔

زیر نظر کتاب ”جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمادات کی محبت“ میں محقق عصر حضرت علامہ محمد عبدالحق ظفر چشتی مدظلہ نے اسی مقصد کو سامنے رکھا ہے اور بے شمار فضائلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک فضیلت پر کھل کر بات کی ہے۔ آپ نے اپنے قلم گوہر رقم سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاہکار تخلیق کیا ہے جس کا ایک ایک لفظ خمیر عشق میں گندھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جمادات، کنکر، مٹی کے ذرات، پتھر، روڑے، کس طرح دل و جان سے، جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوتے ہیں۔

سیرۃ ابن ہشام میں روایت مرقوم ہے۔ فَلَا يَمُرُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلِيَ اللّٰهُ

عليه وآله وسلم بحجر ولا شجر الا قال السلام عليك يا رسول الله
يعني رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے
تو وہ یوں پکارتا السلام عليك يا رسول الله اس موضوع پر اور بھی بہت سی روایات
موجود ہیں۔

اس کتاب میں اہل دل اور اہل محبت کے لئے معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ
جمع کر دیا گیا ہے اور اس عقیدے کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کائنات کی نگاہوں کا قبلہ ہیں اور آرزوؤں کا کعبہ ہیں۔

ماہ ٹوٹے پیڑ دوڑیں، جانور سجدہ کریں

اللہ اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہیں

مولا کریم! حضرت مؤلف اور جناب ناشر کو تمام اہل اسلام کی طرف سے
بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو داخلی و خارجی فتنوں سے محفوظ
رکھے۔

این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

غلام مصطفیٰ مجددی

۳۱ مئی ۲۰۰۸ ہفتہ شکر گڑھ

حضرت ظفر، شجرِ پرثمر

خوبصورت، گھنے سایہ دار درخت کا ایک ماضی بھی ہوتا ہے جب بظاہر وہ ایک ننھے سے ”بیج“ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر جب کسی کی نگاہِ انتخاب اُسے پروان چڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس ”صاحبِ نظر“ کی کرم گستری سے اپنے اس ننھے سے وجود کو خاک میں خاک کر دینے پر تکل جاتا ہے۔ چند دن بعد وہ ننھا سا بیج ایک نرم و نازک کونیل کی صورت زمین کا سینہ چیر کر ”سرفرازی“ کا پہلا زینہ چڑھتا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے، اور اپنی کمزور، نحیف اور لاچار حیثیت کو دیکھتا ہے جس کے ماحول میں اس جیسے اُن گنت شگوفے مختلف حادثات کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ کر ”بے نام“ ہو گئے۔

لیکن اس شگوفے کی خوش بختی کہ یہ کسی کی نگاہ میں تھا جو اُس کی جہد مسلسل سے نگرانی و نگہداشت سے غفلت کا شکار نہیں تھا بلکہ شب و روز رسمی شدائد کے اثرات سے بچاؤ سے لے کر ڈھور ڈنگر کے پاؤں تلے آ کر کسی حادثے سے بچائے رکھنے کی سعی جمیل پر بھی مستعد و تاک تھا۔ یوں ماحول کی کج ادائیگی و سنگینی کے باوجود یہ نرم و نازک شگوفہ چرخِ نیلی فام کے ماہ و سال گنتے گنتے پودا اور پھر پودے سے تناور درخت بن گیا۔

گل تک یہ شگوفہ، یہ کونیل ایک ”بے سود اور بے ضرر“ وجود تھا مگر موسمی

شدائد، جاڑے کی جاں گسل زندگی، گرم لو کے بے رحم تھپیڑے، طوفانی بارشیں، آندھیوں کے قیامت خیز جھگڑے..... یہ سب کچھ سہتے سہتے ایک دن یہ ”بے سود و بے ضرر“ شگوفہ ایک نفع بخش پیڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کی زندگی کی ابتداء بے ضرر ہونا اور انتہاء نفع بخش ہونا قرار پائی..... جو بھی زمانے کی دھوپ کا جھلسایا، ستایا ہو اس کے قرب میں آیا اس نے بے لوث، بے غرض اپنے بازو وا کر دیے، آنے والا کوئی عامی راہ گیر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دشمن جاں بھی ہو سکتا ہے..... مگر اسے کسی کی دوستی سے کیا غرض، یا دشمنی کی کیا پرواہ! لوگ باگ پتھر مارتے ہیں اور یہ جواب میں پھولوں سے جھولی بھر دیتا ہے کہ لے میاں خود بھی کھا اور بال بچوں کے لیے بھی لے جا.....

”درخت کی ابتداء بے سود بے ضرر ہونا اور اس کی انتہاء نفع بخش ہونا ہے“ اگر یہ بات دل کو لگتی ہے تو یقین جائے ”رجال اللہ“ کی زندگیاں بھی اس مثال کی حقیقی اور سچی تصویر ہوتی ہیں۔

جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ادھوری سی کوشش کر رہا ہوں یہ ہستی جو ”خود پرستی“ کے ہر شاہے سے پاک، عجز و انکساری میں ڈھلی ہوئی ”بے ضرر اور مکمل نفع بخشی“ کے منشور پر گامزن..... جو لوگ آپ کے ”کل“ سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شخصیت جو آج بلاشبہ ایک گھنے سایہ دار تر بخش درخت کی صورت نظر آ رہی ہے اس کا ”کل“ کتنے گھمبیر تاؤں سے گزرا، مسلسل ہجرت، مخالفتوں کی آندھیاں، عداوتوں کے طوفان، کون سا جاں گسل حادثہ تھا جو اس ”بے ضرر“ جان پہ نہ گزرا! لیکن صدقے اس کرم گستر ماں کرم بی بی کے جس نے اس کو نپیل کو ہر حادثے، ہر سانحہ اور خطرے سے دعاؤں کی باڑ کے ساتھ محفوظ رکھ کر یوں پروان چڑھایا کہ آج بڑے بڑے ”قد آور“ اس کے زیر سایہ آ کر اپنا ”قد بڑھاتے“ ہیں۔ اس شجر سایہ دار کا اس عالم ہست و بود میں ورود مسعود 1939ء میں ہوا۔

عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز سینے والے حافظ وقاری میاں مستقیم رحمۃ اللہ علیہ کے وارث و جانشین کی ولادت بھی تعجب انگیز ہے کہ والد میاں عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت میں ہیں مگر کسی ”کرم“ کے منتظر، اور جب ”آغوشِ کرم وا“ ہوئی تو فداکارانہ اداؤں سے رونق افروز آغوشِ مادر ہوئے.....

مادرِ گرامی! سبحان اللہ، کیا شانِ توکل رکھتی ہیں کہ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اپنی سوتن (بے اولادی کے باعث جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے سائے سے بھی بچاتے تھے) کی گود میں یہ کہہ کر ڈال دیا کہ یہ بچہ آپ ہی کا ہے، گاؤں بھر کے لوگوں نے ایسا کرنے کو بچے کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دیا مگر اس کرمانوالی بھاگاں بھری ماں کے جذبہٴ صادقہ کو کوئی خوفزدہ نہ کر سکا..... بچے کو رضاعی ماں نے جب دودھ دینا چاہا ہوگا اس وقت مثالی کردار کی حامل خاتون نے اپنے رب سے اپنی سوتن کے لیے ضرور دعا کی ہوگی کہ یا اللہ! تو مُردے زندہ کرنے والا مہربان مالک ہے، سائیاں! میری اس بہن کی امید کی کھیتی بھی ہری بھری کر دے، اور شاید یہ شیرخوار بھی اپنی ماں کا دودھ منہ میں لینے سے پہلے بارگاہِ الہی میں التجائیہ نظروں سے مالک سے کچھ مانگ رہا ہوگا اور اپنی والدہ محترمہ کی دل کی دھڑکنوں سے اس کے دل کی دھڑکنیں بھی ہم آہنگ ہو گئی ہوں گی۔ اور پھر اس سڑے نصیباں والی، منحوس سمجھی جانے والی، ناامیدی کی کسی گہری کھائی میں گری پڑی ماں پر اللہ الباری الخالق کے کرم کی برکھا کچھ ایسی برسی کہ اس کی سوکھی کوکھ بھی ہری ہو گئی..... یہ دو ماؤں کا دودھ پینے والا..... جس نے شیرخوارگی کا حق ادا کر دیا، جسمانی طور پر تو پہلوان نہیں مگر یہ منحنی ساء، پیارا ساء، سانولا پھیلا، سلطنتِ وفا کا تاجور ضرور بن گیا۔

شیرِ مادر تھا یا شرابِ کہن
جس کا ہے یہ خمار آنکھوں میں

جس کو یقین نہ آئے ایک بار میل کے دیکھ لے، دانشوروں میں ایک ذہین
مشیر ورہبر، بزرگوں اور ہم رتبہ احباب میں مضبوط و قابل بھروسہ دوست، جوانوں
کو زندگی کے گر سکھانے، سمجھانے والے رہنما اور بچوں میں ایک معصوم اور بھولا سا
ٹافیاں بانٹتا ہجولی.....

ماجھے کے علاقے کے جاٹ (جنہیں راجپوتوں نے اپنے خاندان سے
خارج کر دیا تھا) غیور، بہادر اور سورما مشہور ہیں۔ طبیعت میں خاص قسم کی شوخی،
اور احساسِ تفاخر، کہ اپنی بات پہ اڑ جانا..... یہ ماجھے کے جاٹوں کی خصوصیات میں
سے ہیں مگر حیرت اس وقت ہوئی جب پتا چلا کہ آپ بھی خیر سے جاٹ نسل سے
تعلق رکھتے ہیں..... سچی بات یہ ہے کہ دیر تک یقین نہیں آیا مگر یہ کوئی بھارتی
مہاجر تو نہیں ہیں کہ ان کے اگلوں پچھلوں کا پتہ نہ چل سکے۔ شرقپور شریف کے
علاقے میں ان کا آبائی ہی نہیں بلکہ جدی پشتی گاؤں فتو والا اور ملتان روڈ پر واقع
گاؤں جلیانہ نزد چوہنگ ان کی جنم بھومی ہے۔ اور امامیہ کالونی سے مسن کالر کے
درمیان رنگیاں جنگلیاں ان کا مسکن رہا ہے..... اب سوائے یقین کر لینے کے چارہ
نہیں مگر حسین لمحوں کے تراشے اس ہیرے کی شرافت، نجابت، درویشی، فقر،
استغنا، للہیت، اخلاص، ہمدردی، خیر خواہی..... اس کے باوجود کہ آپ مستند عالم ہی
نہیں بدرجہ سند دینی شخصیت کے مالک، قابل رشک مدرس، ہردلعزیز، مسایہ،
شاگردوں میں بحیثیت مرشد و مربی، پُر درد خطیب، دوستوں کے لیے بہترین مشیر و
معاون..... یہ ساری باتیں ان کے نام سے منسلک ناقابل ترمیم و تہنیک حوالہ و
نسبت ”چشتی“ سے روز روشن سے زیادہ عیاں ہو گئیں کہ یہ چشتی گھاٹ سے پائی
پلائے ہوئے ہیں۔

بندۂ عشقِ خداوندی نسبتاً نسبتاً جانی

کہ دریں را فداں این فلال چہرے نیست

تو پھر کہاں کا جاٹ اور کہاں کا راجپوت، جب حضرت عشق بسیرا کرتا ہے تو سب جھوٹے بانے اتر جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے اب خود دار تو ضرور ہیں مگر خود سر نہیں، سرفراز تو ہیں مگر گردن میں غرور نسب کا سر یا نہیں۔

عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر، زود نویس مصنف، پُر مغز نعت گو شاعر، محقق مترجم اور مفسر ہیں، متعدد فلاحی، تعلیمی، اصلاحی اور رفاہ عامہ کے اداروں کے بانی، سربراہ و سرپرست اور روح رواں ہیں۔ مداحوں کی تعریف و توصیف، دشنام طرازوں کی شامت سے بے نیاز، تعریف سن کر غبارہ اور تنقید سے انگارہ نہیں ہاتے..... کوئی کڑو فرزند نہ طمطراق، حسبِ وقبہ، عجب نہ کبر، کوئی ہاؤ ہونہ غل غپاڑہ، ہٹو بچوں کے ڈونگرے نہ تکلفِ استقبال، ان سب چیزوں سے بے نیاز بس سوئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نیاز مند و خوش قسمت ہیں..... وہ، ادارے کا سربراہ، بانی یا سرپرست، وہ، اولاد جس کی نسبت ولدیت، وہ، بستی جس کی گلی کے مکین، وہ دوست جن کے قابلِ اعتماد و اعتبار دوست کا نام حضرت علامہ عبدالحق ظفر چشتی زیدہ مجدد ہے۔

اور میں اس خوش گمانی میں خوش ہوں کہ میں ان کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہوں۔ ان کی شخصیت پر چند سطریں بے معنی سی ہیں پوری مفصل کتاب کی ضرورت ہے۔

مفتی ضیاء الحیب صابری

ملتان روڈ، لاہور

خاک کے ذروں کی حضور سے محبت

حکم کو ماننا، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بادل نحو استہ، ٹوٹے دل کے ساتھ، ایسی تسلیم، سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہوتی ہے۔ سر سے بوجھ اتراسکھ کا سانس لیا۔ جان چھوٹی، ایسی تسلیم میں، مجبوریاں، مقہوریاں اور بے چارگیاں اصل عامل ہوتی ہیں۔ ڈنڈا، تلوار اور جان جانے کا خوف یا کسی طمع و لالچ کی حرص یا کسی مجبوری اور لاچارگی کی کیفیت، حکم ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ڈنڈا اور تلوار ٹوٹی، تسلیم کی خوبی ختم، طمع و لالچ اور حرص پوری ہوگئی تو پھر تو کون اور میں کون، مجبوری، مقہورگی اور لاچارگی ختم ہوئی تو تعلقات کی کچی ذوری، کچے دھماگے کی مانند ٹوٹ پھوٹ گئی۔

حکم ماننے کا دوسرا انداز، اس کی ترجمانی کیلئے، حروف کہاں سے لاؤں، ان کو الفاظ کا جامہ کیسے پہناؤں، جذباتِ دروں کی دھڑکنیں کیسے گنوں، نہ کوئی پیمانہ ایجاد ہوا، نہ تھرمامیٹر

آئیے! خاک کے ذروں سے پوچھتے ہیں کہ خاک کے ذرو! ہم نے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے اور قرآن مقدس سورہ انفال کی آیہ مبارکہ نمبر ۱۷ اس پر اپنی گواہی ثبت کرتی ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہ تم نے اے مسلمانوں ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

جب آپ خود کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ تو نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ خود پھینک رہا تھا۔ یہ کنکریاں پھینکنا، ہجرت کی رات، غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں واقع ہوا تم تو ان کے ہاتھوں کے لمس کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اس وقت تمہارا اپنا عالم کیا تھا۔

خاک کے ذروں نے زبان حال سے کیفیات بیان کرتے ہوئے یہ راز افشا کیا کہ ہجرت کی رات تو صرف سات آدمی تھے۔ حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، ابوالہیثم اور ابو جہل، اس وقت ساتوں دشمنی محبوب خدا میں جل رہے تھے۔ اپنی زبانوں سے زہر بھرے الفاظ کے تیر تمسخر کے طور پر پھینک رہے تھے۔ گویا غصے میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ابو جہل کہہ رہا تھا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہتا ہے اگر ہم اس کی اطاعت اختیار کر لیں تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے اور مرنے کے بعد جب ہمیں زندہ کیا جائے گا تو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جو اردن کے باغات سے کہیں زیادہ سرسبز و شاداب ہوں گے اور اگر ہم اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جائے گا اور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کئے جائیں گے تو جہنم کے بھڑکتے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے زوردار تمسخر آمیز قہقہہ لگایا۔

کہ اچانک ہمارے آقا، ہماری جان، ہمارا ایمان، حلم و بردباری کا پیکر عظیم مستقبل کی ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کا شانہ اقدس سے باہر نکلے اور فرمایا: اَنَا اَقُولُ ذَلِكَ اَنْتَ اَحَدُهُمْ ہاں! میں نے ایسے ہی کہا ہے اور ان میں سے ایک تم بھی ہو۔

اس نے میں ہمارے وقت کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں سے ان کے دروں کو اپنی آغوش میں لیا

اور ایسا لیا کہ ہماری جان میں جان آگئی۔

آپ نے سورۃ یسین کی مقدس آیہ مبارکہ پڑھی:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَعْيَنَهُمْ فَأَنْكَبُوا ۝

یعنی ہم نے بنا دی ہے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے عقب میں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے لہذا وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔

یہ پڑھ کر ہم پر دم کر دیا اور ان کی طرف پھینک دیا۔ ہم تو اپنے مالک کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کو ماننے والے تھے بلکہ ان کی ہر بات ماننے والے تھے۔ ہمیں علم ہو گیا تھا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا دشمن منتخب کر لیا۔ اس کے ذہن، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی بینائی پر قبضہ کر لیا۔ ہم میں سے ہر ایک ایک ذرہ کہہ رہا تھا اے دورِ حاضر کے دانشور! تمہارے سروں پر نامرادی کی خاک جس کا منہ جس طرف بھی تھا۔ ہم اسی طرف سے ہو کر ان کی آنکھوں کے پوٹوں کے اندر تک پہنچ گئے۔

غزوہ بدر میں ایک ہزار دشمن رسول تھا۔ اس وقت ہمیں ہجرت کی شب کی نسبت کچھ زیادہ محنت کرنی پڑی لیکن کسی دشمن رسول کو ہم نے چھوڑا نہیں۔ خواہ کسی کی آنکھ بند تھی یا کھلی تھی، کسی کا منہ ادھر، کسی کا منہ ادھر، کوئی بیٹھا تھا تو کوئی کھڑا تھا، ہم ہر ایک کی آنکھ کے اندر گھس گئے اور ان کی آنکھوں سے قوتِ بینائی اس وقت تک سلب کر لی جب تک خالق ارض و سما نے چاہا۔

یہی کیفیت غزوہ حنین کی بھی تھی۔ بس کچھ نہ پوچھ۔ اُن کئی ہزار مشرکوں تک پہنچنا تھا اور ہم پہنچ گئے۔ کہتے ہیں محبتِ محبت کو اندھا کر دیتی ہے یعنی نفع و نقصان کو ناپنے والے پیمانے دیکھے نہیں جاسکتے۔ البتہ دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تک پہنچنے کے لئے ہمیں ایسی بینائی مل گئی جو کسی اور کے حصہ میں کہاں نصیب ہو گی۔

غزوہ حنین میں جب غضب کا رن پڑا۔ تو جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا چچا جان! مجھے ایک مٹھی کنکروں کی دیں۔ یہ سننا تھا کہ حضور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری دراز گوش، گدھا خود ہی اتنا نیچے جھک گیا کہ اس کا پیٹ زمین کے ساتھ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی مٹھی ہم خاک کے ذروں سے بھری اور زبان پاک سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے:

شَاهَةِ الْوُجُوهُ حَمٍ لَا يُنْصَرُونَ

دشمنوں کے چہرے بدنما ہو جائیں۔ حم ان کی کبھی مدد نہ کی جائے گی۔ ہماری قسمت جاگی ہم بے جان سرکار کے سپاہی، محبت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار میدانِ کارزار میں کود پڑے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمنانِ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں بھی تھے اور جدھر جدھر بکھرے ہوئے تھے ہم ان کی آنکھوں کے پوٹوں کے اندر تک گھس گئے اور ان بے بصیرت لوگوں سے ان کی بصارت بھی چھین لی۔ یہ اسی حسین لمحے کی حسین یادوں کا تذکرہ ہے کہ خالق و مالک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰىكَ اے جانِ کائنات! جب آپ کنکر پھینک رہے تھے۔ اس وقت آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ خود اللہ تعالیٰ پھینک رہا تھا۔

میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ
جس سے اتنے کافروں کا دفعۂ منہ پھر گیا

وفدِ کندہ اور خاک کے ذرے

میں نے ایک بات اور پوچھی، غزوہ تبوک کی کامیاب رجعت کے بعد جان

کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جب وفد آنے لگے تو ان وفد میں سے ایک وفد، وفد کندہ کے حوالہ سے بھی تمہارا ایک واقعہ تاریخ نے رقم کیا ہے۔ ذرا وہ واقعہ سنا سکتے ہو۔

تو خاک کے ذرے جھوم جھوم گئے کہنے لگے واہ خوب یاد کرایا۔ کندہ یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے جو اپنے دادا کندہ کے نام سے موسوم و منسوب ہے۔ ان کے دادا کا نام ”نور بن عفیر“ تھا اور ”کندہ“ اس کا لقب تھا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دادی جان اسی قبیلہ کی ایک خاتون تھیں جو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کلاب کی امی جان تھیں۔ یہ وفد کندہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو ان کی تعداد اسی تھی یا ساٹھ، کوئی صحیح طریقہ سے یاد نہیں پڑتا، البتہ ساٹھ سے کم نہ تھی۔

اس وفد میں ایک شخص بڑا ہی حسین و جمیل، خوبصورت اور بیہبہہ شکل و جثہ تھا۔ اس کا نام اشعث بن قیس تھا۔ اگرچہ ابھی کم عمر اور کم سن تھا لیکن اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے سارا قبیلہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کی ہر بات مانتا تھا۔

جب وہ بارگاہِ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے لگے تو اس نے خوب تیاری کی۔ نہا دھو کر کنگھی سرمہ کیا۔ زلفوں کو سنوارا، خوشبو لگائی۔ خوبصورت اور قیمتی لباس زیب تن کیا جس کے کنارے ریشمی کپڑے سے سجے سجائے ہوئے تھے۔ حیرہ کے بنے ہوئے جتے زیب تن کئے یہ وہ جبے تھے۔ جو وہ بادشاہوں اور سلاطین کو پیش کرتے یا ان کے درباروں میں پہن کر جاتے۔

جب یہ حاضر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق بادشاہوں کو پیش کیا جانے والا سلام پیش کیا۔ اَبَيْتِ الْاَمْرِ
تو پیکر سادگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ یا سلطان نہیں ہوں

میں تو محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو آپ کے نام سے بلانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اپنا کوئی لقب ارشاد فرمائیں۔ ہم اس لقب سے آپ کو یاد کریں تو آپ نے فرمایا میں ابوالقاسم ہوں۔

آپ تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہم خاک کے ذرے آپ لوگوں کے قدموں کی دھول، نہ جانے آپ کی محفل میں بیٹھنے، شرفِ انسانیت سے نوازے جانے والے لوگ، اس سارے واقعہ کو کس رنگ میں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے تو سامنے جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا جب کوئی وفد آتا تو ہم جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بچھ بچھ جاتے۔ جب آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم فرمائی تو سچ پوچھئے۔ ہماری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر قاسم رضی اللہ عنہ جو دو اڑھائی سال ہی کی عمر میں وصال فرما گئے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اُمّ المؤمنین ہونے کا سب سے پہلا شرف پانے والی اور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی بھی آپ کو اسی کنیت سے یاد فرمایا کرتی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے آپ کو یہ کنیت بہت محبوب تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کو وصال فرمائے کئی سال ہو گئے۔ اعلانِ نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے لیکن آپ اس کنیت کو بھولے نہیں۔ اپنے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں، جاں نثاروں کو ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

اپنے بچوں کا نام قاسم رکھ لو لیکن ان کی نسبت سے ابوالقاسم کنیت استعمال نہ کرنا۔

یہ بات درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آگئی۔ جذباتِ محبت سے مغلوب ہو گئے۔ معذرت چاہتے ہیں آئیے اصل واقعہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ویسے اس واقعہ کے سحر سے باہر ہم نکلے ہی کب تھے۔

اشعث نے کہا اے ابوالقاسم! ہم نے اپنے دامن میں ایک چیز چھپا رکھی

ہے۔ بتائیے وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ باتیں تو جادو گروں سے پوچھی جاتی ہیں۔ ہم جادو گر نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لو ایسا کر لیتے ہیں۔ میں یہ خاک کے ذرے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ یہ گواہی دیں گے کہ ہم کون ہیں۔

آپ نے یہ فرمایا اور ہماری قسمت جاگ گئی۔ زمین پہ بچھے لاکھوں کروڑوں ذروں کی تمنا اور چاہت تھی کہ حضور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس ہمیں نصیب ہو اور ہم آپ کی گواہی دیں لیکن یہ تو نصیب نصیب کی بات ہے۔ جن کی مٹھی میں ساری کائنات کا نظام تھا۔ انہوں نے ایک مٹھی ہم ذروں سے بھری اور ہم واشگاف الفاظ میں۔ آپ کے رب کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کے گیت گانے لگے۔ یوں تو کوئی ذرہ ایسا نہیں جو کسی بھی لمحے اپنے مالک کی تسبیح سے غافل ہو۔ البتہ اس دن تو جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں ہمیں ایسی زبان بھی بخش دی گئی جس کو انسان بھی سمجھ سکتے ہیں۔

ہماری شہادت کی کیفیت، اس وفد پر کچھ ایسی طاری ہوئی کہ وہ بھی سب کے سب بیک زبان ہو کر پکارنے لگے۔

نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

جانِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ایک کتاب سے نوازا ہے۔ وہ کتاب ایسی ہے جس میں باطل کسی بھی سمت سے گھس نہیں سکتا۔

انہوں نے کہا اس میں سے ہمیں بھی کچھ سنائیے تو معلم جن وانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ والصفات کی یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔

وَالصَّفَاتِ صَفًّا ۝ فَالزُّجْرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّلِيَّتِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ

إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

المَشَارِقِ ۰

قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی پھر ذکر الہی (یا قرآن مجید) کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو (مخلوق) ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے اور طلوعِ آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔

آپ کی زبان مبارک آیاتِ مبارکہ کی تلاوت کر رہی تھی اور چشمِ مازاغ کے کٹورے موتیوں سے بھر رہے تھے۔ سبحان اللہ! کیا روح پرور نظارہ تھا۔ آپ صرف ہماری زبانِ بے زبانی سے سن تو سکتے ہیں لیکن وہ سماں جو ہماری آنکھوں کے سامنے بندھا ہوا تھا ہم اس کا نقشہ کھینچ نہیں سکتے۔ رحمت کے ان انمول قطروں نے کئی دلوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کر دیا اور ماحول کو رشکِ فردوس بریں بنا دیا اور کتنی ہی روحوں کو حیاتِ جاوداں عطا فرمادی تم لوگ ذرا آنکھیں بند کرو۔ عشاقانِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانفروزی پر اچھتی نظر ڈالو اور سحر آفریں کیفیت میں ڈوب جاؤ۔

ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو گا

باقی ہم نے تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لئے واحد یہی راستہ تلاش کیا ہوا ہے کہ اس کے محبوب کے ہو کر رہو۔ اس کی شان و مرتبہ پہچانو۔ اس کی عظمت و رفعت کو مانو پھر اس کے ہر حکم کو مانو۔

انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام

لہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا

اے جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے لمس کا شرف

حاصل کرنے والے خاک کے ذرّوں، تمہاری جان پہچان اور تمہارے ایمان اور تسلیم کے قربان، کوئی اور واقعہ سناؤ جس سے میرا ایمان اور تازہ ہو جائے۔

کچھ ذکر یار کر اے دوست
اس حکایت سے جی بہلتا ہے

خاک کے ذرّے مجھ سے گویا ہوئے۔ ہماری گفتگو، ہماری بات، جواب ہم کرنے والے ہیں۔ اس کا تذکرہ جمیل، جلیل القدر محدثین امام بیہقی، بزار طبرانی اور ابن عساکر میں موجود ہے۔ یہ تیرے آباء کی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک ایک سطر میں ایسے ہزاروں واقعات، حقائق اور چشم دید نظائر محفوظ ہیں۔ پڑھا کر، تیری نظر اور ایمان خیرہ نہ ہو تو ہمارا گریبان حاضر ہے۔

کنکروں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

یہ کہانی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود سنائی۔ اس کہانی کے گواہ خود انس رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ ہاں ہاں وہی خادم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جن کو تقریباً دس سال تک آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہے اور وہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملنے والی دعاؤں کی پھوار سے اکثر بھگے رہتے تھے۔

آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بار جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت تنہا آرام فرماتے دیکھا اور میں اکثر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا کہ آپ کی خلوت عالی شان کے چند لمحات کی ارزانی نصیب ہو۔ میں نے دیکھا کہ آپ پر نزول وحی الہی کے آثار ہیں اور اس وقت آپ کے پاس کوئی اور شخص بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اذن حضوری طلب کیا۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کیسے آنا ہوا عرض گزار ہوا کریم و مہربان! صرف آپ کی چاہت کھینچ لائی ہے۔ میں یہ تو نہ کہہ سکا لیکن جذبات کچھ ایسے ہی تھے جن سے نڈھال میں حاضر

ہوا تھا۔

میں اک عاشق نو پچھیا، جے رب چھپے تے کی منگاں

تے اُس عاشق نے فرمایا، زیارتِ مصطفیٰ دی اے

ارشاد ہوا بیٹھو! اور میں باادب بیٹھ گیا اور خاموشی اختیار کر لی۔

مجھے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آ

حاضر ہوئے اور اذنِ حضوری طلب فرمایا۔ آپ جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا خیر باشد کیسے آنا ہوا۔ ان کا بھی وہی جواب تھا

جو میں نے عرض کیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ حضور جان

ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا۔ آپ اس پر تشریف

فرما ہوئے اور انہوں نے بھی ادباً سکوت اختیار فرمایا۔

ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جن کے سایہ سے بھی شیطان لعین ڈرتا ہے۔ یعنی

حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آ حاضر ہوئے اور اجازت

طلب کی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذنِ حضوری بخشا اور فرمایا کیسے

آنا ہوا۔ عرض کیا حضور آپ کی محبت ہی کھینچ لائی ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ حضرت

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے جیسے ہم خاموش بیٹھے تھے وہ

اسی طرح خاموشی سے بیٹھ گئے۔

خدا کی شان دیکھئے۔ اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ حاضر

ہوئے۔ اجازت طلب کی۔ وہی سوال ہوا اور وہی جواب۔ آپ نے بیٹھنے کا اشارہ

فرمایا اور وہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک پہلو میں بیٹھ گئے۔

یہ وہ قدسیوں کی جماعت تھی جن کے تقدس کا خمیر ویز تکبہ کی مسند پر بیٹھنے

والے مز کی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھوندا تھا۔ ذرا تصور کیجئے۔ وہ ذاتِ

عظیم، جس کا سوتے میں بھی وضو نہ ٹوٹتا ہو۔ اس کی اپنی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔

اسی نے ان ہستیوں کو ایسی پاکیزگی بخش دی تھی کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔

اسی اثناء میں جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں سے چند کنکریاں اٹھائیں۔ ان کی تعداد سات یا نو تھی۔ ان کو ہاتھ میں لیا تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنے لگیں۔ اگرچہ ان مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو اپنے مالک و خالق کی تسبیح سے ایک لمحہ بھی غافل و فارغ ہو لیکن ہر چیز کی تسبیح یا خالق و مالک جانے یا اس کی طرف سے جو ساری کائنات کے لئے نمائندہ بن کر آیا ہو، وہ جانے۔ یہ تو میر محفل کا فیضان تھا کہ وہ خود تو ان کی تسبیح سن ہی رہا تھا۔ اس نے اپنی محفل میں بیٹھنے والے نفوس قدسیہ کے کانوں کے پردے بھی کھول دیئے اور وہ بھی تسبیح سننے لگے۔ ان کی تسبیح کی آواز ایسی تھی جیسے شہد کی ٹھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ

کچھ دیر بعد آپ نے کنکریاں زمین پر رکھ دیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ شاید يَدُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَآلَهُ يَوْمَئِذٍ عَالِمٌ لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور فرحت و انبساط کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ نکلنے لگا ہو۔

آپ نے ان کنکریوں کو پھر اٹھایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ ان کی خاموشی کے بندھن پھر ٹوٹ گئے اور وہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے لگیں اور شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی صورت آواز آنے لگی۔ ان سے لے کر حضور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زمین پر رکھ دیا۔ وہ کنکریاں خاموش ہو گئیں۔ آپ نے پھر اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ ان کی تسبیح پھر جاری ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ سلسلہ تسبیح و تحمید جاری رہا۔ اور جب وہ کنکریاں میرے ہاتھ میں آئیں تو ان کی تسبیح کی آواز بند ہو گئی۔

آپ یہ ساری خوبصورت اور ایمان افروز کہانی زینی دھلان میں السیرۃ النبویہ جلد ۳ صفحہ ۱۲۸ پر خود پڑھ سکتے ہیں۔

کہانی آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنی جس کے وہ چشم دید گواہ ہیں لیکن ہم اپنی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جب سید لولاک لما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے دست مبارک میں لیتے۔ ہماری سرشاری محبت میں جان پڑ جاتی۔ ہمیں یہ احساس ہو جاتا تھا کہ یہ ہاتھ وہی ہاتھ ہیں جن کو ہمارے خالق و مالک نے ید اللہ کا لقب مرحمت فرمایا ہوا ہے۔ یہ ید اللہ کی شان والے دست ہائے مبارک ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیتے تو آپ نے دنیا کے سب کے سچے انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا پس خوردہ کھانے والے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سن ہی لیا ہے۔ آئیے ہم سب زبانِ حال سے اعتراف کا اظہار کر کے اپنے ایمان مزید مضبوط کر لیں۔

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

آپ البتہ ایک بات یاد رکھیں آنکھ ہوتی تو دیکھنے ہی کیلئے ہے لیکن انسان اور حیوان کی آنکھ، اکثر دیکھنے میں دھوکا کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کائنات میں ہر چیز کو جو آنکھ نصیب ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ وہ دریائے نیل کا پانی ہو یا بیضا یعنی دست موسیٰ علیہ السلام میں آنے والا عصا ہو۔ وہ استن حنانہ ہو یا کنکریاں جب ان کو اظہار سرشاری محبت کا اشارہ ملتا ہے تو ایسے ایسے گل کھلاتے ہیں کہ دیکھنے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اسی قبیلہ کے لوگ ہیں۔ ہماری نگاہیں مالک کے اس احسان کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتیں۔ ہم تو جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں بے ساختہ ہماری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔

جس پر ہوئے تمام مراتب کمال کے
اے جانِ کائنات وہ تنہا تمہی تو ہو

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

اللہ تعالیٰ کی اربوں کھربوں پدموں اور سنکھوں سے کہیں زیادہ مخلوق ہے۔
ان میں ایسے انسان بھی ہیں جن سے انسانیت کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے۔
ایسے بھی ہیں جو جنگ انسانیت ہیں۔ ایسے بھی جو عتابِ الہی کے سزاوار ہیں۔
مشرک ہیں کافر ہیں۔ بے ایمان ہیں، ہمارے خالق و مالک پروردگار کی مخلوق ہو
کر بھی غیروں کی جھولی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو جو ہمارے کریم پروردگار کے
دشمن کے ساتھ ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ہمارا ان سے کیا واسطہ، ان کا زمین
پر چلنا پھرنا تو چلو ہم گوارا کر لیتے ہیں لیکن جب دنیا والے انہیں ہمارے سپرد
کرتے ہیں پھر تو ہم ان کی ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں۔ ان کے جسم کے ایک ایک
انگ کا بھر کس نکال دیتے ہیں۔ ہم خاک کے ذرے سہی لیکن ہم اپنے مالک کے
ادنی سپاہی ہیں۔ کوئی دشمن خدا اور رسول ہمارے اڈے چڑھ جائے ہم اس کے
وجود کا نشان بھی ختم کر دیتے ہیں۔

لیکن اگر کوئی ہماری پارٹی کا بندہ آجائے تو پھر اس کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے
ہیں۔ اس کے جسم کی بات نہ کرو۔ ہم اس کے پہنے ہوئے نئے لباس کفن پر بھی کوئی
آنچ نہیں آنے دیتے۔ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر ہمارے آقا کا غلام
ہے۔ ہماری پارٹی کا بندہ ہے۔ ہمارا تحریکی بھائی ہے۔ ہم اس کی حفاظت کرتے
ہیں اس کو جتنا سکون ہماری قبر کی گود میں آکر ملتا ہے اتنا تو شاید انہیں دنیا میں ماں
کی گود میں بھی نہ ملا ہوگا۔

اگر ان نیک انسانوں میں سے کوئی ان کا امام، سردار، آقا، رہبر، نبی
تشریف لے آئے تو پھر تو ہماری مسرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے ان

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار کا فرمان نہیں سنا۔ ابو داؤد شریف نے ان کی زبان مبارک سے نکلے حروف تک کو ڈیڑھ ہزار سال سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تَهَانِ اللّٰهَ حَرَمَ عَلٰی الْاَرْضِ اَنْ تَاْكَلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ کہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیدیا ہے۔ انسان تو شاید حرام و حلال کی تمیز نہ کرتا ہو، ہم تو ایک لمحہ بھی اپنے مالک کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے اور نہ اپنے مالک کے حکم سے ذرہ بھر سرتابی کر سکتے ہیں۔

یہ ہم خاک کے ذروں کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی یا اس کے پاک نبی کا کوئی وفادار غلام ہمارے سپرد کر دیا جائے تو ہم تا قیامت اس امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ ان کی حفاظت ایسا کرتے ہیں کہ جب کبھی یہ راز کسی طرح افشا ہو جائے۔ تو اہل دنیا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ہم اس احسان عظیم کا جتنا بھی شکر یہ ادا کریں کم ہے۔

نَحْنُ بَايَعُوْكُمْ حَمْدًا

ہم نے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بیعت قیامت تک نبھائیں گے
انشاء اللہ

حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم
وہ ملیح دل آراء ہمارا نبی

خاکِ شفا

یو بات ان کا ہر انداز ہی ہمارے لئے فرحت و انبساط کی بہار جانہ راء ہے۔
سپ کو خبر ہے اس محسن اعظم اس جان کائنات، اس شاہسوار قلوب اہل دل صلی اللہ
ملیہ وآلہ وسلم نے ہم پر ایک اور احسان فرمایا ہے کہ اپنے شہر مقدس کی ایک خاص

مٹی کو خاکِ شفا کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پاک جم غفیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔

نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے
اٹھالے جائے تھوڑی خاک اُن کے آستانے سے
یہ تو ان کا کرم ہے۔ ورنہ بھلا مٹی میں بھی کبھی شفا ہوئی ہے۔

فرخا شہرے کہ تو بودی درآں
اے خنک خاکے کہ آسودی درآں

اے لوگو! ہماری قسمت کو سراہو۔ ہم خاک نشیں خاک کے ذرے مٹی کے، زمین کے، بالکل نیچے والی تہہ کے ذرے اور عرش کے دولہا، رفعت و عظمت ہفت آسماں کے منفرد اسلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیام قیامت ہمارا مہمان ہونا پسند فرمایا جب سے اب تک اور اب سے طلوع قیامت تک وہ ہمارے ہی مہمان ہیں۔ ان کی مہمانی کے فیوض و برکات کا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک تو جہاں آپ اکثر خطبہ فرمایا کرتے تھے اور ایک وہ جگہ جہاں آپ نے آرام فرمایا۔ اس کو جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا قرار دیا گیا چونکہ وہ خود مقنن ہیں۔ قانون بنانے والے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے ہمیں یہ اعزاز بخش دیا ورنہ کہاں دنیا اور کہاں جنت۔

قدسیوں کی جماعت ہماری مہمان

ہمیں تو اپنے کریم کی کرم نوازیوں کی بلائیں لینے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ البتہ گا ہے گا ہے صبح و شام احساس ہوتا ہے کہ قدسیوں کی ایک کثیر تعداد صبح اور شام آتی ہے اور صبح تا شام اور شام تا صبح تسبیح و تہلیل میں صرف کرتی ہے۔ قدسیوں کی جماعت کی تسبیح و تہلیل کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ سنا ہے کہ آتے ہوئے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی پہلی اور آخری حاضری ہے۔ وہ بھی نصف دن کی

حاضری، صلوٰۃ و سلام ادب و نیاز میں اپنی حسرت پوری کر لینا پھر دوبارہ قیامت تک تمہیں حاضری کا شرف نہیں ملنے کا۔

ہم خاک کے ذروں نے لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلتے بارہا سنے ہیں۔

نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے

زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

زمین پر عرش الہی

اس لئے اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ دنیا میں زمین پر عرش الہی کہاں ہے تو تم بے ساختہ پکار اٹھنا، مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنۃ کے بالکل بائیں پہلو میں۔ کہ دل ہمیشہ بائیں پہلو ہی میں ہوتا ہے۔

تو پھر دنیا میں کیا تھا دیکھنے کو

نظر مانگو وہ جلوہ دیکھنے کو

چلو کعبے کا کعبہ دیکھنے کو

تڑپتا ہے دوبارہ دیکھنے کو

اگر طیبہ نہ ہوتا دیکھنے کو

نہ لپکو ہر تماشہ دیکھنے کو

اگر تکمیل حج کی چاہتے ہو

وہ جس نے دیکھا ہے اک بار طیبہ

(بلال جعفری رحمۃ اللہ علیہ)

مزدلفہ کے پتھر

اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب آپ میدان عرفات سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتے ہوئے بھی مغرب کی نماز ادا کئے بغیر مزدلفہ کی طرف جلدی جلدی چل دیتے ہیں شاید اس میں یہی راز پوشیدہ ہو کہ وہاں مزدلفہ میں ہم کنکروں کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے۔ وہ آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ ہر حاجی

جب میدانِ عرفات میں اپنی ساری زندگی کی خطاؤں کی غلاظت سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ آج ہی پاک و صاف اور مزکی و منقی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ساری زندگی جس نے ہر انسان کو گناہوں کی دلدل سے آلودہ کیا تھا وہ بدترین دشمن انسانیت شیطان کا مجسمہ بھی وہیں قرب ترین بستی میں گڑا ہوا ہے۔ ہم پاک و صاف بندہ مومن، جو ہماری پارٹی کا فرد بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو ترس رہے ہوتے ہیں اور ایک سال کے تین سو پینسٹھ دن کے انتظار سے ہماری آنکھیں پتھرا چکی ہوتی ہیں۔

یوں تو یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے لیکن ہے سچی کہ سچے لوگوں کی زبانی ہم تک پہنچی ہے۔ اس شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں حزب اللہ کے عظیم ذمہ داروں کو مالک کی راہ میں فداکاری کی راہ چلتے چلتے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اسے پتھر مار مار بھگا دیا تھا۔ بس ان پتھروں کا ایک قبیلہ یہیں مزدلفہ میں آکر آباد ہو گیا۔ اس قبیلہ کی نسل اتنی بڑھی کہ آج اگر تیس لاکھ انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور ہر انسان ستر ستر اسی کنکریاں ایک ہی سائز کی چننا چاہے تو کبھی کوئی ایک بندہ بھی مایوس نہ ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ تینوں عظیم انسان ایک ہی گھر کے فرد تھے اور ہمارے مالک و خالق کے انتہائی فرمانبردار، ہم پتھروں، کنکروں اور خاک کے ذروں کا ہر فرد انہیں اور ان کی تسلیم و رضا کو خوب خوب جانتا ہے، پہچانتا ہے اور ان کی عظمت کو مانتا ہے۔ تسلیم کرتا ہے سارے زمانے میں۔ ان کی عظمت کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہماری دھوم مچی ہوئی ہے۔ خانہ نعبہ کی ایک دیوار میں، ایک کالا کلوٹا پتھر ہے پتہ نہیں۔ اس کا اصل نام کیا تھا۔ اس کے کالے کلوٹے ہونے کی وجہ سے ہی اس کا نام حجر اسود پڑ گیا ہے۔ اس نے بھی

اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میرا یہ نام کیوں رکھ دیا ہے۔ پس اس کی اسی خونے اپنے بزرگوں کے احترام کی خونے اسے زمانے بھر کا مخدوم کر دیا ہے جو بھی اس کے محلے میں آتا ہے وہ اس کو چومنا اپنی عبادت سمجھتا ہے۔

خانہ کعبہ کے دروازہ کے عین سامنے ایک اور پتھر ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لمس کو اپنے انگ انگ میں سمولیا ہے۔ مالک نے اس کو مقام ابراہیم کا نام دیکر سجدوں کا مرکز بنا دیا ہے۔

اس کے قریب ہی دو سوکھی سڑی پہاڑیاں ہیں لیکن سیدہ ہاجرہ کے قدموں کی آمد سے ہزاروں سال سے بہاروں میں نہا رہی ہیں۔

گویا ہم سب اور ہمارے قبیلے کے تمام پتھر، کنکر اور تمام خاک کے ذرے ان عظیم ہستیوں کو خوب خوب جانتے ہیں۔ مزدلفہ میں ہم اربوں، کھربوں اور پدموں سنکھوں کی تعداد میں تمام پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر انہی کی فوج کے سپاہی ہیں۔

زمانے کی ڈھول نے، بڑے بڑے پہاڑوں کو بھولی بسری یادیں بنا دیا۔ ہمارے ساتھ بھی شاید یہی ہوتا لیکن شاہکار ربوبیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خاک کے ذرے کو رشک خورشید و قمر بنانے والے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر ہمیں زندہ کر دیا اور ابدالآباد تک گستاخانِ خاصانِ ربوبیت کو رجم کرنے کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی۔ ہم صرف اسی کام کے لئے زندہ ہیں۔ کوئی بندہ مومن آئے اور ہمیں اپنے مقدس ہاتھوں میں لے۔ وہی مقدس ہاتھ جو عرفات کی وادی سے منزہ و مذکی ہو کر نکلے اور منیٰ کی وادی میں دشمن مسین کے ٹھکانوں پر گن گن کر مارے، اپنی ساری پارٹی کے دشمن کو اگر ہماری مار سے رسوائی کی کالک ذلیل و رسوا کر دے تو ہمیں ٹھنڈ پڑ جائے۔

لوگو! ہم اپنے خالق و مالک اور اس کی پارٹی کے تمام عظیم انسانوں کو آج بھی

جانتے ہیں مانتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔

میرے دل پہ ہیں نقش قدم آپ کے
مجھ گنہگار پر ہیں کرم آپ کے
چڑھتی رہتی ہے مینار پر زندگی
گرتے رہتے ہیں قدموں پہ ہم آپ کے

سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی لمس کی برکت

جن کی نسبت سے خالق کائنات نے ہم خاک کے ذروں کی قرآن پاک میں قسم کھا کر ہمیں امر کر دیا ہے اس ذاتِ اقدس پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان تو سنہری حروف سے لکھا جانا چاہئے آپ حضور کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں آقا حضورِ باسی اَنْتَ وَاُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْفِضِيلَةِ عِنْدَهُ اَنْ اُقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ فَقَالَ لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا: لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

پتھروں کی حضور سے محبت

کھائی قرآن نے خاکِ گزر کی۔ قسم

اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام

ہم پتھر تو ہیں لیکن پتھر دل نہیں۔ نہ ہماری آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں۔ ہم محبت کرنا جانتے ہیں ہم محبت نبھانا جانتے ہیں۔ ہم اپنے قریب آنے والوں میں سے کون پیارا اور محبت کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ دیکھ لیتے ہیں ہم اظہار محبت بھی کرتے ہیں سردھنا جانتے ہیں مست ہونا جانتے ہیں ہم رقص کرنا

جانتے ہیں۔ ہم محبوبوں کی آمد پر مچلنا بھی جانتے ہیں۔ ہم محبوبوں کا استقبال کرنا جانتے ہیں۔ ہم قدم چومنا جانتے ہیں ہم رقص بسکل کی طرح تڑپنا بھی جانتے۔ ہم پانی کی نہریں بہانا جانتے ہیں۔ ہم محبوب کی محبت میں ریزہ ریزہ ہونا بھی جانتے ہیں۔

ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک جذبہ محبت ہی ایسا جذبہ ہے جو پتھر کو بھی پتھر نہیں رہنے دیتا، موم کر دیتا ہے جس طرح موم جلتا بھی ہے پگھلتا بھی ہے۔ اسی طرح ہم بھی محبوب کی محبت میں جلتے بھی ہیں پگھلتے بھی ہیں۔

ہم نے یہ بھی سنا ہے محبت مردہ دلوں کے لئے زندگی، روح کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حیف ہے۔ اس پر جس کے پاس دل ہو، مردہ ہی سہی لیکن وہ محبت کر کے زندہ نہ ہو سکے۔ حیف ہے۔ اس پر جو اپنی روح کو زندہ نہ کر سکے اور بجھ جائیں ان کی آنکھوں کے چراغ، جو کسی کو اپنا محبوب بنا کر اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر سکے۔

کہتے ہیں محبت وہ حیات ہے جو اس سے محروم ہو وہ گویا مردہ ہے اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ محبت ہی تو جینا سکھاتی ہے مرنا سکھاتی ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جس سے منزل نظر ہی نہیں آتی۔ منزل تک پہنچاتی بھی ہے محبت کی روشنی میں سفر کرنے پر جو منزل ملتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ دھوکا نہیں ہوتی۔ فریب نہیں ہوتی۔ وہ منزل جو جھوٹ ہو، دھوکا ہو، فریب ہو، وہ منزل طمع کی ہوتی ہے۔ حرص کی ہوتی ہے لالچ کی ہوتی ہے محبت کی منزل سے کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔

محبت کی معجز نمایاں

دانشوروں کا کہنا ہے محبت شفا ہے جو اس شفا سے محروم ہو دنیا کی ہر بیماری اس کے گھر آ مہمان ہوتی ہے۔ اس بیماری میں حرماں نصیبی کی تہیں جم جاتی ہیں۔

دم گھٹ جاتا ہے۔ بندہ سسک سسک کر مر جاتا ہے جبکہ محبت کی بیماری میں کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ محبت میں مرض اور شفا میں امتیاز نہیں رہتا۔

ہر ٹیس میں سکوں ہے، تڑپ میں مزہ بھی ہے
یعنی فراقِ ماہِ مدینہ، دوا بھی ہے

(اختر الحامدی رحمۃ اللہ علیہ)

ٹیسوں میں سکون، تڑپ میں مزہ، فراق میں دوا، عجیب فلسفہ ہے۔ ہم پتھر لوگ کیا جانیں یہ باتیں۔ عشق کے مکتب میں پڑھنے والوں کو معلوم ہوں گی۔ البتہ ہم پتھر ہو کر بھی ان کیفیات سے سرشار ضرور رہتے ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، ہم عقل نہیں رکھتے۔ البتہ شعور ضرور رکھتے ہیں ہم تدبر و تفکر نہیں رکھتے البتہ احساس ضرور رکھتے ہیں۔

بے زبانوں کی زبان سمجھنے والوں پر جب صحیفہ آسمانی میں ہمارے حق میں ہماری ترجمانی میں جب یہ ناقوسِ ازلی وابدی سنایا گیا تو کچھ نہ پوچھئے۔ ہماری کیا کیفیت تھی اور کیا کیفیت ہے اور پتہ نہیں یہ کیفیت ہمیں ابدالآباد تک مست رکھے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
قَسْوَةً وَإِن مِّن الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِّنْهَا
لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

یعنی پھر اس کے بعد بھی (اے لوگو!) تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ایسے ویسے سخت جیسے وہ اپنی سختی میں پتھر ہو گئے ہوں۔ یا ان سے بھی زیادہ سخت حالانکہ پتھروں میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور واقعہ ان میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان پتھروں میں بعض

ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ (افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خشکی، شکستگی بھی نہیں رہی) اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے غافل و بے خبر نہیں۔

یہ ہے وہ انعام خداوندی جس سے ہم سرشار رہتے ہیں جیسے ہر شخص میں کیفیات و جذبات دروں کا سمندر موجزن نہیں ہوتا ایسے ہی ہم میں بھی ہر پتھر ایسا نہیں ہوتا لیکن جو ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔

ہم نے سنا ہے محبت تلخ کو شیریں بنا دیتی ہے۔ محبت مس خام کو سونا بنا دیتی ہے۔ محبت نار کو نور بنا دیتی ہے۔ دکھتے انگاروں کو مہکتے پھول، گلاب، چنبیلی، نسترن، نرگس اور مروا بنا دیتی ہے۔ محبت، دیو کو حور بنا دیتی ہے۔ محبت خار کو گلزار بنا دیتی ہے اجنبی راستوں سے مانوس کر دیتی ہے۔

اگر یہ شنید درست ہے اور یقیناً درست ہے تو یقین کیجئے کہ خالق محبت نے اس بحر بے کراں میں سے ایک جرعه ہمیں بھی بخشا ہے۔ اس کرم سے محروم نہیں رکھا البتہ ہم نے یہ نعمت۔ ہر ایرے غیرے پر قربان کبھی نہیں کی جس میں کوئی ذرا سی خوبی دیکھی تو یہ موتی۔ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا نہیں نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نعمت عام تقسیم کرنے میں بڑے زبردست قسم کے بخیل ثابت ہوئے ہیں۔

ہم نے یہ نعمت، یا صرف، اپنے خالق و مالک کے لئے مخصوص کی ہوئی ہے۔ یا پھر اس کے لئے ہے جو ہمارے خالق و مالک کا پسندیدہ ہے۔ جو جتنا زیادہ محبوب ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ اس کے قدموں میں بچھ بچھ جاتے ہیں۔

اس ساری کائنات میں ازل سے ابد تک ان تمام پسندیدگان میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے محبوب ہے، مطلوب ہے، مکرم ہے، مشرف ہے، مسظم ہے، محترم ہے وہ وہی ہیں جو مقصود کائنات ہیں جو باعث تخلیق ارض و سماوات

ہیں۔ ہاں ہاں وہی ہیں جو

شَفِيعٌ مُطَاعٌ نَبِيٌّ كَرِيمٌ قَسِيمٌ جَسِيمٌ وَمِيمٌ نَسِيمٌ ہیں جو زین النبیین
ہیں جو سائر فوق العرش ہیں الی تحت الثریٰ ہیں جو رسول ہیں اور سراج العالمین ہیں
محمود ہیں، مطیب ہیں، السید المعلیٰ ہیں، قاسم خیر خلق اللہ ہیں، اولیٰ من عباد اللہ
ہیں، صاحب الدارین ہیں، جد الطیبین الحسن و الحسین ہیں۔ مقتدی الائمة
المہدیین ہیں۔ مہدی من الصلوة ہیں۔ صفیٰ ہیں حجتہ اللہ ہیں۔ کریم ہیں خلیفۃ اللہ
ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

مرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے تھے

ترے مقام اور مرتبے سے چھوٹے تھے

جن کے یہ سارے نام ہیں اور کئی حسین و جمیل نام ہیں خوبصورت لوگوں کے
خوبصورت نام۔ ہم نے اس نعمت محبت کے سارے ٹوکے۔ ان کے قدموں میں
ڈھیر کر دیئے ہیں۔

وہ ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم سلام کرتے تھے۔ ہمارا سلام کوئی اور
سنے نہ سنے جن کو ہم سلام کرتے تھے وہ ضرور سنتے تھے۔ ہماری بھی خواہش یہی
ہوتی تھی کوئی اور نہ ہی سنے۔ بس اسی کو سنائیں جو ہم پتھروں، راہ کی ٹھوکروں میں
پڑے ہوؤں کو بھی جانتا ہے اور پھر ہماری محبت کی قدر کرتے ہوئے جو اباً ہم سے
بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔

حجر اسود

ہمارے قبیلے کا عظیم نمائندہ، پہلے اس کا نام حجر ابیض ہوا کرتا تھا۔ یہ جنت
سے منگوا یا گیا تھا اگرچہ جنتی ہیرا تھا لیکن اس کا نام پتھر رکھ کر ہمارے قبیلے میں
اسے شامل کر دیا۔ اس کی آنکھیں بڑا کام کرتی ہیں۔

ہمارے اور تمہارے آقا، چودہ طبق کے والی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب

حلیمی و بردباری کی صفات کی پیکر حلیمہ سعادت مندی کے بام عروج پر قدم رکھنے والی سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی آغوشِ محبت میں لے کر اپنے قبیلہ کی طرف واپس جانے سے پہلے حرم کعبہ میں لے کر آئیں تاکہ مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے حجرِ اسود کا بوسہ دلوادیا جائے۔ وہ اسی خیال سے سرشار جب حجرِ اسود کے قریب پہنچیں تو ان کی حیرت اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمارے بھائی حجرِ اسود نے پہلی نظر پڑتے ہی پہچان لیا کہ یہ کون آگیا ہے۔ اس کے مردہ جسم میں جان آگئی۔ اس نے جھر جھری لی جن پتھروں نے اسے جکڑا ہوا تھا ان کو پیچھے دھکیلا۔ ان سے جان چھڑائی اور جلدی سے آکر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلائیں لینے لگا۔ آپ کے لبہائے مبارک کے بوسے لینے لگا۔

لوگ جائیں حجرِ اسود چومنے

حجرِ اسود نے تیرے بوسے لئے

اور یہ سلسلہ تادمِ زیست جاری رہا۔ آپ کا جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تو وہ آپ کے حضور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے کلمات سے سلام کرتا حالانکہ سلام کے لئے اس وقت اس قسم کے الفاظ مروج نہیں تھے۔ یہ تو صرف حجرِ اسود کا اپنا ادراک تھا اور اس کو سو فیصد درست کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ ادراک تھا جو ہم سب میں تقسیم کر دیا گیا ہے جب بھی آپ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں۔ عقیدت و محبت سے سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی حکم ارشاد ہو تو فوراً اس کو تسلیم کریں پھر ہم نے اور ہم میں سے ہر ایک فرد نے ایسا ہی کیا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار سے گریز نہ کیا۔

جبل اُحد، جبل حرا اور جبل شہیر

جبل اُحد تو مدینہ منورہ میں ہے۔ آئیے ہم آپ کو پہلے مکہ معظمہ کے ایک دو واقعات سناتے ہیں۔ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔

اشرف المخلوقات انسانوں میں سے بھی وہ اشرف ترین شخصیات جنہوں نے اشرف انبیاء و رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو جانا پہچانا اور پھر دل کی عمیق گہرائیوں سے تسلیم کیا۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ بہتر ہے آپ انہی کی زبانی سن لیں اگر ہم بیان کریں تو ہو سکتا ہے کوئی تعلیٰ اور خود نمائی یا خود پسندی سے تعبیر کر لے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حرا پہاڑ پر کھڑے تھے تو وہ اچانک حرکت میں آ گیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اِهْدَا فَمَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيٌّ اَوْ صِدِّيقٌ اَوْ شَهِيدٌ یعنی ٹھہر جا تجھ پر نبی صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان کردہ یہ واقعہ باقاعدہ مسلم شریف میں فضائل صحابہ میں موجود ہے۔

اس واقعہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نو افراد کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اگر دسویں کے جنتی ہونے کی بھی گواہی دے دوں تو گنہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا کیسے تو فرمایا ہم حرا پر حضور سر اپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو حرا نے حرکت کی تو آپ نے فرمایا۔

اُبْتُ حِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيٌّ اَوْ صِدِّيقٌ اَوْ شَهِيدٌ

یعنی حرا ٹھہر جا تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہیں۔

عرض کیا گیا وہ کون لوگ تھے تو آپ نے فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان،

حضرت علی، حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پوچھا گیا۔ وہ دسویں کون خوش نصیب ہیں۔ فرمایا بندہ عاجز۔

اس انداز سے یہ واقعہ امام احمد، ابن ابی شیبہ، طیالسی، ابو داؤد، ترمذی حاکم اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ اور ابویعلیٰ نے اس کو روایت کیا ہے۔

(مسند امام احمد ۱۸۸)

حدیث عثمان، حدیث حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہم میں بھی جبل حرا کی حرکت کا تذکرہ موجود ہے اور یہ تمام روایات فضائل مدینہ کے ذکر میں آئی ہیں۔

جبل شیبہ

مکہ معظمہ ہی میں جبل شیبہ کا واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جبل شیبہ نے چومے تو وہ بھی وجد میں آ گیا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ ٹھہر گیا گویا اس کو سکون مل گیا۔

وہ اس لئے آتے نہیں گورِ غریباں کی طرف

کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے

حضرت ثمامہ بن حزن القشیری کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو میں اس وقت وہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ شیبہ پر تھے۔ ان کے ساتھ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما اور میں تھا۔ پہاڑ نے حرکت کی۔

فَوَكَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ

أَسْكُنْ ثَبِيرٍ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ

یعنی آپ نے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا شہیر رک جا، تجھ پر نبی صدیق اور دو شہید ہیں۔

کہنے لگے، ہم جانتے ہیں فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم تم میری شہادت کے گواہ ہو جاؤ۔

اس واقعہ کو ترمذی نے روایت کر کے حسن کہا، نسائی اور دارقطنی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ (ترمذی کتاب المناقب)

جبل احد

کوئی بتلائے کہ پچھڑا ہوا محبوب اگر اتفاقاً کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے اگر ملاقات ہو جائے تو جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ انسان تو بہر صورت بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور نہ جانے اس کیفیت میں وہ کیا کیا کر گزرتے ہوں گے۔ ہم تو پتھر ہیں پتھر جامد و ساکت، نہ ہوں نہ ہاں، محبت کا اعجاز دیکھئے۔ وہ ہم جیسے پتھروں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جان کائنات محبوب محبوبان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کرم فرمایا اور آپ ہمارے بھائی جبل احد پہ آنکے۔ آپ کے بے دام غلام، دنیا بھر کے غلاموں کو غلامی محبوب کے آداب سکھانے والے بھی چند ایک ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ آپ کا احد پر جلوہ افروز ہونا تھا۔ نہ جانے اس وقت احد کی کیا کیفیت تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی مچل گیا۔ شاید یہ آداب کے خلاف بات تھی یا نہیں۔ ہمیں تو خبر نہیں البتہ جو واقعہ ہوا وہ اپنے ہی ایک عظیم ساتھی کی زبان مبارک سے سن لیں۔

کہاں سے لائے گا قاصد دھن میرا زباں میری
یہی بہتر ہے خود سن لیں وہ مجھ سے داستاں میری

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہ کانپ اٹھا آپ نے قدم مبارک سے ضرب لگائی اور فرمایا

أُثْبِتُ أَحَدًا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ

یعنی احد ٹھہر جا تجھ پر نبی، صدیق اور دو شہید ہیں۔ بخاری شریف ہی میں ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ایسے روایت کئے گئے ہیں۔

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَ صَدِيقٌ وَ شَهِيدَانِ

بلاشبہ تجھ پر نبی، صدیق اور دو شہید ہیں

اسی واقعہ کو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوبان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کی آمد سے احد پہاڑ چل گیا تو آپ نے فرمایا۔

أُثْبِتُ أَحَدًا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَ صَدِيقٌ وَ شَهِيدَانِ

اے احد! ساکن ہو جا، تجھ پر نبی صدیق اور دو شہید ہیں۔

بس آپ کا فرمانا تھا کہ درود دل تھم گیا نیند آگئی پروانے کو

ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا

رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں

اے ہمارے آقا۔ جاٹھا رو! آپ ہمیں گونگے بہرے اور اندھے بے حس

کہنا چاہتے ہو کہہ لو سو بار کہہ لو لیکن اگر انہی واقعات کو ہی سامنے رکھا جائے تو

اپنے ایمان سے کہئے اندھے ایسے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے

ہیں کہ اندھے نہیں ہو تو اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھاؤ ہم بھی دیکھ لیں لیکن ہمارا عندیہ یہ ہے کہ اندھا وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہوں۔ ہمارے نزدیک تو اندھا وہ ہے جو آنکھیں بھی رکھتا ہو لیکن اسے کچھ نظر نہ آئے۔ مکہ شہر کے بازاروں میں گلیوں میں صحن حرم میں کئی اندھے وہیں پھرتے رہتے ہیں۔ اسی اندھیارے میں انہوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔

آپ حجر اسود کو اندھا کہنا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں۔ اس کے پاس ایسی آنکھیں ہیں کہ اللہ کے دوست خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور پوری کائنات کی خبر رکھنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب سے اسے اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر لگایا ہے اس وقت سے اب تک۔ اور اب سے قیامت تک جتنے لوگ اربوں کھربوں سنکھوں پدموں کی تعداد نے اسے بوسے دیئے ہیں۔ وہ اس کی نظر میں ہیں اور اس کے حافظے میں محفوظ ہیں اور روز محشر ان سب کو پہچانے گا۔ ان کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے پیاروں کے سوا کوئی اور تم میں ایسی نظر والا، ایسی آنکھ والا ہے تو سامنے لاؤ۔

آپ کہتے ہیں ہم بہرے ہیں، ہمارے کان نہیں۔ اللہ کے بندو چھاج چھاج جتنے بڑے کان کس کام کے اگر کسی کی سننی ہی نہیں۔ یا سارے زمانے کی سننی ہے اور جس نے کان دیئے ہیں اس کی ایک نہیں سننی۔

ہمارے پاس کان نہیں۔ بے شک نہیں لیکن قوت سماعت اتنی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر ہم سن نہیں سکتے تو جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف سننے ہی کیلئے ہے۔ اگر کوئی غور سے نہ سنے تو اسے اپنے حلقے سے ہی اٹھا دیا جائے وہ کیوں بار بار ارشاد فرماتے ہیں اسکن یا شبیر اے شبیر صبر کرا ثبت حرا لے حرا ٹھہر جا اثبت احد اے حد سکون لے ٹھہر جا۔ اے کنکر یو بتاؤ، میں کون ہوں۔ کیا تمہیں میرا

کلمہ یاد ہے اور وہ دشمن کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اس کی پرواہ کئے بغیر فر فر کلمہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور قوت سماعت اور قوت گویائی اور کیا ہوتی ہے۔

آپ کے خیال کے مطابق ہم بے حس ہیں۔ ہم میں زندگی نہیں ہے۔ ہم بے جان ہیں۔ بے حرکت ہیں خدا کا خوف کرو بے حس ایسے ہوتے ہیں کہ محبوب رب ذوالکرم عرش اعظم تک پہنچ جانے والے جوڑوں کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم وجد میں آجائیں مچلنے لگیں کبھی بے حس بھی وجد میں آتے ہیں مچلتے ہیں۔

جبل أحد پیکر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اچھا یہ بتاؤ بے حس محبت کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے محبت کر سکتا ہے۔ محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔

چلئے چھوڑیئے! ہم اس حوالہ سے کچھ نہیں کہتے لیکن وہ ذات، جو دنیا میں ہر سچے شخص سے بھی بڑھ کر سچ بولنے والے ہیں جو صادق ہیں بلکہ اصدق الصادقین ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کتنے سچے ہوں گے۔

ہمیں تو غزوہ خیبر کی فتح کے بعد آپ کی مدینہ منورہ کی طرف واپسی پر پہلے ہی بڑی خوشی تھی لیکن جب آپ وادی ”جرف“ میں ایک رات آ کر قیام پذیر ہوئے اور صبح اٹھ کر روانگی کا حکم دیا تو آپ کی نگاہ التفات کوہ احد پر پڑ گئی تو آپ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا۔

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحْرِمُ بَيْنَ لَا بَيْتِ الْمَدِيْنَةِ

یہ پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ! میں مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان سارے علاقہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔

آپ کے اس ارشاد پر ہماری تو باچھیں کھل گئیں۔ خوشی و مسرت کی بہار آ

گئی۔ چاند نکلتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے ہماری یہ کیفیت ایسی تھی جیسے ہمارے اندر ہی سے کوئی چاند نکل آیا اگر آپ بھی اس کو زمانے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دکھائے دیتے ہیں۔

آپ ہی کے قبیلے کے ایک بزرگ ترین محدث و محقق حضرت قاضی ابوبکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب عارضۃ الاحوذی ۱۳=۱۵۱ میں تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا اضْطَرَبَتِ الصَّخْرَةُ وَرَجَفَ الْجَبَلُ اسْتِعْظَامًا لَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ وَبِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْأَشْرَافُ

یعنی پتھر اور پہاڑوں نے بطور فخر وجد کیا کہ انہیں شرف ملا کہ اتنی عظیم ہستیاں آج میرے ہاں جلوہ افروز ہیں۔

رُخِ وقت کے دھارے کا بدل کیوں نہیں جاتا

کانٹا سا کھٹکتا ہے نکل کیوں نہیں جاتا

دیوانے ابھی بیڑیاں کٹ جائیں گی ساری

دہلیز محمدی) پہ مچل کیوں نہیں جاتا

ایک اور بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ساکن رہنے کا حکم دینا۔ آپ کے اپنے اور آپ کے ساتھ بزرگ ہستیوں کے شرف کی وجہ سے تھا۔

یہ ہم پہاڑوں کے وجد و سرور کی کیفیت کا اظہار، مکی زندگی میں بھی ہوا اور مدنی زندگی میں بھی۔ گویا ان عظیم ہستیوں کی بزرگی ان کے شرف اور فضیلت کا اظہار کرنا مقصود تھا یعنی یہ اظہار محبت کا انداز بھی من جانب اللہ ہی تھا۔ ورنہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم میں جذبات محبت کہاں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ہماری یہ وجدانی کیفیت خدا نخواستہ، العیاذ باللہ کسی زلزلہ یا کسی غضب اور

ناراضگی کی وجہ سے بھی نہ تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالہ سے کوہ طور میں آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ لَسْنَا نُوْمِنُ حَتَّىٰ نَرَى الْاِلٰهَ جَهْرَةً ہم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔

حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن منیر کے حوالہ سے تحریر کیا ہے۔

فَتِلْكَ رَجْفَةُ الْغَضَبِ وَهَذِهِ لَهْزَةُ الطَّرْبِ وَهَذَا نَصُّ عَلٰى مَقَامِ النَّبُوَّةِ وَالصِّدِّيقِيَّةِ وَالشَّهَادَةِ الَّتِي تُوجِبُ سُرُورًا مَا اتَّصَلَتْ بِهِ فَاقْرَأِ الْجَبَلَ بِذَلِكَ فَاسْتَقِرْ (ارشاد الساری ۶=۹۷)

یعنی وہ غضب، غصہ اور جلال کی کڑک تھی اور یہ خوشی و مسرت کا وجد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مقام نبوت و صدیقیت اور شہادت کا ذکر ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے سرور و کیف میں اضافہ ہوا۔ انہیں ٹھنڈک ملی اور سکون پا گئے۔

یقیناً یہی وجہ ہے کہ جناب سرور کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ عاقلوں والوں معاملہ فرمایا۔ آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا اثبت احد اسکن ثبیر اور اثبت حرا اور ساتھ ہی پاؤں مبارک کی ہلکی سی ٹھوکر کا عمل بھی فرمایا اور وہ پرسکون ہو گئے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

ہم موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ کے زلزلے کا تذکرہ جاری رکھیں گے۔ پہلے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ان بزرگ ترین ہستیوں کی آمد پر پہاڑوں پر وجد و سرور کی کیفیت طاری ہو گئی تھی تو اس کیف کا انہیں بھرپور لطف لینے دیا جاتا۔ ان کو پرسکون ہونے کا ارشاد کیوں فرمایا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی یہ حرکت واقعہً خوشی و مسرت کی وجہ سے تھی۔ جس کا انہوں نے اظہار کیا لیکن ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ انہیں ادب و احترام بزرگان کی خاطر سکون کا حکم دیا گیا اور کہا گیا نادانو! تمہاری خوشی و مستی اپنی جگہ درست سہی لیکن ہوش کرو کہیں تمہاری اس حرکت سے محبوب محبوبان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جاں نثار صدیقوں اور شہیدوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اپنی محبت کا اظہار ضرور کرو لیکن محبت کو چاہئے کہ وہ آداب مدرسہٴ محبت بھی سیکھے۔

ہم مکتب عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی جائے خاموشی میں، ادب میں اور ضبط میں ہی بھلائی ہے لہذا آپ کا فرمان سن کر اور آپ کے قدم مبارک کی ٹھوکر نے ہمیں راہ دکھا دی کہ محبت و عشق کے بھی کچھ آداب ہیں بلکہ عشق ہی تو آداب سکھاتا ہے۔

ہم پھر موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ کے زلزلے والی بات آگے بڑھاتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ستر سرداروں کو ساتھ لے کر طور پر تشریف لے گئے اور ان بے سمجھ سرداروں کے مطالبہ دیدارِ الہی پر کوہِ طور جلال میں آ گیا۔ وہ تو پہلے ایک منظر دیکھ چکا تھا۔ وہ تو پہلے جلالِ الہی کی تاب نہ لا کر جل کر سرمہ بن چکا تھا جبکہ وہ مطالبہ دیدارِ الہی اس کی طرف سے تھا بھی نہیں اور وہ مطالبہ بھی ایک عظیم شخصیت اشرف انسانیہ کا تھا اور جن کو خصوصاً منصب نبوت سے مطلع کرنے کے لئے طور پر طلب فرمایا گیا تھا جبکہ یہ مطالبہ ناہنجاروں بے ادبوں اور گستاخوں کی طرف سے تھا۔ اس مطالبہ میں اور اس مطالبہ میں بھی اگرچہ بہت فرق تھا لیکن اس وقت زلزلہ میں آنا اور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجد و حال میں مست ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ادھر تو یہ عالم ہوا کہ جب حرا کو شبیر کو اور احد کو ان کے پاس آنے والی بزرگ ہستیوں کا تعارف کرایا گیا تو وہ ادباً احتراماً اسی دم

خاموش ہو گئے۔

رہا معاملہ قوم موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ انہوں نے تو پچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ انہی کی اس ذلیل حرکت کی وجہ سے مقدس تورات کی تختیوں کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ انہی کی وجہ سے تو جلال موسوی دیکھنے والا تھا۔ انہی کی اس حرکت ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عظیم بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک پکڑی تھی۔ انہی خطاؤں کی معافی کے لئے انہیں طور پر لایا گیا تھا تو کیا ایسے گستاخوں کے گستاخ نمائندوں اور نااہلوں کے مطالبہ دیدار الہی پر طور وجد میں آجاتا۔ نہیں بھائی نہیں۔ وہ وجد نہیں تھا بلکہ وہ غصے اور جلال میں ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے زلزلہ زدہ ہو گیا تھا۔ وہ تو کریموں کی مہربانی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر وہ جل مر کر بھی زندہ ہو گئے ورنہ آپ ان کی طرف داری نہ فرماتے تو شاید وہ قیامت تک اسی جلال کی آگ ہی میں جلتے رہتے۔

چاہئے تو یہ تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفقتوں رحمتوں اور عظمتوں کے دست شفقت کے سائے میں طور پر جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، گڑگڑاتے التجائیں کرتے رحمت باری جوش میں آتی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتی۔ ان کم بختوں نے الٹا کام کیا۔ قرآن پاک کے مقدس حروف گواہ ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ مِنْ هُنَا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ
 فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِذْ قُلْتُمْ
 يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ
 الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ۝ (البقرہ ۵۶-۲/۵۴)

اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم! بے شک تم نے پچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو۔

پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس طرح کہ جنہوں نے پچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی اور اپنے دین پر قائم رہے تھے۔ وہ پچھڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کریں۔ یہی (عمل) تمہارے لئے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین (توبہ) ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو (اپنی آنکھوں کے سامنے) بالکل آشکارا نہ دیکھ لیں۔ پس اس پر انہیں ایک کڑک نے آ لیا۔ (جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم (ہمارا) شکر ادا کرو)

ان مذکور ہر دو واقعات کو سامنے رکھیں۔ بنی اسرائیل بھی پہاڑ پر گئے اور صدیق اور شہداء بھی پہاڑ پر گئے ان کے ساتھ بھی ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ بھی نبی الانبیاء حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے یقین کی دولت سے محروم، آداب سے ناواقف، جذبہ جاں نثاری سے محروم، کہ جب ان سے جہاد کا کہا گیا تو کہنے لگے

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝ (المائدہ ۲۴)

کہ اے موسیٰ! آپ جائیے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے آپ دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور جب طور پہاڑ پر آپ کے ساتھ آئے کھلم کھلا دیدار الہی کا مطالبہ کر دیا جبکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والے تصدیق رسالت پر اور تصدیق معجزہ معراج پر تصدیق کا لقب پانے والے حق و باطل کے درمیان واضح کھل کر امتیاز کر کے حق کا ڈٹ کر ساتھ دینے والے ہیں۔ جاں نثاری کے تمام آداب سے واقف ہیں انہیں ان پر سب کچھ قربان کر دینا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے نہ کوئی مطالبہ کیا نہ آگے بڑھے، نہ حد سے تجاوز کیا اور نہ کوئی ناجائز مطالبہ کیا حتیٰ کہ ایسے وفادار کی زندگی ہی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یعنی انبیاء کرام کے بعد بلکہ تا قیامت تمام انسانوں پر فضیلت کا تاج ان کے سر پر سجایا۔

اب بتائیے کیا پہاڑ ہر دو کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرتے ہیں۔ نہیں ان کے لئے وہ سراپا غضب بن گیا اور ان کے لئے سراپا محبت بن گیا۔ ان کے آنے پر جلال میں آ کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے آنے پر خود بھی حیات جاوداں پا گئے۔ اس لئے ہم پر مہربانی فرمائیں۔ ہمیں اتنا اندھا بہرا اور بے حس نہ سمجھیں۔ ہم الحمد للہ امتیاز حق و باطل بھی سمجھتے ہیں اور اپنے اور بیگانے کی پہچان بھی رکھتے ہیں۔

ایسے نہ کٹ سکے گا کڑی دھوپ کا سفر
سر پر خیالِ یار کی چادر ہی لے چلیں
اگر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے سے دنیا و آخرت میں لعنتوں اور پھٹکاروں کے طوق گلے کا ہار بنتے ہیں۔ آخرت کے عذاب کا دھانہ منہ کھولے ہوئے ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ (احزاب ۵۷)

یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ
دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے
لئے ذلت کا عذاب ہے۔

تو اس کے برعکس جو محبت و اطاعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت
سے مالا مال ہوتا ہے اس کا انعام ہاں ہاں سب سے بڑا انعام، مقام محبوبیت رب
العزت ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

اے محبوب محبوبان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری دنیا کیلئے اس راز سے
پردہ اٹھا دیں کہ تم میں جو جو بھی محبت الہیہ کا دعویٰ کرتا ہے ان سب سے کہہ دیں۔
اس کی ذات تک پہنچنے کے تمام راستے تمام سڑکیں، تمام گلیاں، سب بند کر دی
گئیں۔ اس تک پہنچنے کے لئے جنگلوں بیابانوں، دریاؤں، سمندروں، آسمانوں حتیٰ
کہ عرش تک بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم اس کے پاس جاؤ جس نے عرش
بھی دیکھ لیا ہے اور عرش والا بھی دیکھ لیا ہے۔ جو اس کے نقوش قدم پر ادباً، احتراماً،
اتباعاً قدم پر قدم رکھ کر جو سفر طے کرے گا۔ اسے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی
حاجت نہیں رہے گی بلکہ خود مالک اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ لوح و قلم اس کے
ہاتھ میں دے دے گا۔ اب تقدیر زمانہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اے اشرف المخلوقات انسان! آپ کی یہ شان و مرتبہ ہے۔ ہمارے لئے کیا

جر ہے کیا نہیں۔ ہم نے اس موضوع کو کبھی چھیڑا ہی نہیں۔ ہماری چاہت ہے بس

اسی کو چاہیں اور کسی کو ہرگز نہ چاہیں۔ اسی کے حضور سرفاگندہ ہوں اور کسی کے حضور حاضری نہ دیں۔ بس اسی کے بارے میں سوچیں اور کچھ نہ سوچیں۔

اس میں کیا ہے کیا نہیں اس سے مجھ کو کیا غرض
مجھ کو وہ اچھا لگا میں نے سوچا کچھ نہیں
اس کی بابت سوچنا اور سوچنا بھی رات دن
پھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر سلام کرنے میں پہل کرنا

لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ہم خاک کے ذرے، ریزے، کنکر اور پتھر لکھنا پڑھنا کیا جانتیں۔ آپ ہی کے قبیلے کے کچھ عظیم لوگوں نے ہمارے چشم دید واقعات یا اپنے کانوں سنی بات، یا کسی باوقار کی زبان سے سنی بات صفحات قرطاس میں مرقوم فرما دیں۔ ہم سراپا سپاس ہیں کہ ہماری وارفتگیاں ضائع نہیں ہوئیں۔ بھولی بسری باتیں نہ ہوئیں۔ قصہ پارینہ نہ بنیں۔ اب اگر کوئی صدیوں بعد بھی پڑھے گا تو اسے سچے لوگوں کی زبان اور قلم سے نکلی باتیں ایسی معلوم ہوں گی جیسے ابھی کل کی باتیں ہیں اور ان پر یقین بھی آ جائے گا۔ انشاء اللہ

محبت و عقیدت کے اظہار کا ایک انداز، سلام کرنا بھی ہے۔ انسانوں نے اپنے اپنے دین، مسلک اور مذہب کے مطابق اور ہر زبان میں اپنی اپنی زبان کے مطابق، کچھ خاص الفاظ مخصوص کئے ہوئے ہیں۔ جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چاہنے والوں کے لئے سلام کے چند مخصوص الفاظ مختص کئے ہوئے ہیں لیکن ہم تو اس وقت کی بات کرتے ہیں جب ابھی یہ الفاظ مخصوص نہیں فرمائے تھے اور یہ الفاظ ان دنوں کہیں مروج بھی نہیں تھے۔ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں یہ الفاظ

کس نے سکھا دیئے۔ کس نے القاء کر دیئے ہم نہیں جانتے۔ البتہ وہی الفاظ ہیں جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود مروج ہیں جو ہمیں القاء فرمائے گئے تھے۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِنِّي
لَأَعْرِفُهُ الْآنَ (المسلم، کتاب الفہائل)

یعنی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام
عرض کیا کرتا تھا۔ میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔

امام احمد، ترمذی اور بیہقی نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لِيَالِي بُعِثْتُ

اعلان نبوت کی راتوں میں وہ مجھے سلام عرض کرتا تھا۔

یہ سلام محبت و عقیدت صرف ہم پر ہی موقوف نہیں اگرچہ وادی غیر ذی زرع
ہے۔ یہاں زراعت، کھیتی باڑی یا پودوں کا باغات کا کوئی تصور نہیں۔ اس کے
باوصف کوئی نہ کوئی درخت، ہماری پتھریلی اور خشک ترین زمین کا سینہ چیر کر ننھی سی
کوئیل نکالتا اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت بن جاتا چونکہ اس کے خمیر میں ہمارا بھی
حصہ ہے۔ اس لئے اس کی کیفیات سے تھوڑا بہت ہم بھی واقف ہیں جو حالت
ہماری ہوتی تھی۔ جان جاں، روح کائنات، سرور انبیاء، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
جب بھی ادھر سے گزر ہوتا تو ہمارے ساتھ وہ بھی اسی عقیدت و محبت سے سلام نیاز
پیش کرتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ویسے بھی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ساتھ رہتے تھے۔ آپ ان کی زبانی سن لیں۔ آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہماری کیا
کیفیت ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہم جانِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

ساتھ مکہ معظمہ میں بعض علاقوں سے گزرتے۔

فَمَرَرْنَا بَيْنَ الْجَمَالِ وَالشَّجَرِ فَلَمْ تَمُرْ بِشَجْرَةٍ وَلَا جَبَلٍ إِلَّا
قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

کہ ہم جن پہاڑوں اور درختوں کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی
خدمت اقدس میں عرض کرتے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم

یہ الفاظ بھی آئے ہیں:

وَجَعَلَ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ

کہ ہر درخت اور ہر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام
عرض کرتا۔ بیہتی کے الفاظ یہ ہیں۔

فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَدَرٌ إِلَّا قَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ

یعنی ہر درخت اور ہر سنگریزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال
کرتے ہوئے عرض کرتا۔ السلام علیک یا رسول اللہ
دوسرے مقام پر انہی کے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔

وَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَأَنَا أَسْمَعُهُ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے
وہ عرض کرتا۔ السلام علیک یا رسول اللہ اور میں اسے سنتا تھا۔

اسے ترمذی نے حسن اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ ذہبی نے حاکم کے حکم کو
ثابت رکھا۔ دارمی، ابو نعیم اور بیہتی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

(المستدرک ۲-۶۲۰)

ان تمام روایات میں یہ تصریح اور وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حجر، شجر، جبل، سنگریزے اور ذرات سلام عرض کرتے تھے اور آپ کی آمد پر آپ کا استقبال بھی کرتے تھے۔

حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں یہ بھی تھا کہ پتھر کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کیونکہ اس وقت آپ تنہا تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ پتھروں کا سلام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر ساتھیوں نے بھی سنا۔ تو یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہاڑوں، درختوں، پتھروں، سنگریزوں اور خاک کے ذرات کا بصورت سلام، نطق یعنی بولنا واضح اور صریح تھا۔ جیسا کہ سیرت کی کتابیں لکھنے والے حضرات نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا تو

جَعَلَ لَا يَمُرُّ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَبَطُونِ أَوْدِيَّتِهَا فَيَمُرُّ لِحَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

(دلائل النبوة للبيهقي ۲ = ۱۳۳)

یعنی آپ مکہ مکرمہ کے جس علاقے اور وادی میں سے گزرتے ہر پتھر اور ہر درخت عرض کرتا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم خاک کے ذرے اور پتھر پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سلام کرنے کا یہ انداز اس زمانے میں اس سے پہلے مروج نہیں تھا۔ ہمیں یہ انداز سلام محبت و نیاز کیسے آ گیا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انداز ہائے محبت نہ لکھائے جاتے ہیں نہ سکھائے جاتے ہیں۔ یہ انداز خود بخود ہی کہیں سے پھوٹ پڑتے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے اور یہی جواب زیادہ بہتر بھی ہے کہ یہ انداز سلام نیاز خود ہمارے خالق و مالک نے سکھائے جس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواء فضیلت پہن لی تھی۔

اس دور میں دوسری پارٹی یعنی شیطان لعین ورجیم کے ساتھی، فاسق انسان اور جن اور شجر و حجر بھی شاید ہوں گے۔ ان کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں اس کی خبر نہیں۔ آپ اپنے دور میں ایسے لوگوں کے وجود سے آگاہ ہیں اگر ہماری پارٹی کے افراد کی اس دور گونج ہے تو اس کی جڑھ تو اسی دور میں بھی تھی ناں اور یہ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ دوسری پارٹی کی جڑھ بھی اس وقت موجود ہوگی۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر
 للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا

اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ

آنکھ ہوتی ہی دیکھنے کے لئے ہے لیکن کیا کریں۔ ہر آنکھ دیکھتی ہی نہیں۔ کبھی بیماری سے نہیں دیکھتی۔ کبھی کمزوری سے نہیں دیکھتی۔ کبھی اندھے پن سے نہیں دیکھتی۔ کبھی نفرت کے جالے پڑ جانے سے نہیں دیکھتی۔ کبھی غفلت اور جہالت سے نہیں۔ کبھی تعصب سے نہیں دیکھتی لیکن کسی کے نہ دیکھنے سے چیز کا وجود تو ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی چیز کا نظر نہ آنا۔ اس کے نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کبھی قریب ترین پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی اور دور پڑی نظر آ جاتی ہے اور کبھی دور پڑی چیز نظر نہیں آتی اور قریب پڑی چیز نظر آ جاتی ہے۔ چیز موجود ہو، قریب یا دور اور نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے نظر کمزور ہے۔ نظر کمزور ہو تو کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر کو دکھائی جائے جو چیک کرے کہ نظر کتنی کمزور ہے۔ دور کی چیز نظر نہیں آتی یا قریب کی۔ یا قریب و بعید دونوں ہی نظر نہیں آتیں۔ آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ اس نمبر کا شیشہ لو، عینک لگاؤ، تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔

ہم اس زمانے کی بات آپ کو سنانے لگے ہیں جب ملک شام کی راہ میں ایک ایسا شخص تھا جس کی بینائی بہت تیز تھی۔ وہ دور و نزدیک تک کی ہر شے دیکھ سکتا تھا بلکہ اس دور میں یا تو ہم خاک کے ذروں، سنگریزوں اور پتھروں کو نظر آتی تھی یا اس کو نظر آتی تھی۔ باقی کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک عبادت گزار عیسائی

راہب تھا۔ اس کا تقویٰ خلوص اور پاکیزگی غالباً اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کی باطنی آنکھ بھی بہت کام کرتی تھی جسے آج کل آپ لوگ بصیرت کا نام دیتے ہیں۔ اس کی بصارت بھی ٹھیک تھی اور بصیرت بھی اچھا خاصا کام کرتی تھی۔

ایک دن یوں ہوا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابوطالب تجارت کے لئے ملک شام کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا بچہ اب سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے۔ اسے تجارت کے تجربات سے گزرنا چاہئے تاکہ بڑا ہو کر اصول ہائے تجارت اور تجربات سے کام لے سکے۔ یہ تو ان کا اپنا خیال تھا حالانکہ جو امی لوگ ہوتے ہیں انہیں تجربات اور تعلیم زمانہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ خود سب کچھ پڑھ کر ہی آتے ہیں۔

ملک شام کے قریب اس قافلہ تجارت نے پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، خیمے لگائے۔ انہوں نے دیکھا قریب ہی جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے اس کے سربراہ اعلیٰ خود تشریف لارہے ہیں۔ ان کے مقام مرتبہ کو دیکھتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیریت دریافت ہوئی اور انہوں نے سارے قافلے کو رات کے کھانے پر بلایا۔ دعوت قبول کر لی گئی لیکن سب حیران تھے کہ ان کو تو ویسے ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ملاقات کے لئے بڑی دقت کے ساتھ وقت ملتا ہے لیکن آج کیا خاص بات ہے کہ یہ خود چل کر آئے ہیں اور کھانے کی دعوت بھی دی ہے۔

خیر شام کو بڑی پر تکلف دعوت میں سب شریک ہوئے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے محترم راہب نے پوچھا کوئی صاحب پیچھے رہ تو نہیں گئے۔ انہوں نے کہا پیچھے صرف ایک نوجوان سامان کی رکھوالی کے لئے چھوڑ آئے ہیں۔ اس کی اس بھرتی جوانی میں بھی اس کی امانت و دیانت پر بھرپور اعتماد ہے۔ راہب صاحب

نے کہا یہ سارا اہتمام اسی ایک نوجوان ہی کے لئے تو کیا گیا تھا۔

نمازِ جنازہ بھی پڑھ لی غیروں نے

مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے

کھانا ان کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بلایا گیا کھانا پیش کیا گیا،

کھانے کے بعد راہب نے سرکارِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے چچا جان

حضرت ابو طالب کو روک لیا اور تنہائی میں پوچھا۔

یہ نوجوان کون ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا اس نوجوان

کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کے والد حضرت

عبداللہ (رضی اللہ عنہ) اس کی ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے تو اس

راہب نے کہا۔

هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ هَذَا يَبْعَثُهُ رَحْمَةً

لِلْعَالَمِينَ

یہ نوجوان تمام کائنات کے سردار ہیں۔ یہ رب العالمین کے رسول ہیں

اور انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔

قریشی شیخ نے پوچھا آپ کو اس کا علم کیسے ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں

تھا جب تم سامنے کی گھائی پر چڑھے تھے۔

لَمْ يَبْقِ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيِّ

کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ نہ کر رہا ہو اور یہ سب اشیاء صرف نبی

ہی کو سجدہ کرتی ہیں کسی اور کو نہیں۔

یہ الفاظ ابن شیبہ کے ہیں۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ابو نعیم اور حاکم نے صحیح

کہا۔ تیمی اور بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تمام حضرات نے قراد (عبدالرحمن بن

غزوان الضحی) سے بیان کیا ہے جو بہت ثقہ ہیں اور یونس بن ابی اسحاق اور انہوں

نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فی بدء الوحی میں نقل کیا ہے۔

لیجئے ہم آپ کو اصل واقعہ ایک بہت ہی اہم اور ثقہ صحابی رسول کی زبانی سنائے دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهَمُّ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبْعُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ كَتِفِهِ مِثْلَ التَّفَاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا آتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي دِعْيَةِ الْإِبِلِ قَالَ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تَطْلُهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فِيءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فِيءِ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ فِيءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ فَإِنَّ الرُّومَ إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوا جِئْنَا إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأَنْبَاسٍ وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبْرَهُ بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا

فَقَالَ هَلْ خَلَفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالُوا إِنَّمَا أَخْبَرْنَا خَبْرَهُ
بِطَرِيقِكَ هَذَا قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ
أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوا لَا قَالَ فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ قَالَ أَنْشَدُكُمْ
بِاللَّهِ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ قَالُوا أَبُو طَالِبٍ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو
طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ
وَالزَّيْتِ (رواه الترمذی و ابن ابی شیبہ)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو
طالب قریشی سرداروں کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو حضور
پر نور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔
جب راہب کے پاس پہنچے وہ سواریوں سے اترے اور انہوں نے
اپنے کجاوے کھول دیئے راہب ان کی طرف آنکلا حالانکہ روسائے
قریش اس سے قبل بھی اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے لیکن وہ ان
کے پاس نہیں آیا کرتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ دیا کرتا تھا۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی اپنے اونٹوں
کے کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان چلنے
پھرنے لگا حتیٰ کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب
پہنچا اور آپ کا دست اقدس پکڑ کر کہا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔
رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے
لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ روسائے قریش نے اس سے پوچھا۔ آپ
کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے
نمودار ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں تھا۔ جو
سجدہ میں نہ گرا پڑا ہو اور یہ اشیاء صرف نبی ہی کو سجدہ کرتی ہیں۔ کسی

اور کسی کو سجدہ نہیں کرتیں اور میں انہیں مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے مبارک کندھے کی ہڈی کے نیچے سب کی مثل ہے پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے تمام قافلے والوں کے لئے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ اس وقت اونٹوں کی چراگاہ میں تھے۔ راہب نے کہا ان کو بلاؤ (یہ کھانا تو صرف ان کے طفیل ہے جو تمہیں بھی مل رہا ہے کہ دولہا کی وجہ سے باراتیوں کو مل جاتا ہے) جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے سرانور پر بادل سایہ فگن تھا اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے ہی سے درخت کے سایہ کی جگہ پہنچ چکے ہیں (اور بظاہر کوئی جگہ خالی نہ تھی) لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو درخت کا سایہ خود بخود آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا درخت کے سایہ کی طرف دیکھئے وہ آپ پر جھک گیا ہے پھر راہب نے کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں صحیح صحیح بتاؤ ان کا سر پرست کون ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب چنانچہ وہ مسلسل حضرت ابو طالب کو واسطے دیتا رہا (کہ انہیں واپس بھیج دیں) یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے آپ سرکار سیدالابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور راہب نے آپ سرکار نور الانوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی طرف سے عطیہ اور نذرانہ کے طور پر کیک اور زیتون پیش کیا۔

پتہ نہیں جو مکے سے شام تک ہم سفر تھے انہیں شجر و حجر آپ کو سجدہ کرتے کیوں نظر نہیں آئے۔ وہ اکیلے راہب ہی کو نظر کیوں آئے۔ معلوم ہوا اس کی بصارت و بصیرت کی بینائی تیز تھی اور باقی سب کی نظر کمزور تھی جو اتنے قریب ہو کر

بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ بینائی درست کرانے کے لئے کسی ماہر طبیب سے رجوع کر
اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔

گوشت کی حضور سے محبت

محبت کی محبت کا تقاضہ ہے کہ اس کی ذات سے محبوب کو کوئی زک نہ پہنچے بلکہ
راحت پہنچے۔ سکون، آرام پہنچے محبت کی جو اد بھی ہو اس سے اس کے دل کو ٹھنڈک
نصیب ہو اور اگر محبت کی کسی حرکت سے کسی انداز سے محبوب کو تکلیف پہنچے تو اس
کے لئے مرجانا بہتر ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھ
جائے یا کوتاہی سرزد ہو جائے کہ اس سے محبوب کی جان کو خطرہ ہو تو اس کی ہزار
صفائی کے باوجود اس کا وجود اس کے لئے لعنت ہے۔ پھٹکار ہے اس کے لئے
نفرین ہے۔

پتھر، کنکر سنگ ریزے ہی جمادات میں نہیں آتے بلکہ ہر وہ چیز جو بے حرکت
ہو بے زبان ہو، بے جان ہو، وہ سب جمادات ہی میں آتی ہیں۔ ہم اپنے قبیلہ
میں ان تمام کو شامل کرتے ہیں جو اس اعتبار سے جمادات کے زمرے میں آتی
ہیں۔

غزوہ خیبر جب اختتام کو پہنچا تو ایک یہودی عورت نے صحابہ کرام سے پوچھا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ شوق سے تناول
فرماتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ دستی اور ران کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔

اس عورت نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی جو قبول فرمائی
گئی۔ اس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کی دستی کو زہر آلود کر دیا اور آپ کی
خدمت میں کھانا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا تناول کرنے کے لئے تشریف فرما ہوئے۔
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اٹھا کر

منہ کے قریب لے گئے تو کھائے بغیر نیچے رکھ دیا اور فرمایا:

أَخْبَرْتُهُ الزَّرَّاعَ بِأَنَّهَا مَسْمُومَةٌ وَإِنَّ الشَّاةَ كُلَّهَا مَسْمُومَةٌ

گوشت کی اس دستی اور ران نے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ! مجھے نہ کھائے گا۔ ساری بکری اس وقت زہر آلود ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھی منع فرما دیا۔

آپ نے یہودیہ سے پوچھا تم نے ایسی حرکت کی ہے۔ اس نے اعتراف جرم کیا اور کہا جی ہاں! میں نے یہ حرکت اس لئے کی ہے کہ آپ نبی پاک ہیں تو آپ مطلع ہو جائیں گے اور اگر نبی نہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔

اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوا کہ یہودیہ کو بھی یہ علم تھا کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھی اور نبیوں کی شان اور مرتبت سے واقف تھی وہ جانتی تھی کہ نبی ہو اور دنیا کی ہر چیز اس کی وفادار نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ جن وانس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ دی ہے جو نبی کو۔ اہل اللہ کو اللہ والوں کو اس کے نیک بندوں کو جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے بلکہ اس کے مرتبے کے درجات کو بھی پہچانتی ہے کہ اس کا مقام کتنا ارفع ہے اور اس کا حکم ماننے کی حدود کیا ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں رہنے والے سوٹے کو علم ہو گیا تھا کہ جس کے مقدس ہاتھوں کا لمس مجھے نصیب ہے یہ کوئی عام سی شخصیت نہیں بلکہ طور پہاڑ پر اسرار و رموز کے پردے کھلنے والی ساری رات کی خلوت میں بھی وہ ساتھ ساتھ تھا۔ اس لئے جب تک وہ آپ کے مقدس ہاتھ میں ہوتا وہ عصا اور سوٹا ہی رہتا اور آپ کے ہاتھ سے دوری کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کے اور آپ کے خالق کی دشمن پارٹی کے لئے خطرناک اژدھا بن جانا ہوتا تھا۔ وہ پتھر پر ضرب لگاتے ہوئے پتھر کو بھی بتا دیتا ہوگا کہ یہ مار کوئی ایسی ویسی نہیں۔ بے شک تو چھوٹا سا ہے لیکن تجھ سے پانی کے بارہ چشمے پھوٹ پڑنے چاہئیں کہ اگر ستر لاکھ انسان بھی پانی پینا چاہیں تو پانی ختم نہ ہو۔ اگر دریا کے بہتے پانی پر ضرب لگاتا تو اسے یہ

بھی سمجھا دیتا ہو گا کہ یہ ضرب کوئی معمولی سی ضرب نہیں ہے کہ کھلنڈرے بچے یا کسی عام سے آدمی نے ماری ہو اور تو پرواہ ہی نہ کرے۔ یہ مجھ سے پوچھ یہ کون ہے یہ اس قبیلے کے لوگ ہیں جن کی اپنی ذاتی کوئی حرکت اپنی نہیں ہوتی۔ ان کے ہر قدم کا اٹھنا مالک کی رضا کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس ضرب کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے ساتھ ستر لاکھ انسان ہیں۔ تیرے اوپر پل بنانے کا وقت نہیں۔ شیطان کی پارٹی کے لوگ سر پر چڑھے آرہے ہیں۔ فوراً خشک ہو جا مختلف جگہوں پر بارہ سڑکیں بڑی بڑی وسیع بنا دے اور یہ سب آرام سے گزر جائیں اور ان میں سے کسی ایک کا پاؤں بھی گیلانہ ہو۔ ان میں سے ہر ایک کو پہچانا اب تیرا کام ہے۔ خبردار کوتاہی نہ ہو اور ان کے بعد دوسری پارٹی کے لوگ بھی آرہے ہیں۔ اور سن! ان میں سے کوئی ایک بھی بچ کر بھی نہیں جانا چاہئے ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا پھر تیار ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جلال موسوی سے دوسرا پڑا ہوا ڈنڈا تیرا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے۔

ہاں ہاں یہی وہ ادراک تھا، وہی آنکھ تھی، جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ آتش نمرود میں بے دھڑک کود پڑنے پر تڑپ اٹھی تھی کہ مالک یہ ہے وہ شخص! جس کی آمد سے پہلے مجھے اپنی فطرت ازلی ہی تبدیل کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ نہ جانے اس وقت آگ اور آتش نمرود نے آپ کی آمد پر کتنی بار اہلا و سہلاً و مرحبا کہا ہو گا۔ کتنی بار ”ست بسم اللہ جی آیاں نوں“ کہا ہو گا۔ کتنے پھول، کتنی کلیاں، کتنے گجرے، کتنے گلدستے پیش کئے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس نے بھی پہلی بار ہی دیکھے ہوں گے ورنہ اس کے نصیب میں تو جلنا ہی تھا۔ صدیوں سے قرنوں سے وہ جل رہی تھی۔ ایک اللہ والا کیا آیا اس کی آمد سے اس کی اپنی تقدیر ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ

ہم اسی قبیل کے لوگ ہیں اگرچہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے مالک کے صدقے

اور قربان جائیں جو ہمیں ایسی آنکھیں ایسی پہچانیں پھر ایسی جاں نثاریاں عطا کر دیتا ہے۔

آپ کہیں گے بات گوشت سے چلی تھی کہاں جا پہنچی۔ ہاں محبت کی وادی کی باتیں ختم نہیں ہوتیں۔ یہ مزید آگے سے آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت نے زہر آلود گوشت آپ کے حضور پیش کیا اور آپ وہ تناول فرمانے لگے تو یقیناً زہر نے اپنے اثرات زہر نکال کر باہر رکھ دیئے ہوں تاہم اس خاتون کو حضور جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا،

لَا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ (البخاری کتاب الہبہ)

یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے ناکام بنا دیا ہے۔

روایت بزاز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تناول فرمانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو

إِنَّ عَضْوًا مِّنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ (كشف الاستار ۳=۱۴۰)

تو اس کے ایک حصے نے مجھے اطلاع دی آقا یہ گوشت زہر آلود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں زہر آلود بکرنی کا گوشت لایا گیا ابو داؤد اور بیہقی میں ہے۔ آپ نے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے کھانے سے منع فرما دیا کہ أَخْبَرْتَنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ اس دُتِي نے مجھے اپنے زہر آلود ہونے کی اطلاع دیدی ہے۔

بے نوانواں نون نوا بخشی میری سرکار نے

گونگیاں نون چھ بخشی تے صداواں بخشیاں

تو آپ نے فرمایا جو جو یہودی یہاں موجود ہیں ان سب کو میرے پاس لاؤ

جب ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سچ کہو گے۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور آپ نے ایک شخص سے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے۔ کہنے لگا فلاں آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تمہارا والد تو فلاں ہے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا ہے۔ فرمایا، ایک بات اور پوچھوں تم سچ کہو گے۔ کہنے لگے ہاں، آپ نے فرمایا: تم نے اس بکری میں زہر کیوں ملایا تھا۔ کہنے لگے،

أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ

(بخاری کتاب الطب)

ہم نے چاہا تھا اگر آپ کاذب اور چھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر آلود گوشت کوئی نقصان نہیں دے گا۔

ابوداؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے جب صحابہ کو منع فرمایا۔ تو اس یہودی عورت کو بلوایا اور پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا تھا۔ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا تو آپ نے فرمایا:

أَخْبَرْتَنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذَّرَاعِ (ابوداؤد کتاب الدیات)

مجھے اس دستی نے اطلاع دی ہے۔

مسند بزار میں ثقہ رجال سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ رک جاؤ۔

فَإِنَّ عَضْوًا مِّنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي إِنَّهَا مَسْمُومَةٌ

اس گوشت کے ایک عضو نے مجھے زہر آلود ہونے کی خبر دی ہے۔

(کشف الاستار ۳=۱۴۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

فِي الْحَدِيثِ أَخْبَارُهُ عَنِ الْغَيْبِ وَ تَكْلِيمِ الْجَمَادِلَهُ (فتح الباری ۱۰=۲۳۶)
 اس حدیث مبارکہ سے آپ کا غیبی خبر دینا اور جمادات کا آپ سے گفتگو کرنا
 ثابت ہو رہا ہے۔

بغیر اجازت اٹھائی ہو ذبح شدہ بکری کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

محبت

پاک لوگوں کی غذا بھی پاک ہوتی ہے۔ اس کی پاکیزگی صرف ظاہری ہی
 نہیں بلکہ باطنی اور فکری و فطرتی پاکیزگی ہونا بھی شرط ہے اور وہ ذات جس کا
 سوتے میں بھی وضو نہ ٹوٹتا ہو۔ اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ قادر مطلق، خالق و
 مالک نے جنہیں ویز کیم کی مسند پر خود آپ بٹھایا ہو۔ اس کو ہرنا پاکی سے بچانا بھی
 اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ ساری مخلوق اسی کی فرمانبردار ہے۔ اس لئے ہر چیز کو حکم
 دے دیا گیا ہوگا کہ احتیاط کرنا۔

جیسے ساری دنیا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی عیب کے قریب نہ جانا۔
 عیب دار ہو جاؤ گے۔ سفید چادر پر داغ لگ جائے تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے لگتا
 ہے کہ ایسے ہر عیب اور ہر نقص سے کہہ دیا گیا ہوگا کہ تم نے میرے محبوب جان
 کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں جانا کہ ان کا نام محمد ہے۔ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب
 نہ ہو۔

جس نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ ایک لقمہ حرام کا کھا لینے سے چالیس دن دعا
 قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حرام چیز کے کھانے سے کتنا محفوظ
 رکھا ہوگا۔ اس کا اندازہ لگانے کے لئے ایک دو واقعات پر اکتفا جاتا ہے۔
 ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

ساتھ ایک جنازہ کے لئے گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سرکار، قبر کھودنے والے کو ہدایات دے رہے تھے۔ اسے پاؤں اور سر کی طرف سے کشادہ کرو، جب ہم واپس ہوئے تو ایک خاتون نے کھانے کے لئے آپ کو دعوت پیش کی۔ جو آپ نے قبول فرمائی۔ آپ اس کے ہاں تشریف لائے۔ کھانا پیش کیا گیا۔ پہلے آپ سرکار نے شروع فرمایا آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اور صحابہ نے لقمہ ابھی منہ میں رکھا ہی تھا تو آپ نے فرمایا

أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أَخَذْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

میں نے محسوس کر لیا ہے کہ اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا

ہے۔

آپ نے خاتون سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کریم! مہربانا۔ میں نے بکری خریدنے کے لئے آدمی بھیجا تھا مگر نہ ملی پھر پڑوسی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی بکری ہمیں بھیج دو مگر وہ بھی وہاں موجود نہ تھے پھر میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تو اس نے بکری بھیج دی۔ آپ نے فرمایا اس کا گوشت قیدیوں کو کھلا دیا جائے۔

اس روایت کو امام ابو داؤد، امام احمد، بیہقی اور دارقطنی نے اسناد صحیح سے بیان کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایک خاتون کے ہاں تشریف لے گئے اس نے بکری ذبح کر کے کھانا پیش کیا۔
وَكَانُوا لَا يَبْدُؤُونَ حَتَّى يَبْتَدِعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارک تھی کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ادباً وہ ابتداء نہ کرتے تھے۔

آپ نے لقمہ لیا اور تناول نہ فرمایا اور فرمایا:

هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَهْلِهَا

یعنی اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ہی ذبح کیا گیا ہے۔ خاتون سے پوچھا تو عرض کرنے لگیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور سعد بن معاذ کے خاندان کے درمیان اس قدر باہمی اعتماد ہے کہ اشیاء کی قیمتیں پوچھے بغیر

نَاخِذُ مِنْهُمْ وَ يَأْخُذُونَ مِنَّا

یعنی ہم ان کی اشیاء لے کر استعمال کر لیتے ہیں اور وہ ہماری اشیاء بغیر اجازت لے لیتے ہیں۔

اس روایت کو امام احمد نے رجال صحیح سے بیان کیا ہے۔

جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے سے حرام سے محفوظ مامون رکھا وہاں یہ بات بھی تو ہمارے مہربانوں! یاد رکھو کہ ہمارے قبیل کی جمادات نے اپنی حیثیت و کیفیت سے سرکار کو مطلع فرما دیا۔

آپ کی چھٹری مبارک کے اشارے سے بتوں کا گرنا

وہ بت جو صدیوں سے بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے تھے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے سر ہر روز ان کے حضور جھکتے تھے۔ وہ بت ان جھکنے والوں کے لئے کبھی ہلے جلے نہیں۔ ان کی فریاد پر نہ کبھی جواباً آہیں بھریں نہ ان کو دلاسا دیا بلکہ جواباً نہ ہوں نہ ہاں! وہ سمجھتے تھے یہ انسان ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ انسان ہوتے تو ان میں انسانیت ہوتی اور اپنے مالک کو پہچانتے اسے جانتے پھر اسی کو مانتے۔ یہ شکل انسان میں پتھروں سے بھی بدتر ہیں اور جو ہم سے بد ہی نہیں بدتر ہیں۔ ہم ان کے لئے کیوں اپنی جانیں ہلکان کریں ان کے لئے کیوں تڑپیں۔ ان کو انسانیت کیوں سکھائیں۔

اور جب ان بتوں نے دیکھا کہ یہ انسان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں میں سے بھی عظیم تر انسان آ گیا ہے اور وہ آ گیا ہے جو قیامت تک کے

لئے ہر شکل نما پتھر، بھیڑیے، حیوان تک کو انسانیت سکھانے والا آ گیا ہے وہ عظیم انسان آ گیا ہے جس پر انسانیت بھی ناز کرتی ہے۔ اور خود خالق بھی اس کی انسانیت پر ناز کرتا ہے جب ان بتوں نے دیکھ لیا کہ یہ اتنا بڑا انسان ہے کہ اتنا بڑا ہو کر بھی بلکہ اشرف مخلوقات ہو کر بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا حتیٰ کہ گفتگو کا کوئی ایک جملہ بھی اپنی مرضی سے اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ اس کا ہر کام مالک ہی کی رضا کے لئے ہے۔ ہم بائیس تیس سال سے دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اپنے مالک سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا بلکہ لاکھوں میں انسانیت کا وصف پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔

تو انہوں نے سوچ لیا کہ یہ عظیم شخص ہمیں اشارہ بھی کرے تو ہم اپنے سارے کروفر، اپنی شوکتیں، رفعتیں، عظمتیں، اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ وہ اندھے تو نہیں تھے ناں وہ تو سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گاہے بہ گاہے پہلے بھی موقع ملتے ہی سلام نیاز پیش کرتے رہتے تھے اور جب موقع آ گیا کھل کر قدموں میں گر کر اس کی عظمت کا رفعت کا شان و منزلت کا اعتراف کرنے کا تو وہ اشارے کے منتظر رہنے لگے۔

یہ وہ وقت تھا کہ ان انسان نما پتھروں سے بھی بدتر لوگوں کا سر پرست اعلیٰ رجیم ولعین شیطان بھی بتوں کو آخری وقت تک اعترافِ حقیقت سے روکنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا لیکن وہ تو صدیوں سے اس کی سازشیں دیکھ رہے تھے۔ اب جھوٹے کے جھوٹ کا پول کھلنے والا تھا۔ اب اس کی رعونت کی ساری غمارت، زمین بوس ہونے والی تھی۔ اس کے سازشی ذہن کو پڑھتے پڑھتے صدیاں بیت رہی تھیں۔ اب حق کا بول بالا ہونے والا تھا۔ مالک اور مالک کی ساری مخلوق حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پارٹی کا بول بالا ہونے والا تھا۔ اب تو وہ بت حزب اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے سب سے بڑے نمائندے کے اشارے کے منتظر تھے۔ ساڑھے تین

سو سے زیادہ کی بتوں کی جماعت جاء الحق کا جاں نواز جملہ سننے کے لئے بے چین تھی، بے قرار تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چشم دید گواہی دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو

فَجَعَلَ يَطْعَنَهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ

آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ چھڑی انہیں لگائی اور فرمایا: اے بتو! کہہ دو اپنی زبانِ حال سے اور سرنگوں ہو کر اعتراف کرو بھی کراؤ بھی کہ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۱۷/۸۱۰

کہ حق آگیا حق چھا گیا اور باطل و جھوٹ بھاگ گیا۔ آخر باطل کو ذلیل و خوار تو ہونا ہی تھا۔

جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک سے نکلنے والے حقیقت افروز اور مردہ انسانیت میں جان پیدا کر دینے والے الفاظ کا ثناء تھا کہ سب کے سب بت سرنگوں ہو گئے دنیا نے دیکھ لیا

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۰

کہ باطل کو ذلیل و رسوا ہونا ہی تھا اور وہ ہو بھی گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے استلام فرمایا پھر آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔

فَاتَى عَلَى صَنِمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ وَهُوَ اخِذٌ بِسِيَةِ

الْقَوْسِ فَمَا آتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ بَطْنَهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (المسلم، کتاب الجہاد)

پھر سرکار ان بتوں کے پاس آئے جن کی کفار پوجا کرتے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک کمان تھی آپ نے کمان ہر بت کی آنکھ پر مارتے ہوئے پڑھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ کھو حق آگیا اور باطل بھاگ گیا۔

اے مکہ کے آنکھیں رکھنے والے اندھے بے بصارت اور بے بصیرت لوگو! تم نے دیکھا جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی آنکھوں پر کمان ماری اور فرمایا اے بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہوئے اصنام باطل، آنکھیں کھولو نیند کے ماتو جا گودیکھتے نہیں ہو۔ کون آیا ہے اور کس شان سے آیا ہے ہوش میں آؤ اور قافلہ سالار انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ناقوس ازلی بجانے میں شامل ہو جاؤ۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
حق آگیا حق چھا گیا باطل بھاگ گیا اور باطل آخر ایک دن ذلیل و رسوا ہونا ہی تھا اور وہ ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں۔

فَجَاءَ مَعَهُ قَضِيْبَةٌ فَجَعَلَ يَهْوِي بِهٖ اِلَى كُلِّ صَنَمٍ مِنْهَا فَيَخْرُ
لِوَجْهِهٖ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
زَهُوقًا حَتّٰى خَرَّ بِهٖ عَلَيَّهَا كُلَّهَا

آپ تشریف لائے آپ کے مبارک ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ نے ہر بت کو ماری تو وہ اسی وقت منہ کے بل گر پڑا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
حتیٰ کہ تمام بت زمین بوس ہو گئے۔

(اسے طبرانی نے کبیر میں، تمیمی نے دلائل میں، بزاز اور بیہقی نے دلائل میں رجال ثقہ سے روایت کیا ہے اور فاکھی نے بھی اسے نقل کیا ہے) (المجم الکبیر ۱۰=۳۳۹)

فَلَمْ يَبْقَ وَثْنٌ اسْتَقْبَلَهُ إِلَّا سَقَطَ عَلَى قَفَاهُ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ ثَابِتَةً
بِالْأَرْضِ

جس بت کے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا۔ وہ پشت کے بل گر پڑتا حالانکہ وہ زمین کے اندر گڑے ہوئے تھے۔

(اسے فاکھی طبرانی نے کبیر اور اوسط میں ذکر کیا۔ ابن حبان نے اسے صحیح کہا۔ بیہقی نے بھی دلائل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی مثل نقل کیا ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے لیکن سابقہ روایت اس کی تائید کرنے والی ہے۔) (دلائل النبوة للبیہقی ۵-۷۲)

ومارمیت کا باقی ماندہ واقعہ

جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے غزوہ حنین میں پھینکی جانے والی کنکریوں کا تذکرہ نامکمل رہ گیا تھا۔ اگرچہ ہم موضوع سے باہر نکلے ہی نہیں تھے۔ تاہم اس واقعاتی حقیقت کو نامکمل رہنا نہیں چاہئے۔

غزوہ حنین میں کنکروں کی حضور سے محبت

غزوہ حنین بھی غزوہ احد کی طرح اہل ایمان کیلئے بڑا صبر آزما تھا۔ وہاں بھی مستقبلات کی ایک ایک جز پر نظر رکھنے والے دورانِ اندیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برعکس گھاٹی اور درے میں کھڑے صحابی سے اجتہادی غلطی سے حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور یہاں غزوہ حنین میں بھی چند ایک صحابہ کے اذہان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب، محبوب محبوبانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ میں کمی اور اپنی کثرت پر اعتماد کی زیادتی نے پریشانی کا شکار کیا۔ معلوم یہ

ہوتا ہے غزوہ حنین میں جو واقعہ تکلیف دہ ہوا وہ صرف ہم سنگریزوں کو نوازنے کے لئے ہوا۔ ہماری شان اور مرتبہ بڑھانے کے لئے ہوا۔ ہمیں بھی مجاہدین اسلام اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثاروں میں شامل کرنے کے اعزاز عطا کرنے کے لئے ہوا۔ ہمیں بھی دشمنانِ خالق و مالک دشمنانِ نظامِ مصطفوی اور دشمنانِ و خیرہ چشم محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حزیمت و شکست دینے والے مجاہدین میں شامل کرنے کے لئے ہوا ورنہ جن کے اشارہ ابرو پر نظم کائنات برہم ہو جاتا ہے۔ ان کے مسائل کیسے الجھ سکتے ہیں جن کی ٹھوکرا سے صحرا و دریا کا دو نیم ہونا معمولی بات ہے۔ پہاڑوں کا رائی بنانا ان کی ادنیٰ سی ہیبت کا کرشمہ ہو۔ وہاں ایسے واقعات کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ صرف انسانوں، حیوانوں کے قدموں میں روندے جانے والے ذروں اور سنگریزوں کو عزت بخشنے کے لئے یہ سارا اہتمام کیا گیا۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ہم غزوہ حنین میں راحت و جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک جنگ تھے۔ میں گھاٹی پر چڑھا تو وہاں ایک دشمن سے ٹکر ہو گئی۔ میں نے اسے کھینچ کر تیر مارا۔ نشانہ تو بہت کم خطا جایا کرتا تھا لیکن جانے کیا ہوا کہ تیر غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ دوسری قوم دوسری گھاٹی پر تھی اور صحابہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہم دست و گریباں ہے۔ صحابہ میرے ساتھ پیچھے ہٹے۔ اس وقت میں دو چادریں اوڑھے ہوئے تھا۔ ایک تہہ بند کے طور پر اور ایک اوپر جسم پر تہ بند ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ نے مجھے پہچان لیا اور آواز دی۔ اے اکوع کے بیٹے جنگ سے گھبرا گیا ہے۔ آپ اس وقت اپنی سواری شہباء پر سوار تھے۔ جب کفار نے آپ کو گھیر لیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔

ثُمَّ قَبْضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِّنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهُهُمْ
فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنِيهِ
تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(المسلم کتاب الجہاد)

آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور کفار کی
طرف پھینکتے ہوئے شاہتِ الوجوہ فرمایا تو ان میں سے ہر انسان
کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور وہ لوگ بھاگ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے
انہیں شکست فاش دی۔

آپ نے حضرت سلمہ بن اکوع کے یہ الفاظ پڑھے اور سماعت فرمائے۔

فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنِيهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ

یعنی جو انسان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے (اور وہ دشمن کی فوج میں تھا)

اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی مٹی
سے اس کی آنکھیں بھر گئیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

بظاہر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں کتنی مٹی کے

ذرے آئے ہوں گے اور وہ بدنصیب تعداد کے اعتبار سے کئی ہزار تھے۔ کسی کا منہ

کسی طرف کسی کا منہ کسی طرف، کسی کی آنکھیں کھلی ہوئی اور کسی کی بند ہوں گی لیکن

ہمیں تو دست مبارک کے پھینکنے کے انداز نے بتا دیا تھا کہ یہ کنکریاں جو میں پھینک

رہا ہوں یہ بظاہر میرا ہاتھ ہے۔ درحقیقت یہ اس ہاتھ سے پھینکی جا رہی ہیں جو تمہارا

بھی اور ساری کائنات کا واحد مالک ہے اور میں اس وقت پوری کائنات میں اس

کا واحد نمائندہ ہوں۔ بس اپنا کام شروع کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ کا کوئی دشمن اور

شیطان لعین اور زحیم کی پارٹی کا کوئی انسان بچ کے نہ جائے۔

بس کنکریاں پھینکتے ہوئے زبانِ حال سے آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ہم نے اپنا

کام شروع کر دیا پھر تو ہماری پارٹی کے کئی مٹی کے ذرے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہوں گے اور کوئی بد قسمت و بدنصیب دشمن رسول ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں ہاں دونوں آنکھیں ہم نے مٹی سے بھر نہ دی ہوں۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگ جاتے۔ آنکھوں کی مٹی صاف کرتے لیکن ہمارا کام ان کو بھگانا بھی تھا۔ اس لئے ہم نے انہیں آنکھیں صاف کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔

فَوَلُّوا مُذْبِرِينَ

وہ پیٹھ دکھا کر یوں بھاگے جیسے تیر سے ڈر کر شکار بھاگتا ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہے کہ وہ صاحب جن کے ساتھ میں خود بھی شامل تھا جنگ سے گھبراتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے لیکن محبوب کائنات جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری ”شہباء“ پر سوار اپنی جگہ ثابت قدم کھڑے تھے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے قدم ڈگمگاہٹ کا شکار نہیں ہوئے۔ پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ کبھی لغزش کا اور حالات کی کشیدگی سے گھبراہٹ کا یا میدان سے افراتفری کے عالم میں بھاگ نکلنے کا واقعہ ممکن ہی نہیں کہ یہ نبوت کا خاصہ ہے۔

حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما بھی اس غزوہ حنین میں جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا بیان ہے اور یہ گواہی ان کی چشم دید گواہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ

میں غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بھی ساتھ تھے اور ہم کسی لمحے آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے یہ سواری فروہ بن نفاشہ الجزامی نے حضور سر اپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ پیش کی تھی۔ جب

جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف حملہ آور ہونے کے لئے سواری کو ایڑ لگائی۔ میں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور اس سواری کو تیز رفتاری سے روک رہا تھا۔ ابوسفیان نے بھی لگام تھامی ہوئی تھی آپ نے ارشاد فرمایا عباس اصحاب سمرہ کو آواز دو (ان کی آواز خوب بلند تھی) جب میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا تو حالت یہ تھی۔

فَوَاللَّهِ لَكَانَ عَطْفَتُهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقْرِ عَلَى
أَوْلَادِهَا

اللہ کی قسم میں ان پر ترس کھا رہا تھا۔ انہوں نے میری آواز کو یوں محسوس کیا جیسے گائے اپنے بچوں کے لئے آواز نکالتی ہے۔
تو آگے سے مجاہدین کی طرف سے یالہیک یا لبیک ہم حاضر ہیں۔ ہم حاضر ہیں۔ کی آوازیں آنے لگیں۔

اس حدیث مبارکہ کے آخر میں ہے کہ جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں چند سنگریزے لیے اور دشمن کی طرف پھینکے اور فرمایا:

فَهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ

اے دشمنو! مجھے رب محمد کی قسم تمہیں ضرور شکست ہوگی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنگ تو جاری تھی لیکن

خدا کی قسم

فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحِصْيَاتِهِ فَمَا زَالَتْ أَحَدُهُمْ كَلِيلًا
وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا (المسلم کتاب الجہاد)

یعنی سنگریزے پھینکنے کی دیر تھی میں نے دیکھا ان پر رات کی تاریکی چھا گئی اور وہ بھاگ نکلے۔

یہ واقعہ جن صحابہ سے مروی ہے ان میں حضرت ابو عبد الرحمن القمری ہیں جن سے امام احمد، دارمی، طیالسی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ابی شیبہ، طبرانی، بیہقی نے نقل کیا ہے۔ ان میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان سے امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ باقی بدر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس بارے میں بھی متعدد روایات ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس، حضرت حکیم بن حزام، اور نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہم سے ہے۔

آئمہ اہل مغازی مثلاً امام زہری، محمد بن یحییٰ بن حبان، عاصم بن عمر بن قتادہ اور عبد اللہ بن ابی بکر وغیرہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی مٹی کی کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا ان کے چہرے بھر جائیں۔

فَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَدٌ إِلَّا أَصَابَ عَيْنِيهِ وَمَنْخَزِيهِ وَفِيهِ

تُرَابٌ مِّنْ تِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ (دلائل النبوة ۳=۷۸)

گویا آپ کی طرف سے پھینکی ہوئی مٹی کا ایک ایک ذرہ کثیر مٹی کی صورت اختیار کر گیا اور ہر کافر کی آنکھیں ناک اور منہ اس مٹی سے بھر گیا۔

ہاں وہ ہم ہی خاک کے ذرے تھے۔ ہم نے میدان کے مٹی کے ذروں کو آنکھ کا اشارہ کیا، جلدی کرو اور خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ اور خود ہی سمجھ جاؤ ہم نے کیا کرنا ہے بس پھر کیا تھا۔ ان کے سارے ماحول میں اندھیرا چھا گیا۔ اندھے تو وہ تھے ہی کہ اتنی عظمتوں کا پیکر ان کے سامنے کھڑا ہے اور اس کی شان و منزلت مقام رفعت و عظمت نہ پہچان سکے۔ باقی کسر ہم نے پوری کر دی۔ ہماری پارٹی کے تمام ذروں نے اپنی اپنی ڈیوٹی سرانجام دینی شروع کر دی اور خوب کی کچھ نے کہا، تمہارے منہ میں خاک۔ یہ کہہ کر ان کے مٹی سے منہ بھر دیئے۔ کسی نے کہا تمہاری ناک خاک آلود ہو اور انہوں نے ان کی ناک مٹی سے بھر دی۔ کسی

نے کہا تمہاری آنکھوں میں مٹی اور انہوں نے واقعہ آنکھیں مٹی سے بھر بھی دیں۔

جو بھی آیا ہدف پر وہ کب بچ سکا
چوکتا ہی نہ تھا کوئی نشانہ میرا
ناتوانی پہ میری جو ہیں خندہ زن
ان کو البم پرانا دکھانا میرا

پتھر کی غلامی

کسی کی غلامی میں اطاعت کرنے والے غلام کی حرکات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلامی بادل نخواستہ ہو رہی ہے یا اطاعت و فرمانبرداری سے کہیں عقیدت و محبت کا بھی کوئی پہلو بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے غلام ایاز کی غلامی کی طرف دیکھ کر کئی سرداروں کو اپنی سرداریاں چھوڑ کر اس جیسی غلامی اختیار کرنے کی حسرت پیدا ہو گئی تھی۔

ایک قفس کی قید کی غلامی ہے اگر ایسے غلام کے لئے قفس کی تیلیاں سونے چاندی کی بھی بنا دی جائیں تو غلام کو سکون نہیں دے سکتیں اور اگر کوئی محبوب اپنے حسن وجہ، حسن تکلم، حسن نظر، حسن علم و فن، حسن طبع، حسن سیرت و کردار کے قفسوں میں سے کوئی قفس تیار کر کے بازار میں لے آئے تو کئی آزاد منس پنچھی، خود بخود ہی اس قفس میں قید ہوتے جائیں اور جب تک یہ قفس موجود رہے گا اس کے حسن کے تیندوے کی تاروں سے کوئی پنچھی آزاد ہونا گناہ سمجھے گا۔

ہم پتھر ہیں کوئی دل تو نہیں رکھتے۔ دل کی دھڑکنیں نہیں رکھتے بظاہر بے حس بے جان ہیں پتھر ہی پتھر، لیکن جب ایک شاہکار ربوبیت منزہ، مطہر، معطر، معتبر، روشنیوں کا منبع، پیکر اعجاز، زینت عرش بریں، خاتم حق کے نکلیں، سرور دنیا و دیں، ہادی دین مبیں، نور حق، نور مبیں، مالک خلد بریں، پیشوائے انبیاء و مرسلین، زینت رض و سموات حبیب، مظہر شان رب ذوالجلال سید خیر البشر، رونق شمس و قمر و سیاح

سیارگان چرخ نیل گوں، سرور عالی مقام، سید خیر الانام، شمع بزم اولین و آخرین، زینت و رونق عرش بریں، راز دار اسرار کن فکاں، مالک کون و مکاں اور پیشوائے مرسلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری تابانیوں، جلوہ سامانیوں اور رفعت سامانیوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے تو ہم پیچھے کیسے رہ سکتے تھے۔ ہم نے بھی آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالا اور سرخرو ہو گئے۔ ہم نے اپنی طرف سے غلامی میں آپ کی محبت میں، آپ کے حکم کی اطاعت میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کی۔

اگر ناپاک و پلید اور حرام جانور کتا، چند نیک بندوں کی غار کے دروازے پر رکھوالی کی سعادت حاصل کرنے پر ابدالآباد کی زندگی پا کر جنتی بن سکتا ہے تو یقین کیجئے ان شاء اللہ پیچھے ہم بھی نہیں رہیں گے۔ انشاء اللہ الکریم

آپ کے حکم کی اطاعت ہی غلام کا کام ہے۔ آئیے ہم آپ کو آپ ہی کے ایک ساتھی حضرت ایمن مخزومی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں،

”میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا یوم خندق میں ہم خندق کھود رہے تھے۔ ایک بڑا سخت جان پتھر سامنے آ گیا۔ ہم سب نے مل کر اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر ہم نے حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کیا، فرمایا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت شدت بھوک سے آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ رکھا تھا کیونکہ ہم نے تین دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔

فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَعْوَلَ

فَضْرَبَ فِي الْكِرْيَةِ فَعَادَ كَثِيبًا أَهِيلٍ (البخاری باب المغازی)

یعنی آپ نے کدال ہاتھ میں لی، اس پر ماری، تو وہ چٹان دو حصوں میں ٹوٹ پھوٹ کر علیحدہ ہو گئی۔

شاید اس پتھر کے نہ ٹوٹنے میں کوئی مسئلہ تھا کہ وہ اتنے لوگوں کی ضربوں سے بھی نہ ٹوٹا لیکن جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ماری تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ شاید وہ آپ ہی کی ٹھوکر سے ٹوٹے ٹوٹے ہو کر زندگی پا جانا چاہتا ہو کہ آج تک اس کا نام احادیث مبارکہ میں زندہ ہے۔

دشت طلب میں تنہا نکلو، یا پھر اس کے ساتھ چلو
جس کی ٹھوکر راہ نکالے، راہ میں ٹھوکر کھائے کم

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک ایسی چٹان درمیان میں آ گئی کہ اس کو توڑتے توڑتے ہماری کدالیں عاجز آ گئیں۔ آخر ہم نے آ کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ تو آپ خود تشریف لے آئے۔

فَاخَذَ الْمُعَوَّلَ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَضْرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَّرَتْ لَكَ الْحَجْرَ
آپ نے کدال لی اور بسم اللہ کہا یعنی اللہ کا نام لے کر ایک بھر پور ضرب ماری تو اس کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔

آپ نے فرمایا:

اللّٰهُ اَكْبَرُ، اُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشّامِ وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَا اَبْصِرُ قُصُوْرَهَا
الْحَمْدُ مِنْ مَّكَانِىْ هٰذَا

مجھے ملک شام کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں یہاں
کھڑے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔

پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی اور اس کا ایک اور تہائی حصہ

ٹوٹ گیا تو فرمایا:

اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسٍ وَاللَّهُ إِنِّي لَا أَبْصِرُ الْمَدَائِنَ
وَأَبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضُ مِنْ مَّكَانٍ هَذَا

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ مجھے ملک فارس کی چابیاں عطا فرمادی گئیں۔
اللہ کی قسم! میں مدائن شہر اور اس کے سفید محل یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔
پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی تو
فرمایا:

اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللَّهُ إِنِّي لَا أَبْصِرُ أَبْوَابَ
صَنْعَاءٍ مِنْ مَّكَانٍ هَذَا

مجھے یمن کی چابیاں عطا فرمادی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں یہاں سے
صنعاء کے دروازے ملاحظہ کر رہا ہوں۔

یہ پتھر کسی اور کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ اس پتھر کی شکست صرف اس
پتھر کی شکست نہیں تھی یہ تو اس وقت کی سپر پاور زملکوں کی شکست تھی۔ اس کے
شہروں کے ان کے محلات کے رنگ اس چٹان نے اپنی ٹوٹ پھوٹ کی تہوں میں
چھپا رکھے تھے۔ آپ کی محفل اقدس میں بیٹھنے والے بے نظیر و بے مثال لوگ ابھی
اس مقام رفعت پر نہ پہنچ پائے تھے کہ چابیاں ان املاک کی ان کے ہاتھ میں دے
دی جائیں۔ چابیاں تو مالک کے ہاتھ میں دی جاتی ہیں پھر مالک جس کو چاہے
اپنے ہاتھ سے عطا فرمائے اور جب چاہے سے عطا فرمائے۔ یا ابھی وقت نہیں آیا
تھا کہ یہ چابیاں ان کو عطا کی جائیں بلکہ وہ چابیاں تو ان عظیم ہستیوں کے ریزہ
خواروں کے ہاتھوں میں کچھ دیر بعد عطا ہونی تھی اس لئے یہ پتھر جہاں بہت سخت
تھا وہاں وہ بہت دانشور اور سیانا بھی تھا کہ مالک نے جو چابیاں میرے دامن میں
چھپا رکھی ہیں وہ مالک کے واحد نمائندے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حضور ہی پیش کروں۔ سبحان اللہ

اس روایت کو امام احمد، نسائی نے کبریٰ میں اور بیہقی نے روایت کیا۔ حافظ نے فتح میں اسے حسن کہا ہے طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی مثل نقل کیا ہے۔ بیہقی نے حضرت عمرو بن عوف اور نسائی نے طویل حدیث سند حسن سے ایک صحابی سے نقل کی۔ اس کا کچھ حصہ ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے۔ طبرانی نے کبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے رجال صحیح سے روایت کیا۔ ماسوائے عبداللہ بن احمد بن حنبل اور نعیم العبدی کے یہ دونوں ثقہ ہیں۔

(مسند احمد ۴ = ۳۰۳)

جان ہر دو عالم حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی لاڈلے متنبی حضرت زید کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے جس میں ایک بچے والی خاتون اور زواج کا واقعہ بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ سید کائنات وارث ارض و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلک وسلم اس سفر حج میں میں نے کھجوروں کے باغات اور پتھروں کی چٹان دیکھی ہے۔ فرمایا: ان باغات کے پاس جاؤ اور ان سے کہو۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُ كُنَّ أَنْ تَدَائِبِينَ لِمَخْرَجِ رَسُولٍ وَقُلْ
لِلْحِجَارَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم رفع حاجت کے لئے پردہ بنو اور اسی طرح پتھروں سے بھی کہو۔

فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَقَدْ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النَّخْلَاتِ
يَأْخُذْنَ الْأَرْضَ خَدًّا حَتَّى اجْتَمَعْنَ وَأَنْظُرُ إِلَى الْحِجَارَةِ

يَتَقَافِرُنَ حَتَّىٰ صِرْنَ رَجْمًا خَلْفَ النَّخْلَاتِ

اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا درخت اپنی اپنی جڑوں سے اکھڑ کر اکٹھے ہو گئے اور پتھروں نے جمع ہو کر درختوں کے ساتھ مل کر ایک دیوار بنالی۔

میں نے واپس آ کر عرض کیا میرے کریم آقا! حکم کی تعمیل ہو چکی تو فرمایا پانی کا برتن لے کر چلو۔ جب آپ نے رفع حاجت فرمائی تو فرمایا اے اسامہ! باغات اور پتھروں سے کہہ دو جاؤ اب اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ لہذا میں نے انہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیدیا تو وہ اپنی اپنی جگہ لوٹ گئے۔

اسے ابو یعلیٰ، ابو نعیم اور بیہقی نے دلائل میں ذکر کیا ہے۔ ان تمام کی سند میں معاویہ بن یحییٰ الصدنی ہے جو ضعیف ہے اس کے باوجود حافظ نے مطالب میں فرمایا اس کی سند حسن ہے اور اس میں ایک ضعیف راوی ہے۔ لیکن امام احمد کے ہاں طریق یعلیٰ سے اس کا شاہد ہے۔ اس کے محقق نے امام بوسیری سے نقل کیا ہے۔ اسے ابو یعلیٰ نے سند حسن سے روایت کیا ہے اور باب میں اس کے شواہد کا تذکرہ آچکا ہے۔ بیہقی کہتے ہیں باب میں اس حدیث کے شواہد آچکے ہیں۔ اس کی مثل حضرت جابر اور حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہم سے بچے اور درختوں کے بارے میں روایت ہے۔ جس میں زراع کا اضافہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کے متعدد شواہد ہیں۔

ہم پتھر لوگ، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب اتنے برگزید اللہ کے اور اس کے رسول کے بندے واقعات و شواہد کو قسمیں کھا کھا کر بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے تو ویسے ہی کوئی لفظ نکلے تو وہ اظہر من الشمس ہوتا ہے۔ اس کی صداقت مسلمہ ہے لیکن ان کا قسم کھانا بھی صحیح ہے۔ کئی ”کور چشم اور شپہرہ چشم لوگ ان قسموں کے باوجود نہیں مانتے ہوں گے۔“ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب

فرمائے۔

دوسری بات یہ حیرت افروز ہے کہ یہ سب حیرت افزا واقعات اور ایمان افروز واقعات صرف ان کو نظر آتے تھے جنہوں نے آپ کی رسالت کو، نبوت کو، صداقت کو، عظمت کو جان لیا، پہچان لیا اور پھر مان لیا لیکن جو ایمان کی نعمت سے محروم رہے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہی اور وہ اس اندھے ہی کی طرح بدقسمت محروم نظارہ ہی رہے جس کو سارا بھرا ہوا بازار ساز و سامان سے لدا ہوا بازار اور اللہ تعالیٰ کی سوہنی مخلوق سے بھرا ہوا بازار دکھایا گیا پھر اس سے پوچھا حافظ جی کچھ نظر آیا تو انہوں نے سات سیر کا سرنفی میں ہلا کر کہہ دیا جناب مجھے تو نہ بازار نظر آیا ہے نہ بازار کی رعنائیاں نظر آئی ہیں۔ ہائے محرومی قسمت،

بِسْمِ الرَّفْدِ الْمَرْفُودِ (۱۱/۹۹)

کتنا بڑا عطیہ (محرومی) ہے جو انہیں دیا گیا اور پھر اس محرومی کے گہرے گڑھے غار میں جا گرے۔

بِسْمِ الْوَرْدِ الْمَوْرُودِ (۱۱/۹۸)

کتنی بُری جگہ اور ٹھکانہ ان اندھوں، منافقوں، کافروں اور بے ایمانوں کا جہاں انہیں پہنچا دیا گیا۔

آنکھیں کھلی ہوں تو کئی طریقے ہیں یزداں سے بات کرنے کے۔

گناہِ منافقت و انکار پر گرفت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کے باوجود انسان ذوق عبادت اور لطف زیارت سے محروم رہتا ہے۔ خدا کرے، بیقدرے اور ناشکرے لوگ گھاس کے تشکے سے بھی محروم ہو جائیں۔

جب پہاڑ غلامی کر رہے ہیں پتھر حکم مان رہے ہیں بادل اطاعت کر رہے ہیں مٹی حکم بجال رہی ہے بت سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ پانی قربان ہو رہا ہے کھانا اطاعت گزار کی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اب حضرت انسان کیوں اندھا ہو رہا ہے۔

ابرہہ کے ہاتھی کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے تو ایک قدم آگے نہ اٹھاتا اور اگر اس کا منہ یمن کی طرف کرتے تو دوڑ پڑتا جو کچھ ہاتھی دیکھ رہا تھا۔ اے کاش! وہ ابرہہ کو اور ہاتھیوں کے آنکنے والوں کو نظر آ جاتا لیکن جب آنکھوں پر غرور کے جالے تعصب کی پٹیاں، ہوس اور خود ستائی کے پڑوال پڑے ہوں۔ تو کچھ نظر نہیں آتا۔

دشمن رسول کو قبر کا قبول نہ کرنا

اے شرفِ انسانیت پانے والو، آپ لوگ تو شاید کہیں نہ کہیں مصلحت پسندی کا ثبوت دے دیتے ہوں گے۔ ہمیں کسی کی کیا کان ہے۔ دشمن رسول ہو، گستاخ ہو اور وہ ہمارے اڈے چڑھ جائے تو ہم اسے معاف کر دیں یہ ممکن ہی نہیں ہم خاک کے ذروں کو علم ہوا کہ ایک شخص کیا نام تھا کم بخت کا..... دفعہ کرو ایسوں کا نام بھی زبان پر لانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں علم ہوا کہ پہلے وہ حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و نواہیس اور وحی وغیرہ لکھا کرتا تھا۔ بد قسمتی سے وہ دین سے پھر گیا اور کافروں اور مشرکوں سے جا ملا۔ وہ کہتا میں ان سے زیادہ علم والا ہوں کیا پدی کا اور کیا پدی کا شور بہ،

ذاتِ دی کو ہڑ کر لی تے چھتیراں نو چھے

سرکارِ ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا جب یہ مرے گا تو اس کے ناپاک جسم کو مٹی قبول نہیں کرے گی۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کرم فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کی میت کو قبر کی مٹی قبول نہیں کرے گی اگر آپ صرف اشارہ فرما دیتے کہ زندگی میں بھی اس کو مٹی قبول نہ کرے گی تو پھر دنیا دیکھتی اس کا جینا اس کے مرنے سے زیادہ عبرتناک بنا دیا جاتا۔

آئیے جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس ناخلف و نامراد اور بدنصیب و بدسرشت کا واقعہ خود

سماعت فرمائیں۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلِحَقِّ بِالْمُشْرِكِينَ، وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ لَا كُتُبُ مَا شِئْتُ فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَقْبَلْهُ وَقَالَ أَنَسٌ فَأَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَوَجَدَهُ مُنْبُوذًا، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقَالُوا دَفَنَاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ (رواه مسلم واحمد والافظله والبيهقي)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کتابت کیا کرتا تھا۔ وہ (بد قسمت) اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا کر مل گیا اور کہنے لگا، میں تم میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے والا ہوں۔ میں ان کے لئے جو چاہتا تھا لکھتا تھا سو وہ شخص جب مر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ اس جگہ آئے جہاں وہ مرا ہوا تھا تو دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ پوچھا اس کی لاش کا کیا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے اسے کئی بار دفن کیا مگر زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔

ڈرو، خدا سے ڈرو، خوفِ کبریا سے ڈرو

نبی کے غصے میں ڈوبی ہوئی نگاہ سے ڈرو

مقام ابراہیم

آشنائے مقامِ عشق و محبت، جرمہ نوشِ چشمہٴ عشق لازوال، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہست معشوقے نہاں اندر دلت
چشم اگر داری بیا بنمائیت

معشوق تو تیرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اگر تیرے پاس آنکھ ہے تو میں تیرا مطلوب دکھا دوں۔

اس دانائے راز کاروئے سخن یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، حضرت انسان ہی کی طرف ہو گا لیکن جب ان کی آواز، ہم خاک کے ذروں، سنگریزوں اور پتھروں تک پہنچی تو ہم نے بغور دیکھا تو واقعی محبوب تو ہر وقت آپ کے دلوں کی طرح، ہمارے دلوں میں بھی جلوہ گر ہے۔ ہم میں سے کسی نے اس راز کو آشکار کر دیا۔ کسی نے آنسو بہائے اور کسی نے آنسو پی لئے، کوئی لرزش میں آیا، کوئی تھر تھر کانپنے لگا، کسی کی کپکپاہٹ نے اوروں کو بھی تڑپا کر رکھ دیا۔

ہمارے قبیل کا، ایک ہمارا بھائی، ایک پتھر کا ٹکڑا، بڑا سجا سجا یا سراونچا کر کے عین صحن کعبہ میں آج بھی کھڑا ہے جو نعمت، اس کے حصے میں آئی ہے۔ وہ شاید کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ ہمارے اور آپ کے کریم آقا، نعمت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے دادا جان ہیں۔ تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے۔ وہ تھے بھی بہت ہی بڑے، مصاف عشق میں وہ بہت آگے نکل گئے خود ان کے رب نے تاریخ میں ان کے حوالہ سے ایک بات محفوظ کر لی ہے کہ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

کہ اس کے رب نے جب بھی اس سے کہا، ابراہیم! سر کو جھکا دو، اس نے اسی وقت اپنے سر نیاز کو نیاز مند کائنات کے حضور جھکا دیا۔

حالات بتاتے ہیں کہ آپ نے زبانِ حال سے یہ اعلان کر دیا ہوگا۔
 مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو
 ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو
 ایک اور بات بھی صفحہ ہائے کتاب ازلی وابدی میں ان کے تعارف سے یوں
 رقم کی گئی ہے

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

ابراہیم کو جب بھی کسی بات کے حوالے سے آزمائش میں ڈالا وہ آزمائش پر
 پورا اترتا۔

امتحان میں کامیابی کی سند اعزاز کسی سکول کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے نہیں
 یہ سند ساری کائنات کے خالق خود رب ذوالکرم والاحسان نے عطا فرمائی ہے۔
 وہ ابوالانبیاء بھی ہیں اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد
 بھی ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی پارہ ہوگا جس میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ نہ ہو۔
 اگر آپ کے کاغذات کا دامن تنگ نہ ہوتا تو جس طرح آج ہم اپنے اس
 بزرگ کے ذکر سے سرشار ہیں۔ سارا دفتر بھر کر بھی جی نہ بھرتا۔ ان کے کس حسیں
 پہلو کا تذکرہ کریں اور کس کو چھوڑیں۔

مقام ابراہیم کے حوالہ سے ہی بات شروع کرتے ہیں اور اسی حوالہ سے ہی
 بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات کے جلوے
 ہر رنگ میں ہر جگہ اور ہر سمت جلوہ گر ہیں۔ اس کی ذات کو کسی ایک جگہ مقید نہیں کیا
 جاسکتا لیکن نہ جانے، مالک کی کیا حکمت تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 ایک مکان بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس لوق و دق صحرا میں انتظام و انصرام تعمیر کہاں
 میسر تھے۔ اس لئے مالک نے اس کا انتظام بھی خود ہی فرما دیا۔

جب حضرت ابراہیم نے مکان کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تو اپنے لختِ جگر نور

نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس کار خیر میں شامل فرمایا۔ باپ اور بیٹا دونوں نفوس قدسیہ جب اس عظیم کام میں پوری تندہی سے سرشاری تعمیل حکم سے مصروف عمل ہو گئے۔ اس مکان کے ایک کونے میں جنت سے آیا ہوا۔ ایک انتہائی خوبصورت دودھ کی سفیدی لئے پتھر جسے بعد میں حجر اسود کا نام دیا گیا۔ اسے نصب کر دیا گیا اور دیواریں کچھ اونچی ہونے لگیں تو تقاضاء بشری ہے اتنے بھاری اور بوجھل پتھر کو بغیر گو کے سامان کے استعمال کرنا ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پتھر بھی جنت سے بھجوا دیا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اونچا ہونے کی ضرورت ہو تو اونچا ہو جائے اور اگر نیچا ہونے کی ضرورت ہو تو نیچا ہو جائے وہ پتھر، بڑی محبت و عقیدت سے یہ ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا۔

جب یہ کام سرانجام پا گیا گھر تعمیر ہو گیا تو اس کا نام بیت اللہ مشہور ہو گیا۔ یعنی اللہ کا گھر، غالباً اس سے پہلے بھی وہ اسی نام سے معروف و مشہور تھا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہو گا اجنبی پتھر اے بے جان پتھر، تجھے خبر ہے کہ تجھ پر کھڑے ہو کر کون میرے گھر کی تعمیر کر رہا ہے۔ گھر کی تعمیر کے بعد تجھ پر کھڑے ہو کر ہم سے کیا مانگ رہا ہے اور دیکھ اس نے کیا مانگ لیا ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اے ہمارے رب! ان میں اپنا ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیات مبارکہ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور دانائی کی باتیں سکھائے اور ان کو پاک صاف کر دے۔ بے شک تو غالب ہے اور حکیم ہے۔

اے پتھر! اس سے قبل بھی اس نے اور بھی دعائیں طلب کی ہیں ہر دعا اتنی

جامع ہے کہ اگر کوئی غیر نبی ہوتا تو ایسی جامع دعائیں کبھی نہ مانگ سکتا سن!
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ۔

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا شہر بنا
 دے اور اس شہر میں رہنے والے شہریوں کو باسیوں کو پھلوں کے رزق
 سے مالا مال کر دے۔

ابراہیم نے ہماری ہر بات مانی ہے۔ اس کی ہر دعا ہم بھی مانیں گے۔ تجھے
 بھی ان کی خدمت کا موقع مل گیا۔ ان لمحات کو غنیمت جان لے اور ان کے
 قدموں کو چوم لے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے۔ اس لمحے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔
 اس لمحے ہمارے محبوب کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کے تذکار جمیلہ
 سے روح کائنات معطر ہے۔

قدرت خداوندی دیکھئے، پتھر صورتِ حال کی نزاکت سمجھ گیا اور اپنے جسم
 سے پتھر پن کو دور کر دیا۔ موم کی طرح نرم و گداز ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے قدمین شریفین کو اپنے سینہ میں جذب کر لیا محفوظ کر لیا۔

اے کاش! میرے ہاتھ میں کوئی بڑا حساس ساعدہ ہوتا۔ اس پتھر کو اس
 ساعدہ سے قریب تر ہو کر دیکھتا کہ اس پتھر نے جس شخص کے قدموں کو اپنے
 اندر جذب کر لیا ہے اور اس جذب کا فیضان یہ ہے کہ لاکھوں اربوں کھربوں
 نکلھوں اور پدموں انسانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں دیکھوں تو اس کے
 قدموں کی باریک لکیروں اور شریانوں کی کیا شان ہے۔ وہ کیسی لکیریں مالک
 نے اپنے خلیل کے قدموں میں رکھ دیں کہ پوری کائنات کے لئے سجدہ گاہ بنا
 یا گیا۔ میں سوچتا ہوں جس کے قدموں کے نشان اور لکیروں کی یہ شان ہے۔
 اس کے ہاتھوں کی بناوٹ، اس کی لکیریں اور اس کی شریانیں کیسی ہوں گی۔

میرے ہاتھوں میں آئے جو لوح و قلم
سب کی قسمت میں لکھ دوں میں شہر نبی
سب کے ہاتھوں کی ساری لکیروں کے رُخ
موڑ دینے کے جذبات لایا ہوں میں

یہ قدر دانوں کا محکمہ ہے، بے قدروں کا نہیں۔ ابراہیم ہو یا اسماعیل، ہاجرہ ہو،
یا ان کے لیے بچھ بچھ جانے والی پہاڑیاں ان کے بیٹے کے قدموں کے لمس سے
نکلنے والا چشمہ ہو یا وہ پتھر جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم چومے، یہ سب
مالک کی نظر میں تھے، نظر میں ہیں، نظر میں رہیں گے، ان کی قدر و منزلت کس
طرح بڑھادی، یہ کوئی ان دیکھی بات نہیں۔

اس مالک نے جس کی شان شکور ہے۔ یعنی قدر دان، اس نے اس پتھر کی
اس ادائے وارفتگی کی قدر و منزلت بڑھادی اور ساری دنیا میں جتنے بھی ماننے والے
ہیں۔ اپنی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ان سب کے لئے حکم نافذ کر دیا لوگو!

واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ

کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی اس جگہ کو جائے نماز بنا لو۔
اب حاجی عمرہ کرے، طواف کرے، یا حج کرے، اس کے لئے شرطِ عظیم ہے
کہ طوافِ کعبہ کے بعد ستانے اور پانی دانی پینے سے پہلے اس مقام پر دو رکعت
نماز نفل ادا کر کے نہ صرف اس کی عظمت کا اعتراف کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور
سجدہ شکر بجالائے۔

اے بندہ مومن دیکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے قدموں کے نشان اپنے
سینے میں محفوظ کر لئے۔ اس ہمارے بھائی مقام ابراہیم کو کتنی شان و منزلت سے
نوازا گیا ہے۔

جو تیری یاد میں گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے
 بظاہر ساری گھڑیاں سارے لمحے ایک جیسے ہیں
 ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری نسبت سے
 وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں

دانتوں کا محبت رسول میں اطاعت کرنا

آپ دانتوں کے ذکر سے حیران ہو رہے ہوں کہ پتھروں، کنکروں، سنگریزوں اور خاک کے ذروں میں دانتوں کا ذکر کہاں سے آ گیا۔ تو جناب مکرم! دانت ہیں تو اشرف المخلوقات کے لیکن یہ دانت بذاتِ خود ہیں تو بے جان اور پتھر ہی کی طرح سخت، اس لئے ہم ان کو بھی اپنے بے جان قبیل میں شامل کر کے، ان کا ایک حسین تذکرہ آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ یہ بے جان ہڈیاں، پتھروں کی طرح سخت لیکن تعمیلِ حکم و اطاعت میں عشق و محبت سے سرشار کیسے باب رقم کرتے ہیں۔ پڑھئے ایمان تازہ کیجئے، سردھنئے ذرا جذبات مچلنے لگیں تو مستی و بے خودی میں ذرا جھومئے بھی اور ہمیں بھی یاد رکھئے۔

حضرت حسن بن عبداللہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں۔

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّابِغَةَ الْجَعْدِيَّ (وَأَسْمُهُ قَيْسُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَنْشَدْتُهُ قَوْلِي فَلَمَّا أَنْشَدْتُهُ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَاكَ قَالَ:
 وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا وَكَانَ إِذَا سَقَطَتْ لَهُ سِنَّ نَبَتْ
 أُخْرَى .

حضرت حسن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس
 نے بتایا جس نے حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ عنہ (ان کا پورا نام قیس

بن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہے اور انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہے) سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور آپ سرکار ابد قرار کو اپنا کلام سنایا پس جب میں نے آپ سرکار شانِ شایانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی تو حضور سراپا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دانت سلامت رکھے (اور تم اسی طرح عمدہ کلام پڑھتے رہو) اور (اس دعا کے نتیجہ میں) وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تھے اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس جگہ دوسرا دانت نکل آتا تھا۔

ہم عرض کرتے ہیں ان سخت ہڈیوں کی سخت جانی نے کیسے جان لیا کہ حکم دینے والا دعا کرنے والا کون ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ

کی شان والے نے اپنے ثنا خوان کے لئے جو دعا مانگی ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں سے ہر ایک دانت نے موصوف کے منہ کے اندر اپنے آپ کو زمانے کی خرد برد سے محفوظ رکھنا ہے اور اگر ہم میں سے کسی ایک پر خورد سالی اثر انداز ہو بھی جائے تو اس کی جگہ بڑھاپے میں دوسرا دانت فوراً آ کر جڑھ پکڑ لے کہ مشیت خداوندی بھی یہی ہے۔ مشیت محبوب خدا بھی یہی ہے اور جو مشیت ان کی ہے وہی ہماری ہے۔

قیس بن عبداللہ نابغہ الجعدی کے وہ اشعار جنہیں سن کر سردار سرداراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر دعا فرمائی تھی وہ اشعار یہ ہیں۔

وَلَا خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكْدَرَا

اس حلم میں کوئی بھلائی نہیں جب تک کہ اس میں غصہ کی آمیزش نہ ہو، تاکہ وہ اپنے صاف تالاب کو گدلا ہونے سے بچا سکے۔

وَلَا خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ
حِلْمٌ إِذَا مَا أُوْرِدَ الْأَمْرَ أَصْدَرًا

ایسی غصہ و غضب کی خصلت میں بھی کوئی بھلائی پوشیدہ نہیں۔ جب تک اس میں حلم نہ ہو جو اسے اس چیز سے نکال سکے جس میں وہ داخل ہوا ہے۔
جانِ کائنات و روح ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں شعر بہت پسند آئے اور اسے اس دعا سے نوازا۔

لَا يُفِضُّ اللَّهُ فَآكُ

اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔

چنانچہ وصال کے وقت ان کا کوئی دانت گرا ہوا نہ تھا۔ ان کے بارے میں مختلف اقوال مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر ایک سو چالیس سال تھی۔ ایک روایت میں دو سو اسی سال بتائی گئی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم
اگر ان کی عمر چار سو سال بھی ہو جاتی تو چہرے کی ساخت ان کی آنکھیں ان کی ان کی سماعت ان کی قوت شامہ اور دانت اسی طرح سلامت رہتے۔

چاندی کی بھری بوریاں

دولت دنیا، سیم و زر، سونا چاندی مالک کی نعمت بھی ہے، اور فتنہ و آزمائش بھی۔ ہماری حیثیت ایک کارکن کی ہے۔ مالک ہمیں جیسا اشارہ فرمادے ہم ویسا کر گزرتے ہیں اگر ہمیں رحمت بن کر کسی کے گھر میں داخل ہونے کا حکم ہو جائے تو ہم صاحب خانہ کی عزت و توقیر بنتے ہیں۔ اس کو سخاوت کرنے کی خوبخش کر سخیوں میں شامل کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ و حج کی سعادت نصیب کراتے ہیں اور اگر ہم سیم و زر کی صورت فتنہ و فساد بن کر آئیں تو ظاہری شان و شوکت

ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کمینہ پن پیدا کر دیتے ہیں۔ تکبر و غرور اور نخوت کی بوکی سڑاند سے اسے خردماغ بنا دیتے ہیں۔

ہمارے کریم درحیم مالک کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بھی رسول ہیں۔ ان پر ایمان، ان سے محبت اور ان کی اطاعت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ آپ نے ایک دفعہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فرمائی۔ مالک! ان کے ہر سودے میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو سودا بھی فرمایا اس میں کبھی خسار نہیں ہوا۔

حضرت ابو نعیم روایت کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد کے لئے بھی دعاء خیر و برکت عطا فرمائی۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت ضباعہ بنت زہیر فرماتی ہیں کہ مقداد ایک دن قضاء حاجت کے لئے باہر جنگل میں تشریف لے گئے اسی اثناء میں بیٹھے تھے کہ ایک چوہا بل سے نکلا۔ اس کے منہ میں ایک اشرفی تھی۔ وہ اشرفی لا کر حضرت مقداد کے سامنے رکھ دی۔ وہ پھر بل میں گیا اور منہ میں ایک اور اشرفی لایا اور آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح چوہا بل میں جاتا رہا اور ایک ایک اشرفی اٹھا کر لاتا رہا اور آپ کی نذر کرتا رہا۔ یہاں تک یہ سترہ اشرفیاں ہو گئیں۔ حضرت مقداد نے یہ سارا واقعہ من اللہ عالم ما کان و ما یكون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سنایا آپ نے فرمایا تم نے پھر بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا۔ حضرت مقداد نے عرض کیا۔ اس ذات و الاصفات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ میں نے ہرگز ہرگز اس کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا تو آپ نے فرمایا پھر یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے وہ دینار ہمارے پاس باقی رہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے چاندی کی بوریاں بھری ہوئی میں نے

اپنے گھر میں دیکھی ہیں۔

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پوچھنا کہ تم نے اس کے بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا۔ یہ سوال یقیناً اس لئے کیا ہوگا کہ اپنے صحابی کی میں نے دنیا سے بے رغبتی کی تربیت کی ہے۔ اشرفیاں دیکھ کر کہیں اس کے دل میں ہوس سیم و زر تو پیدا نہیں ہوگئی اگر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوتا تو شاید چند اشرفیاں اور مل جاتیں لیکن خیر و برکت ختم ہو جاتی۔

خیر و برکت کی جنس بھی تو ہماری ہی پارٹی کی رکن ہے۔ حزب اللہ میں شامل ہے۔ پارٹی کا رکن اگر سربراہ کے اشارے کو بھی نہ سمجھ سکے۔ تو توف ہے۔ افسوس ہے۔ اس کے رکن ہونے پر لیکن واللہ ہماری پارٹی کا ہر رکن اپنے مالک کے اشاروں پر حکم کی تعمیل میں پورا اتر کر رقص کرتا ہے۔ مست ہو جاتا ہے کہ شکر ہے حکم کی تعمیل ہوئی ہے کوتاہی سرزد نہیں ہوئی۔ ہم نے سنا ہے یہ کوتاہی نہیں بلکہ کوتاہیاں حضرت ان سے اکثر سرزد ہوتی رہتی ہے۔ خیر وہ جانے اور اس کے مالک کا کام ہم کون ہوتے ہیں ٹانگ اڑانے والے، یا دخل در معقولات دینے والے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں۔

بردر تو آنکہ نہ ساید جیس

نَاصِيَةٌ كَاذِبَةٌ خَاطِئَةٌ

جو جبیں تیرے آستانے پر نہیں جھکتی وہ جبیں کاذبہ ہے جھوٹی ہے خاطعہ ہے

یعنی گنہگار ہے۔

قبر انور کی مٹی

پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ہر زندہ چیز کی زندگی، اسی کی

مرہون منت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء: ۳۰)

اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہت سی صفات سے نوازا ہے۔ وہ اپنی سطح ہر حال میں ہموار رکھتا ہے یعنی وہ اپنے خاندان میں اونچ نیچ کا قائل نہیں۔ وہ ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے یعنی نیچوں کو نوازتا ہے وہ ہر ناپاک کو پاک کرتا ہے وہ زمین سے بہت بڑا ہونے کے باوجود تکبر و غرور نہیں کرتا بلکہ چھوٹے چھوٹے حقیر تنکوں کو بھی اپنے سر پہ اٹھائے رکھتا ہے۔ وہ مردہ زمین پر ترس کھا کر اسے از سر نو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے پھر زمین کے بطن اور پیٹ سے ہزار ہا قسم کی نباتات کو جنم دینے میں مدد کرتا ہے۔

قدرتِ خداوندی نے مجھ زمین کو بھی بے حد و بے شمار نعمتوں اور خوبیوں سے نوازا ہوا ہے۔ ذاتِ باری تعالیٰ نے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا

فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا۔ نرم و گداز ایسا کہ چلتے چلتے کو تھکنے نہ پائے اور چلنے والے کے پاؤں اکڑ کر دکھنے نہ لگیں اور سخت ایسی کہ میرے سینے کے راز اور خزانوں تک پہنچنے کے لئے کدال سے لے کر بھاری سے بھاری مشینری استعمال کرنی پڑے۔

یہ ساری باتیں جملہ معترضہ ہیں۔ ہماری پتلیوں کی ڈور، مالک کے ہاتھ میں ہے۔ پانی اگر حیات ہے تو یہی پانی تباہی بربادی کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح، میں زمین بھی اسی مالک کے حکم کی پابند ہوں حکم نہ ہو تو ساری اشرف المخلوقات کی برادری مجھے اپنے پاؤں تلے روندتی پھرے میں کچھ نہیں کہتی اور حکم ہو تو قارون کو خزانوں سمیت اپنے اندر دھنسالوں۔

مالک نے ہمیں ایک شعور یہ بھی بخشا ہے کہ ساری اشرف المخلوقات برادری میں سے جو سب سے چنی ہوئی اس کی شخصیات ہیں وہ زندگی گزار کر اپنے فرائض منصبی سے فراغت کے بعد جب ہمارے سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔ تو ہم کو سمجھا دیا

گیا ہوا ہے کہ ان کے مقدس جسموں کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ وہ ہزاروں سال بھی ہمارے مہمان رہیں۔ ہمارے ہاں کا ہر ذرہ اس حکم کا پابند ہے۔ شہادت کے طور پر جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات پیش کرتے ہیں۔

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ نَفَخَتْ فِيهِ الصُّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَوَاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيَّتٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادُ الْأَنْبِيَاءِ،

(رواہ ابو داؤد، و النسائی و ابن ماجہ)

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے سب سے بہتر دن جمعہ المبارک ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہوں نے وفات پائی۔ اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو (کھانا یا کسی قسم کا نقصان پہنچانا) حرام کر دیا

ہے۔

ایک اور شہادت بزبان صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا الصَّلَاةُ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عَرِضْتُ عَلَيَّ صَلَوَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقَ (رواه ابن ماجه باسناد صحيح)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ یہ یوم مشہود (یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن) ہے۔ اس دن فرشتے (خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں) حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اور (یا رسول اللہ) آپ کے وصال کے بعد (کیا ہوگا) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں وصال کے بعد بھی (اسی طرح پیش کیا جائے گا کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے زمین کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔

کبھی کبھی راز سے پردہ اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ پردہ اٹھانے والے ہی موقع محل کو سمجھتے ہیں کہ کوئی راز کب افشاء کرنا ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے تو یہ حکم

حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے پر ہی دے دیا تھا اور خاموشی سے، نظم کائنات کے ساتھ ساتھ یہ عمل جاری تھا کہ جو بھی برگزیدہ شخصیت ہمارے ہاں تشریف لائے گی۔ اس کی حفاظت حتیٰ کہ اس کے لباس کفن وغیرہ کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جب اصل کائنات و جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ان کے ذہن میں تو وہی پرانی فکر سمائی ہوئی تھی کہ جو مٹی میں دفن ہوا، وہ مٹی ہو گیا۔ ہر چہ درکانِ نمک رفت، نمک شد، یعنی ہر وہ چیز جو نمک کی کان میں گئی تو وہ بھی نمک ہو گئی۔ دور جہالت میں تو ان کے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہ تھا وہ تو حیرت زدہ ہو گئے تھے کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے۔

ایک بد بخت کو کسی مردہ کی پنڈلی کی ہڈی کہیں سے مل گئی وہ اسے خانہ کعبہ میں لے آیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے تمسخر اڑاتے ہوئے اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھو لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہتا ہے کہ یہ ہڈی پھر زندہ ہو جائے گی۔ بھلا یہ بھی کوئی ممکن بات ہے۔

جن لوگوں کی پستی کا یہ عالم ہو کہ وہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکتے ہوں کہ جو خالق کسی کو تخلیق کرنے پر قادر ہے جبکہ پہلے اس کا کوئی منصوبہ ہے، نہ نمونہ ہے نہ نقشہ ہے اور وہ چیز تخلیق ہو گئی اور اپنے وقت مقررہ کے بعد فنا کے پردہ میں داخل ہوتی ہے تو کیا وہ اس کو از سر نو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ ذہنی طور پر اتنا بھی قبول کرنے پر تیار نہ ہوں۔ ان کو اگر یہ بتایا جائے کہ بعض نفوسِ قدسیہ ایسی بھی ہیں جو کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ تو چکھتے ہیں لیکن فنا بالکل نہیں ہوتے تو شاید ان کے دماغ ویسے ہی گھاس چرنے چلے جاتے البتہ جب انسان ذہنی ترقی کی اس معراج پر پہنچ گیا کہ اللہ کے پیارے نبی، الصادق والا مین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمائے ہیں۔ وہ روز روشن کی تابانیوں

سے بھی زیادہ متحقق ہے تو اس وقت فرمایا لوگو! ہر مرنے والا انسان ایک جیسا نہیں جس طرح ہر زندہ انسان ایک جیسا نہیں ایسے ہی وصال کے بعد بھی ہر انسان سے ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا بلکہ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يَرْزُقَ

کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت حد تک مختار بنایا ہوا ہے جب اس کے سامنے حلال اور حرام کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیئے جاتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے لیکن انسان اور جن کے علاوہ باقی جو مخلوق بھی ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار نہیں اسے جو حکم مل گیا بس مل گیا وہ اس پر عمل کرنے پر مجبور ہے۔

آپ ہماری فرحت و مسرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب خالق و مالک نے ہم خاک کے ذروں کو اجساد انبیاء کرام کی حفاظت کا حکم دیا تو ہم اپنے مقدر پر ناز کرنے لگے ہمیں ان کی خدمت کا اور حفاظت کا شرف بھی ملا اور ان کا ادب اور احترام کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ ہم نے تو اس حکم کو اپنے گلے کا یوں تعویذ بنا لیا جیسے حسن محبوب کو کوئی اپنے گلے کا تعویذ بنا لے۔

چھلک چھلک گئیں آنکھیں یہ سوچ کر اکثر

کہ ہمارے رب کی ہیں ہم پر عنایتیں کیا کیا

آپ تجربہ کر لیں۔ فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سر بستہ راز

سے پردہ اٹھا ہے۔ اب یہ پردہ، پردہ نہیں رہا اگر کسی کو یقین نہ آئے تو انبیاء کرام کا مقام رفیع تو خیر بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ کسی بھی نبی اور خصوصاً جان ہر دو عالم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے والا، جاننے والا اور پھر ان کو ماننے والا ہماری پارٹی کا بندہ، جہاں کہیں بھی آرام فرما ہے ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں اور اس کے جسم کی، لباس کی اور ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔

بے نوا نواں نواں نواں نواں بخشی میری سرکار نے
گوگنکیاں نواں جیہہ بخشی تے صدانواں بخشیاں

یہ تو بات تھی تمام انبیاء کرام کی۔ تو وہ ذات جس کے تصدق میں انبیاء کرام کو یہ مقام و مرتبہ بلند عطا ہوا اور جس سے بلا واسطہ یہ سوال پوچھا گیا جس نے یہ سربستہ راز افشاء فرمایا۔ اس کی اپنی ذات کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لئے انہیں زیب دیتا ہے کہ وہ ارشاد فرمائیں۔

اَكثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ

کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو خصوصاً جمعۃ المبارک کے روز کہ اس روز خصوصاً ملائکہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ وہ میرے حضور اس درود پاک کو پیش کرتے ہیں۔

ہم آپ کے ایمان کی تازگی کے لئے ایک دو اور شواہد اور احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحَجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرَبَ جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ سَنُوَّةٍ وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ

النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَإِذَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسَ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ
فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّتُهُمْ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لِي
قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ صَاحِبِ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ
إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ (رواه مسلم والنسائي)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے خود کو حطیم کعبہ میں پایا اور قریش مجھ
سے سفر معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ
سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھیں۔ جنہیں میں نے (یادداشت
میں) محفوظ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس
سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس
کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کے متعلق جو
بھی چیز پوچھتے ہیں (اسے دیکھ دیکھ کر) انہیں بتا دیتا اور میں نے خود کو
گروہ انبیاء علیہم السلام میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ
السلام کھڑے مصروف صلوة ہیں اور وہ قبیلہ شنوءہ کے لوگوں کی طرح
گھنگھریالے بالوں والے تھے اور پھر (دیکھا کہ) حضرت عیسیٰ ابن
مریم علیہ السلام کھڑے مصروف صلوة ہیں۔ اور عروہ بن مسعود رضی
اللہ عنہ ان سے بہت مشابہ تھے اور پھر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ
السلام کھڑے مصروف صلوة ہیں اور تمہارے آقا (یعنی خود حضور سراپا
نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اُن کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ
ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کی
امامت کرائی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے

کہا، یہ مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں۔ انہیں سلام کیجئے پس میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پہلے مجھے سلام کیا“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی مطالعہ میں رکھ لیں پھر ہم اپنی معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ انشاء اللہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 آتَيْتُ وَفِي رِوَايَةٍ هَدَابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرَى بِي
 عِنْدَ الْكَيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

(رواہ مسلم والنسائی واحمد)

حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی شب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا (اور ہداب کی ایک روایت میں ہے) کہ فرمایا کہ سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے مصروفِ صلوة تھے۔

اسی موضوع سے متعلق ایک مختصر فرمانِ جانِ کائنات ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ

(رواہ ابو یعلیٰ درجالہ ثقات)

حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور صلوة پڑھتے ہیں۔

ماننے والوں کے لئے تو اشارہ ابرو ہی کافی ہوتا ہے اور اگر دنیا کے سب سے

سچے اور صادق امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس و اصدق سے اتنے فرامین سامنے آجائیں تو شک و ریب کے عنکبوت کے جالے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کے وصال فرما ہونے کے بعد ہزاروں اور سینکڑوں سال تک اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر مصروفِ صلوة ہونا جہاں ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ وہاں ہم خاک کے ذروں کا بھی حصہ ہے۔ انبیاء کرام ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ یہی وہ عظیم ترین لوگ ہیں جن کے اجساد و اجسام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ انہیں جان کر، پہچان کر انہیں مانا اور ان کے اجسام کی حفاظت کی۔ الحمد للہ

اسی طرح سرورِ جانِ حزیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قبر انور کی حفاظت کی شہادت تفصیل سے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ ایک شہادت دیکھئے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤذَنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمِّهِمْ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(رواه الدارمی و انفرادیہ)

حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایامِ حرہ (جن دنوں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا) کا واقعہ پیش آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف میں تین دن تک اذان اور اقامت نہیں کہی گئی اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ (جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں) انہوں نے ان حالات میں مسجد نبوی شریف میں پناہ لی ہوئی تھی اور انہوں نے (تین دن تک) مسجد نہیں

چھوڑی تھی اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے مگر ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے جو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے۔

یزید کے مدینہ منورہ پر حملہ کے وقت تین دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ نماز ہوئی۔ نہ اذان، نہ اقامت، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں نے مسجد نبوی شریف کے اس حجرہ مبارکہ میں پناہ لی۔ جہاں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ اس حجرے میں بند ہونے کی وجہ سے اوقات نماز کا پتہ نہیں چلتا تھا اور مسجد شریف میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو اوقات نماز کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف تھی۔ ایسے میں انہیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبور مبارکہ سے اذان و اقامت کی ہلکی آواز آتی جس سے وہ مطلع ہو جاتے اور تین دن تک ایسے ہی نماز ادا فرماتے رہے۔

یہ شہادت جہاں بے شمار دیگر مسائل پر روشنی ڈالتی ہے اور کئی ایک عقدے کھولتی ہے وہاں قبر انور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مٹی کے ذرے خدمت ہائے نبی رحمت اور اصحاب رسول سے ذرہ بھر غافل نہ ہونا بھی ثابت کرتا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ خاک کے ذروں کی عظمت، رفعت، بلند مرتبت اور رفیع الشانی بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، انہی کے قدم مبارک کی وجہ سے زندہ ہے۔

نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے
زمیں کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے

نور الدین زنگی اور قبر مصطفیٰ کے ذرے

کسی نے پوچھا تھا کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے تو جواب یہ ملا

کہ جس عشق میں رقیب برا لگے، اس سے نفرت ہو اس کے ذکر سے آگ لگ جائے۔ وہ عشق مجازی ہوتا ہے اور جس عشق میں رقیب محبوب ہی کی طرح اچھا لگے۔ اس سے ملنے کو جی چاہے اور وہ رگِ جاں سے بھی قریب تر بسایا جائے وہ عشق، عشقِ حقیقی ہوتا ہے۔

نور الدین زنگی ہم خاک کے ذروں کا رقیب ہے۔ رقیب بھی ایسا کہ اس کا نام آجائے تو محفل جاں مہک مہک جائے۔ اس لئے کہ ہمارا اور اس کا محبوب ایک ہے۔ وہ ہم سے اور ہم اس سے جلتے نہیں جس طرح رقیب آپس میں جلتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ذکر سے پچل پچل جاتے ہیں۔

یہ چھٹی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ ۲۱ شوال المکرم ۵۱۱ ہجری کو پیدا ہونے والا بچہ مستقبل میں شام، مصر اور جزیرہ اسلامی مملکت کا والی بنا پھر مصر، موصل، عراق، شام اور یمن میں اس کے نام کے خطبے پڑھے جانے لگے۔ عیسائیوں کی جانب سے اسلام کے خلاف چلنے والی جنگی تحریک جن کو صلیبی فتوحات کا نام دیا جاتا ہے، وہ اسی نے ختم کیں۔ عیسائیوں کو کونوں کھدروں میں دھکیلنا اسی کا کارنامہ ہے۔ وہ ہمیشہ صفِ اول میں بہادروں کی طرح شامل ہوتا اور مجاہدین اسلام کے حوصلے بڑھاتا وہ اکثر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک و ملت اسلامیہ کی محافظ ایک اور ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

ہوایوں کہ ان کی پر خلوص زندگی کا پر خلوص جہاد کا، پر خلوص محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ ملنے کا وقت آ گیا یوں تو کرم نواز کی مرضی پر منحصر ہے۔ کسی کی ساری زندگی کی ریاضتیں بیکار جاتی ہیں اور کسی کا ایک قطرہ اشک گرنے سے پہلے صاحبِ قطرہ اشک کو رفعتوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔

تورا جا این یا کہیں این ناں لیندا رہو سرکار دا
کرم فرماندیاں اونہاں کدے وی ذات نہیں کچھی

کرم نواز، ذات صفات نہ دیکھنے والے کریم آقا کے ان کے حال پر رحم فرما کر ایک ایسا فریضہ ان کے ذمے سونپ دیا جو انہیں زندہ جاوید بنا گیا۔ فلک کے ستارے، اس کے مقدر پر جھک جھک سلام کرتے ہیں۔

واقعہ کچھ یوں ہے کہ عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران ایک گھناؤنی سازش تیار کی۔ دو آدمیوں کو تیار کیا۔ وہ مسلمانوں والا بھیس بنا کر تقویٰ و پرہیز گاری کا لبادہ اوڑھ کر، رہنماؤں کی چھینی ہوئی قبائیں پہن کر، مدینہ منورہ کا رخ کریں۔ وہاں اپنی نیکی و پارسائی اور سخاوت کے ڈنکے بجائیں۔ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہر سطح کے حربے چور مور کر دیں۔ روضہ انور کے قریب کسی جگہ کا انتخاب کریں اور سرنگ یعنی زمین دوز راستہ چوری چوری بنائیں اور قبر مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کا جسد مبارک چوری کریں اور کسی عیسائی ملک میں منتقل کر دیں اس کے بعد مسلمانوں کو زک کرنے، ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کا بہانہ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا اور ہم کہہ سکیں گے کہ جس صاحب قبر کا تم اتنا احترام کرتے ہو وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ تو مرثیٰ میں مل گیا۔ نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں انہیں شکست فاش دینے کے لئے کافی ہوں گی۔

یہ دشمن انسانیت، انسانیت کے لبادہ میں پلید ترین دو جانور، مدینہ منورہ پہنچ گئے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے کام میں لگ گئے۔ سارا دن عبادت و ریاضت اور سخاوت میں گزارتے اور رات کو اس گھناؤنی سازش پر عمل کرتے۔ ہم خاک کے ذرے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربت شفقت سے بچھڑنے لگے۔ ہمیں راتوں رات روضہ انور کے قرب سے محروم کر کے رات ہی رات میں دور پھینکا جانے لگا۔ ہماری تو چنچیں نکل گئیں جوں جوں یہ سلسلہ بڑھتا گیا ہمارے کرب، ہماری بے بسی اور بے چارگی میں اضافہ ہونے لگا۔ بظاہر

کوئی فریاد سننے والا نظر نہ آتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہتے ہیں کہ

اشک سچے ہوں تو کبھی ضائع نہیں جاتے

میری پلکوں سے گرے ان کے قدم تک پہنچے

ہماری فریاد خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی کہ سرکار ہمیں

اپنے سے دور ہونے سے بچالیں کہ بعض اوقات، دوریاں، بہت دور لے جاتی

ہیں اور آپ سے دوری تو خسر الدنیا والاخرۃ سے تعبیر ہوتی ہے۔

جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شیطانوں اور ناپاک ترین

انسان نما جانوروں کو واصل جہنم کرنے کے لئے وقت کے نیک ترین بادشاہ کا

انتخاب فرمایا اور وہ نیک بخت نور الدین زنگی تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ

نور الدین زنگی شب بھر یاد محبوب میں مصروف رہتے تھے۔ دن میدان جہاد

میں گھوڑے کی زین پر گزرتا اور رات

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (۳۲/۱۶)

کی صفات کے حامل لوگوں میں شامل ہو کر بستر خواب کو ترساتے رہتے یعنی

ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف

اور امید (کی ملی جلی کیفیت) میں پکارتے رہتے ہیں۔

جب عبادت و ریاضت سے فراغت کے بعد سنت محبوب خدا صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ادا کرنے کے لئے تھوڑی دیر کو بستر پر دراز ہوئے تو جان کائنات صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بخت کے دروازے کی کنڈی آکھڑ کالی۔

وہ تشریف لائیں یہ ان کا کرم ہے

یہ گھر ہے کہاں اُن کے آنے کے قابل

فرمایا نور الدین، دیکھ پورے کا پورا دین اور اس کا نور۔ تیرے سوئے بھاگ

جگانے آ گیا ہے۔ اٹھ دیکھ! یہ دو فرنگی کتے، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین ہڑ

بڑا کراٹھا ایک طرف خوشیوں کے ریلے کی آمد، دوسری طرف فرنگی کتوں کی شکلیں۔ وہ کتوں کو بھول جانا چاہتا تھا اور خوشیوں کے ریلے میں پھر ڈوب جانا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کیں، سرور و کیف کا ایک اور ریلا آیا لیکن وہ کتوں کی ناپاک شکلیں بھی سامنے تھیں۔ وہ ساری کائنات کے حسن کے گھر میں آ جانے کے نشے میں پھر مست ہو کر یاد محبوب کے گلے میں باہیں ڈال کر پھر سو گیا لیکن چوداں طبق کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور الدین یہ سونے کا وقت نہیں، جاگنے کا وقت ہے۔ جاگ! اور اپنی قسمت جگا لے ان دو فرنگی کتوں کا انتظام کر پھر دیکھ حسن سارے کا سارا، تیرے ذہن و فکر کی جھولی بھر دے گا۔

نور الدین زنگی نے جھر جھری لی، اٹھا خواب پر غور کیا اور ہر پہلو پر غور کیا لیکن بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی یہ خواب کیسا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے مشیر مخلص اور زیرک ہوتے ہیں۔ جمال الدین موصلی ایک مخلص، زیرک، معاملہ فہم اور دور رس نگاہ کا مالک تھا۔ اس نے کہا بادشاہ معظم، یہ سوچنے کا وقت نہیں۔ مدینہ منورہ یا اس کے قرب و جوار میں کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے تو خوش نصیب ہے کہ اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیرا انتخاب ہوا ہے۔ جلدی کر خزانے سے جھولیاں بھر لے شاید وہاں کام آئیں۔ اک چاک و چوبند دستہ ساتھ لے اور فوراً تیار ہو جا اور ابھی ابھی مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو جا۔ فوج کے لئے اہم پیغام چھوڑ کہ اگر ہنگامی ضرورت پڑے تو فوج فوراً وہاں پہنچے۔

نور الدین زنگی نے جمال الدین موصلی کے مشورے کو صائب سمجھا۔ ضروری ہدایات دیں۔ بیس سواروں کا دستہ ساتھ لیا۔ کثیر سامان زر و جواہر ساتھ رکھ لئے اور بائیس چھبیس دن کا راستہ صرف سولہ دن میں طے کیا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ لوگ اچانک بادشاہ وقت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جمال الدین موصلی نے

اعلان کر دیا کہ بادشاہ وقت یوں تو حاضری کے لئے حاضر ہوئے ہیں البتہ شہر مدینہ میں رہنے والے خوش نصیبوں میں زرو جواہر اور دیگر قیمتی تحائف پیش کرنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا کوئی باشندہ غیر حاضر نہ ہو کہ ہم اس کی خدمت اور ضیافت سے محروم رہ جائیں۔ ساتھ ہی خفیہ طور پر سارے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا کہ کوئی باشندہ شہر سے باہر نہ جائے۔

وقت مقررہ پر سب لوگ پہنچ گئے، خیرات بٹنے لگی۔ ہر آنے والے کو دینے والا کچھ نہ کچھ دیتا رہا اور نور الدین زنگی ہر آنے والے کا چہرہ پڑھتے رہے لیکن دو جن کم بختوں کی شکلیں دکھائی گئی تھیں وہ کہیں نظر نہ آئے۔ آخر آپ نے پوچھ ہی لیا۔ کوئی رہ تو نہیں گیا جواب ملا مدینہ منورہ کا کوئی باسی نہیں رہا البتہ دو مغربی شخص نہیں آئے۔ ان کی نیکی و پارسائی اور سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ پورا مدینہ نہال کر دیا گیا ہے۔ ان کو ان انعامات کی ضرورت نہیں۔ اس لئے وہ نہیں آئے۔ نور الدین زنگی نے انہیں زبردستی بلایا۔ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کیا ارادے ہیں۔

ہم مغرب سے آئے ہیں حج کا ارادہ ہے ابھی کافی وقت باقی ہے۔ ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاورت اختیار کر لی ہے۔ اگر ہمیں یہاں کا مجاور ہونا قبول کر لیا جائے تو یہ ہماری بڑی خوش بختی ہوگی۔

نور الدین زنگی نے ذرا سختی فرمائی اور گھر کے معائنہ کے لئے تشریف لے گئے۔ بظاہر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اور ہم خاک کے ذرے اندر ہی اندر کڑھ رہے تھے کہ کہیں بادشاہ سلامت ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آکر واپس ہی نہ چلے جائیں کہ اچانک ان کی نظر ان کے جائے نماز پر پڑی۔ جائے نماز مصلیٰ اٹھایا تو نیچے گڑھا نظر آیا۔ جو ایک زمین دوز راستہ تھا جسے سرنگ کہا جاتا ہے۔ ہر شخص دیکھ کر کانپ اٹھا۔

صورتِ حال معلوم کرنے کے لئے ان پر سختی کی تہا آخر انہوں نے سارا راز اگل دیا اور بتایا کہ یہ سرنگ قبر انور کے قریب پہنچنے والی تھی کہ ہمارے ہاتھ سے چڑیا اڑ گئی۔

نور الدین زندگی نے ان دونوں کو واصل جہنم کیا اور روضہ انور کے ارد گرد زمین کی تہہ تک کھدائی کرا کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دی تاکہ آئندہ کوئی شخص ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔

لیجئے، اجسام انبیاء کرام کی حفاظت میں ہم خاک کے ذروں کے ساتھ، ایک اشرف المخلوقات کا پاک نمائندہ بھی شامل ہو گیا۔ الحمد للہ نور الدین زنگی، جمال الدین موصلی اور وہ بیس سوار جو ان کے ساتھ ہم سفر تھے۔ وہ سارے ہمارے رقیب ہیں۔ ہم ان رقیبوں کے ناموں سے جلتے نہیں۔ ان کے ذکر سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والو! آپ پر جان نچھاور کرنے والو۔ ہم خاک کے ذروں کی طرف سے تم پہ لاکھوں سلام ہوں۔

جاں نثارانِ حضرت پہ لاکھوں سلام

یہ واقعہ ۵۷۷ ہجری میں پیش آیا۔ یہ واقعہ بھولنے والا تو نہیں اگر کوئی بھول بھی جائے تو ہم قیامت کے دن تک نہیں بھول سکتے۔

صفِ اولیں تو ہے خاص صف وہاں پاؤں جا، یہ کہاں شرف

صفِ آخریں سے بھی دور تک جو اشارہ ہو تو یہیں سہی

غلیں مصطفیٰ کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

کائنات کی ہر چیز تسبیح کرنے والی ہے اور ان کی تسبیح ہماری سمجھ سے بالاتر ہے تو یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں۔ ہمیں تو بعض اوقات، اپنے کسی ہم جنس کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ جانوروں کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، ان کی

رکھوالی پہ مامور شخص، اکثر جانوروں کے اشارے سمجھ جاتا ہے۔ جو کوئی غیر نہیں سمجھ سکتا۔

شیر خوار بچہ، زبان نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہے تو قوتِ گویائی سے محروم ہے۔ وہ فہم و فراست جس سے کام لے کر۔ وہ اپنی چاہت، اپنی ضرورت، اپنا دکھ، اپنی تکلیف کا اظہار کر سکے۔ وہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لئے اشاروں کی زبان بھی نہیں جانتا۔ پھر وہ کون سی جبلت ہے۔ وہ کون سی فطرت ہے یا وہ کون سا جذبہ ہے۔ جو ماما کی ماری ماں۔ اپنے بچے کی وہ باتیں بھی سمجھ جاتی ہے۔ جو ابھی وہ کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس کے وہ اشارے بھی سمجھتی ہے۔ جو اشارے کرنے کے قابل ہی نہیں۔

اس لئے کسی جانور کی، پتھر کی، لکڑی کی، پھول کی، پنکھڑی کی، کونل کی، جھینگر کی، فاختہ کی بات اور تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اس قصور وار، اس کم علمی کے عیب سے عیب دار کی سمجھ سے

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

کے ناقوس اول کو جھٹلایا تو نہیں جاسکتا۔ خود خالق زبان و زبان دانی اور خالق علم و دانش نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

(۱۷۱۳۴)

اور ساری کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح (کی کیفیت) کو سمجھ نہیں سکتے۔

وہ عظیم شخصیت جن کے ہر قدم کی ٹھوکر سے، ایک نئی راہ نکلتی ہو اور خود جس نے کبھی ٹھوکر نہ کھائی ہو۔ ان کے قدموں سے لپٹ کر رہنے والی، نعلین پاک، جوڑا مبارک، کتنا مسرور رہتا ہوگا۔ وہ اس احسان پر، اللہ تعالیٰ کے حضور، کس کس انداز

سے، تسبیح و تہلیل اور تجمید کے کیا کیا انداز اختیار کرتا ہوگا۔ جب بھی کسی پاک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جوڑوں سمیت اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جوتا باہر ہی اتارنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے، کلیسی کا شرف پانے والے، کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (۲۰:۱۲)

یعنی اپنا جوڑا اتار دو۔ بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔

لیکن جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے لمس کی نسبت نے جن جوڑوں کو اتنا نوازا ہو کہ عرشِ اعظم پر بھی انہیں اتارا نہیں گیا۔ وہ اپنے صانع مطلق کے حضور۔ اس پاء بوسی کے انعام پر۔ کیا کیا تسبیح پڑھتے رہتے ہوں گے۔

ہے خاکِ رہِ عشق میں کیا سطوت و رفعت

تم نے کبھی اس گرد میں اٹ کر نہیں دیکھا

نعلمین مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت سرکار سے سرور و مستی میں آ کر پڑھی جانے والی تسبیح و تہلیل سے ہمارا واقف ہونا ضروری نہیں البتہ اس کی تسبیح و تہلیل و تجمید کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ تو دیکھے جاسکتے ہیں سمجھے جاسکتے ہیں اور تسلیم کئے جاسکتے ہیں۔ ان اثرات کو محسوس کرنے والوں کی زبان سے سنئے، پڑھئے، سر دھنئے اور مست عشق حبیب ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ آپ سرکار کے دونوں جوڑے آپ کے قدموں سے خود اتارتے اور اپنی قمیض کی آستین میں لپیٹ کر رکھ لیتے اور جب آپ سرکار اس محفل سے اٹھ کر جانے لگتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھ کر آپ سرکار کو جوڑے پیش کرتے اور پہناتے، پھر عصا لے کر حضور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے

چلتے حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے۔

کسی نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا نہیں۔ اے وہ شخص! کہ انبیاء کے بعد ساری دنیا کے اماموں قائدوں، رہبروں، غوثوں، قطبوں، ابدالوں، اخیاروں، اماموں، اوتار، ابرار، نقبا، نجبا، عمد، مکتوبان، مفردان قطب ابدال، قطب اقالیم، قطب ولایت، قطب زہاد، قطب عباد، قطب عرفاء، قطب متوکلان، قطب الاقطاب، قلندر، صوفی، مجذوب و مجاذیب، رجال الغیب کے علاوہ تمام شہید، تمام غازی، محدث، مفسر، فقیہ، متکلمین، تمام بادشاہ، رؤساء، امراء، فضلاء، علماء، وزراء، غرض ہر وہ منصب جو من اللہ کسی کو ملا یا دنیا نے کسی کو دیا۔ یا وہ خود اپنی صلاحیتوں محنتوں، ریاضتوں، سے کسی مقام پر پہنچا۔ وہ سب کے سب تیرے قدموں کی خاک، تیرا مرتبہ ایک صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے اتنا بلند کہ یہ بلندیوں والے سارے کے سارے اپنے اپنے مرتبے کو اکٹھا کر کے ایک بلند ترین مینار تیار کریں۔ اس کی سب سے بلند ترین چوٹی پہ کھڑے ہو کر تیری گردِ راہ کو دیکھنا چاہیں تو تجھے پھر بھی اتنے بلند مرتبے پر فائز پائیں کہ اوپر دیکھتے دیکھتے۔ ان کی ٹوپیاں، ان کے تاج نیچے آگریں لیکن یہ بتا تجھے اس جوڑے میں کیا چیز نظر آگئی کہ تو اتنا بڑا ہو کر بھی اسے اٹھائے پھرتا ہے اور اپنی آستین میں چھپائے پھرتا ہے۔ حرزِ جاں بنائے پھرتا ہے کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتا۔ آگے بڑھ کر اٹھاتا ہے۔ آگے بڑھ کر پیش کرتا ہے وہ اگر جواب دیتے تو یقیناً کہتے اے میرے ایمانی بھائی! یہ نعلین نہیں یہ جوڑا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جوتا، چمڑے کا نہیں، یہ تو ہما ہے ہما جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔

جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور

تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

وہ ہمارا خالق و مالک، جو ہمیشہ سے اکیلا ہے اور جس کے بغیر ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ اس کا اکیلا ہونا، یکتا ہونا، اس کے بے نیاز ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اکیلا، وہ تنہا، وہ یکتا، وہ بے نیاز ہو کر بھی، ان کے اتنے ناز اٹھاتا ہے کہ عرش عظیم پر بھی انہیں یہ جوڑے اتارنے نہیں دیئے۔ ہو سکتا ہے یہ سارا معاملہ صرف عرش اعظم کا مرتبہ بڑھانے کے لئے کیا گیا ہو۔ یا آپ کی نعلین پاک اور اس کے ساتھ چمٹے ہوئے خاک کے ذروں کو بتانا مقصود ہو کہ دیکھو کس کے قدموں کے لمس نے تمہیں کس مقام و مرتبہ تک پہنچا دیا ہے۔

دُھل گئی عصیاں کی ساری ہی سیاہی دُھل گئی

خاکِ در نے میری پیشانی کو چمکایا بہت

فقیر راقم الحروف عبدالحق ظفر چشتی بارگاہ وقار العرش والفرش، غوث نشان ارض و سماءِ راحت جانِ ایمان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہے۔ کریم! مہربانا! سرور! اے خاک کے ذروں کو عرش نشیں کرنے والے، اے پتھروں اور پتھر دلوں کو قوتِ گویائی عطا کرنے والے، اے شجر و حجر کے محبوب و مطلوب اور ان سے خود بھی محبت کرنے والے، اے حقیروں، ذلیلوں، کمینوں، لاچاروں، ناداروں کو اپنی رحمت و شفقت کی چادر عطا فرما کر سکون و اطمینان کی دولت و نعمت عطا کرنے والے! ایک ناکارہ، نیچ، نکما، اسفل، ارذل، جھوٹی محبت کے دعوے کرنے والا جھوٹا مکار، بہرہ و سپیہ، مانگت، بھکاری، بھی آپ کے در کا سوالی ہے۔ کریم آقا، میں یقین کی دولت سے محروم ہوں۔ مجھے یقین عطا کیجئے۔ میرا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ میرے ایمان کو پختگی عطا کیجئے۔ میں سجدوں کی لذت سے محروم ہوں۔ اس لذت سے مالا مال کیجئے۔ میں دینی و دنیوی امور میں منافقت کا شکار ہوں۔ اس غلاظت سے بچا لیجئے۔

کائنات دے رنگ برنگ کھانے تیری جواں دی روٹی توں واردیواں

عصا ملے جے موسیٰ کلیم والا، تیرے ہتھوں دی سوئی توں واردیواں
 وس ہووے تے چن نوں توڑ کے تے سوہنے گنبد دی چوٹی توں واردیواں
 نیلی چھت والا جے کرمن جاوے اوہدی بارگاہ چہ عرض گزار دیواں
 سر میرا تے اُس دے قدم ہوون، سہاری زندگی ایویں گزار دیواں
 پیرس چہئے ہزاراں جے شہر ہوون میں مدینے دی بھوک توں واردیواں
 میرے آقا میں تاج سکندری نوں تیری جتی دی نوک توں واردیواں

موسم وقت کی سرکار سے محبت اور آپ کی اطاعت

موسموں کی تبدیلیاں تو کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتیں۔ وہ اپنے پروگرام
 کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، جس، گھٹن، خوشگواریاں، یہ
 سب مالک و خالق کے قبضہ و اختیار میں ہیں لیکن جس طرح کائنات کی ہر چیز، یہ
 جانتی ہے پہچانتی ہے اور مانتی ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے حکم، کسی کی درخواست اور
 کسی کی چاہت سے نہیں بدلتے۔ ہماری تبدیلیاں مالک کے حکم کی تابع ہیں یا
 مالک و خالق کا کوئی خاص بندہ جسے ہمیں حکم دینے کے اختیارات دے رکھے ہیں۔
 ان کے حکم کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔

سردی کا گرمی میں تبدیل ہو جانا

آئیے! سردی کے موسم سے عرض کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا واقعہ تمہیں یاد ہے
 جس میں تم نے اپنی خواہ اور عادت بدل دی ہو۔

سردی کے موسم نے کہا ہاں، ہاں، کیوں نہیں۔ کیا ایسے غیر معمولی واقعات
 بھولے جاسکتے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کی یاد تو سر بلندی کا باعث ہوتی ہے۔

ایک دن ایسا ہوا۔ میرا موسم اپنے جو بن پر تھا۔ سردی مدینہ منورہ کی گلی کوچوں
 بازاروں اور نباتات و باغات اور فصلوں پر اپنے اثرات مرتب کر رہی تھی۔ اس دن
 سردی کچھ زیادہ ہی اپنے جو بن پر تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان فجر

ارشاد فرمائی لیکن نمازیوں کی کثیر تعداد سے جو مسجد نبوی شریف بھر جایا کرتی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس میں کمی آگئی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد شریف کی صحنیں خالی ہیں اور اپنے مقدس مہمانوں کے انتظار میں ہیں تو سرور و مولائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال! کیا بات ہے۔ آج مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے تو عرض کی حضور! سردی بہت زیادہ ہے۔ اس لئے نمازی حاضر نہیں ہو سکے یہ سن کر محبوب رب ذوالجلال نے دعا فرمائی۔

أَذْهَبَ اللَّهُمَّ عَنْهُمْ الْبُرْدَ

یا اللہ نمازیوں سے سردی دور فرما دے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سردی کا موسم تو پتہ نہیں تبدیل ہوا یا نہیں لیکن میں نے دیکھا۔ مسجد نبوی شریف میں نمازی نکلے کر رہے ہیں آپ کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔

فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَوْنَ حُونَ فِي الْمَسْجِدِ (دلائل النبوة ابو نعیم جلد ۲ صفحہ ۴۶۴)

کہ میں نے نمازیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد شریف میں نکلے کر رہے ہیں۔

ایک اور واقعہ بھی ہماری عزت و توقیر میں محبوب رب ذوالمنن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور حکم کی تعمیل میں، ہماری سر بلندی کا باعث ہوا۔ الحمد للہ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے جسم کو میری سردی کے اثرات نے کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ مالک جب چاہتا ہے ہمارے موسم میں تیزی آ جاتی ہے اور جب چاہتا ہے کمی آ جاتی ہے۔

مالک کے اس بے دام بندے نے، مالک کے محبوب اور اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت فرمائی کہ حضور بندہ نواز و بندہ پرور، سردی کچھ

زیادہ ہی اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کی زیادتی سے معاملاتِ زندگی، معاملاتِ عبادت و ریاضت اور حاضری و حاضر باشی بہت متاثر ہو رہے تو ما یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنَّ هُوَ الْاَوْحَىٰ یُوْحٰی کِیْ مَقْدَسِ زَبَانِ فِیضِ تَرْجَمَانِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ الفاظ نکلے۔

اللّٰهُمَّ اكْفِيهِ الْحَرَّ وَالْبُرْدَ

یا الہی! میرے علی سے گرمی اور سردی دونوں ہی دور فرما دے۔

پتہ نہیں ساری کائنات کے مطلوب و معبود رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی اس دعا میں کیا تاثیر تھی کہ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہ گرمی لگتی تھی اور نہ کبھی سردی کا احساس ہی ہوتا تھا۔ میں نے وقتی طور پر صرف سردی کی شکایت کی تھی لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمی کی شدت یا احساس سے بھی نجات دلا دی۔ اب میں گرمی میں موٹے صوف کے کپڑے پہن لیتا تھا اور سردی میں جان بوجھ کر باریک اور سادہ سے کپڑے پہن لیتا تھا۔ میرے اس انداز میں ایک راز پوشیدہ ہوتا تھا کہ لوگو! میرے آقا کی شان محبوبی دیکھو! اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی کیفیت تھی نا! لیکن آپ ہماری کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میری بہن گرمی اور مجھے یعنی سردی دونوں کو اپنے اپنے موسم میں بھرپور اپنے اپنے جوہر دکھانے ہوتے تھے لیکن ہم پتلیوں کی ڈور جس مالک کے ہاتھ میں ہے وہ سمجھا دیتا تھا کہ اے گرمی اور اے سردی کی تیزی سارے زمانے پر جہاں جہاں تمہاری رسائی ہے یا جہاں جہاں تمہیں اپنے موسم کی سختیاں بکھیرنے کا موقع ملے وہاں وہاں ضرور بکھیرو لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، میرے محبوب کے جاں نثار چچا اور چچی حضرت ابوطالب بن عبدالمطلب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ

کے لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ اس کی بہت بڑی سفارش ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ بقدر
حسنہ و جبالہ

(خصائص کبریٰ صفحہ ۲۵۲ جلد ۱۔ دلائل النبوة صفحہ ۴۶۳ جلد ۲۔ سیرت حلبیہ صفحہ ۱۶۰ جلد ۲)

مجمع الزوائد صفحہ ۱۲۵ جلد ۹)

موسم صرف سردی و گرمی کا ہی نہیں ہوتا۔ موسم جوانی اور بڑھاپے کا بھی ہوتا ہے۔ یہ موسم بھی سیدی و آقائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و الفت سے سرشار تقمیل ارشاد میں اپنی فطرت ہی بدل دیتے تھے۔

جوانی اور بڑھاپے کا موسم

میری مٹی میرے ہی ہاتھوں میں تنویر بن جائے

ہتھیلی کی لکیروں پر تیری تصویر بن جائے

شگفتہ زندگانی کی کوئی تدبیر بن جائے

تمہارا حسن میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے

ایک حقیقت ہے کہ جوانی چلی جائے تو آتی کبھی نہیں دیکھی اور اگر بڑھاپا آ

جائے تو کسی نے جاتے کبھی نہیں دیکھا۔ جوانی دیوانی کی رنگینیاں اپنا رخ موڑ لیں

تو کوئی منت سماجت دوبارہ آنے پر آمادہ نہیں کر سکتی اور اگر بڑھاپا اپنے جو بن پر آ

جائے تو کوئی نسخہ، کوئی تریاق، کوئی دوائی اور کوئی کشتہ اس کو گھر کے صحن سے نکال

نہیں سکتا، جسم کا جوڑ جوڑ، اس کی آمد کا پتہ دیتا ہے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے

ناخنوں تک۔ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوت بینائی سے لے کر مالک کی

ہر عطا کردہ صلاحیت و نعمت منہ موڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حکیموں کی حکمت و دانائی

کسی کام نہیں آتی۔

گئی جوانی تے آیا بڑھاپا جاگ پٹیاں سب پیراں

کس کم ہن محمد بخشا سونف جوین ہر یڑاں

لیکن قانون جس کے ہاتھ میں ہو۔ سارے موسموں کی باگ ڈور جس کے قبضہ قدرت میں ہو جو ان تمام حالات و کیفیات کا خالق و مالک ہو جو اللہ الصمد کی شان بے نیازی کا مالک ہو۔ اسے کس بات کی مجبوری ہے۔ وہ گہرے ترین بڑھاپے میں ارزل العمر میں پہنچانے والا، خود مختار جس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ وہ اس مقام تک پہنچا دے۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ (النحل 16/70)

اور تم میں سے بعض کو ناقص ترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ (جہاں پہنچ کر) سب کچھ جان لینے کے باوجود کچھ نہ جانے، اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا اور بڑی قدرت کا مالک ہے۔

اسی عمر سے پناہ طلب کرنی چاہئے کہ یا مالک! تو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تجھے ایک انتہائی کمزور انسان جس سے گلیوں کے تینکے بھی بھاری ہوں وہ عرض کرتا ہے اس بڑھاپے کی عمر کی رزالت سے محفوظ رکھ اور تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

وہ بے نیاز و صاحب قدرت ہو کر بھی اپنے محبوب ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی سفارشی دعا کسی کے حق میں قبول فرما کر نظام جوانی و بڑھاپا، موسم جوانی و بڑھاپا بدل دے تو کسی کا کیا جاتا ہے اور کس کو اعتراض کی کیا گنجائش ہے۔

آئیے۔ دیکھیں یہ موسم بڑھاپا اور جوانی کس طرح محبوب کائنات کی محبت و اطاعت کی خاطر اپنا نظم بدلتا ہے۔

سیدنا عمرو ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ میں پانی لیکر حاضر ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پانی کے برتن میں ایک بال تھا۔ وہ میں نے نکال کر علیحدہ رکھ دیا۔ شاید کائنات عالم کی خبر رکھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک نے دیکھ لیا اور اس عمل کو پسند فرمایا تو آپ نے خوش ہو کر دعا فرمائی۔ اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ يَا اللّٰهُ اس شخص کو خوبصورت بنا دے۔ اسے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال فرما۔ بس اس دعا نے اتنا اثر دکھایا یا مالک نے یہ دعا اتنی قبول فرمائی کہ بڑھاپے کو بھی کہہ دیا کہ عمر کی طوالت بے شک جاری رہے لیکن عمرو بن الخطاب پر بڑھاپے کے اثرات کبھی نہ ہوں۔ نتیجتاً ۹۳ ویں برس کی عمر میں بھی سر اور داڑھی میں سے ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ (مدارج النبوة فارسی صفحہ ۲۳۸ جلد ۱۔ حجۃ اللہ علی العالمین صفحہ ۲۳۷)

مَوْلَايَ صَلَّى وَ سَلَّمَ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اس خیرات کے اثرات غیروں تک بھی پہنچے

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو صاف کیا (اس میں کوئی چیز یا تنکا وغیرہ پڑ گیا تھا) آپ سرکار کائنات ارضی و سماوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے بھی خوش ہو کر انعام بخشے ہوئے دعا فرمائی۔ اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ اے اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری داڑھی کو عقیدت سے صاف کرنے کے صلہ میں اور انعام کے طور پر حسین و جمیل بنا دے۔ اس یہودی کے بڑھاپے کی وجہ سے سارے بال سفید ہو چکے تھے لیکن جو بڑھاپا جاتے کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس یہودی کے ہاں سے بھاگ گیا اور اس کے سارے سفید بال دوبارہ کالے سیاہ ہو گئے یعنی وہ جوانی جو جا کر واپس کبھی نہیں لوٹی۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہتوں

کی خاطر صدیوں سے از ازل تا بہ ابد نہ بدلنے والا قانون بدل کر رکھ دیا اور اس بوڑھے یہودی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب کر دیئے۔

(مدارج النبوة فارسی صفحہ ۴۳۸ جلد ۱ حجۃ اللہ علی العالمین صفحہ ۲۳۷)

پاس رہتا ہے دور رہتا ہے
کوئی دل میں ضرور رہتا ہے
ایسے رہتے ہیں وہ میرے دل میں
جیسے آنکھوں میں نور رہتا ہے
جب سے دیکھا ہے ان کی آنکھوں کو
ہلکا ہلکا سرور رہتا ہے

حضور سر اپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعمت حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ ان کے سر پر دست شفقت رکھا اور درازی عمر کی دعا دی۔ آپ کی عمر مبارک اسی سال ہوئی لیکن ایک بال بھی سفید نہ ہوا اور نہ جسم پر بڑھاپے کے اثرات مرتب ہوئے۔ بڑھاپے کی لاچاریاں، بیماریاں اور بڑھاپے کی گرفتاریاں اس گلی کا راستہ ہی بھول گئیں۔

اللهم صل و سلم و بارک علی النبی المختار سید الابرار
زین المرسلین الاخیار و علی آلہ و اصحابہ اولی الایدی
والابصار

سوننا: یعنی زیرِ خالص کی محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سوننا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دہات، کائنات کے ہر حصہ میں اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے اور ہر زمانہ میں اپنا لوہا منواتی رہی ہے، منوار ہی ہے اور منواتی رہے گی۔ تمام بادشاہیوں کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے اپنی چمک دمک کا سورج طلوع کرتی رہی۔ تمام بادشاہوں کی سطوت و تمکنت

اور طاقت کا سرچشمہ یہی سونا رہا ہے۔

لیکن ہے بڑا بے وفا، کسی کے ساتھ بھی دوستی نبھانا نہیں جانتا بلکہ ہمیشہ کسی کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اس نے کئی سرہائے غرور خاک میں ملائے ہیں کسی کو اٹھاتا ہے تو آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر خود ہی کئی بار اپنے ہاتھوں کسی کے سر پر دستار عزت و فضیلت سجائی ہوئی یوں کھینچنے لگتا ہے۔ جیسے کانٹوں میں الجھی ہوئی چادر کو کوئی جھٹکا دے کر اتارتا ہے۔ کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ بے بسی و بے چارگی دیکھ دیکھ مسکراتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن کر یوں ہر چیز بھلا دیتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور کسی کو کھلونوں کی طرح اپنے ہاتھوں نچاتا ہے اور توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کوئی اس کی دید کو ترستے رہ جاتے ہیں اور کئی ایک کے گھر میں اتنی فراوانی کے ساتھ گھستا چلا جاتا ہے کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں ملتی۔

ایسی قیمتی، اہم اور بے وفا دولت بھی، کسی کے حکم کی پابند نظر آتی ہے۔ محبت کی زنجیر جس کسی کے قدموں میں پڑ جائے۔ اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔

جمادات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے۔ اس کے قبیلے کے خاک کے ذروں نے مجھے اس کی کہانی سنائی۔ کہنے لگے، سونے کو اپنی حیثیت پر بڑا ناز ہوگا۔ فخر ہوگا۔ بے وفائی کی فطری جبلت کے باعث، ہو سکتا ہے اس کا اپنا سر بھی کسی کے آگے نہ جھکتا ہو لیکن اپنے مالک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت نے اس کے پاؤں میں بھی زنجیر ڈال دی اور اف نہ کر سکا جو حکم ہو اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو گیا۔

آپ کے اور ہمارے کریم آقا۔ محبوب رب ذوالکرم والاحسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک باوفا، وفا شعار مخلص، جاں نثار، غلام، حضرت سلمان فارسی رضی

اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا۔ ان کے ذمہ چالیس اوقیہ سونا قرض تھا۔ ایک حساس انسان کو قرض بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے اپنے قرض کا تذکرہ، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سونے کا ایک انڈا عطا فرمایا کہ یہ لیں اور اپنے سارے قرض خواہوں کا قرض ادا کریں۔ عرض کی، حضور! اتنے تھوڑے سے سونے سے کیا کسی کا قرض اتر سکے گا۔ شاید وہ آپ کی بات سمجھ نہ سکے تھے۔ یا ظاہری و دنیوی اثرات کے حصار سے ابھی نکل نہ پائے تھے۔ ورنہ زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے الفاظ کے فیوض و برکات سے تو وہ محروم نہ تھے تاہم آپ نے ارشاد فرمایا۔ سلمان! جاؤ تو سہی، قرض خواہوں کو بلا لو اور ان سب کو ان کی ضرورت کے مطابق قرض چکاتے چلے جاؤ۔

اب آپ سمجھ گئے تھے جن کے ایک تبسم سے دلوں کی مرجھائی کلیاں کھل جاتی ہیں جن کے ہاتھوں کے لمس سے ہر چیز کی کمی کثرت میں بدل جاتی ہے۔ یہ سونے کے انڈے کے بارے میں حکم بھی تو اسی نے عطا فرمایا ہے۔ چلو چلتے ہیں اور آپ کے ارشاد کا یہ اعجاز بھی دیکھتے ہیں یہ کرشمہ ہم بھی دیکھیں گے۔ قرض خواہ بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی۔

اسی فیض کے اثرات سے بھگے جذبات سے چل دیئے اور ایک ایک قرض خواہ کو بلاتے رہے۔ اس کے قرض کے مطابق سونا کاٹ کاٹ کر دیتے رہے اور فارغ کرتے رہے۔ آخر تمام قرض خواہوں کے قرض کے بار سے فارغ ہوئے اور چالیس اوقیہ سونا قرض ادا بھی ہو گیا اور جتنا سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا دیا تھا وہ بچ بھی گیا۔

ہم خاک کے ذروں نے اس سونے سے کئی بار، اس راز سے پرہ اٹھانے کی درخواست بھی کی لیکن وہ ہر بار ہنس کر ٹال گیا۔

قصے ہو کر کے دے اندر درد اپنے کج ہوون
 بن پیڑوں تاثیراں ناہیں بے پیڑے کد روون
 جس وچہ جھی رمز نہ ہووے درد منداں دے حالوں
 بہتر چپ محمد بخشا سخن اجہے نالوں

غاروں کی حضور سے محبت اور آپ کی اطاعت

پرانی بات وہ ہوتی ہے جو نسیا منسیا ہو جائے بھول بھلیوں کی وادیوں میں گم
 ہو جائے۔ قعر نسیاں میں جا گرے۔ کبھی کوئی بھول کر بھی یاد نہ آئے کہ یہ واقعہ ہوا
 تھا۔ وہ گلیاں وہ بازار، وہ بستیاں وہ شہر اور جنگل وہ بیاباں اور گلزار گزرنے والوں کو
 کبھی اپنے ساتھ، یا اپنے ہاں ہونے والا واقعہ یاد نہ کرائیں نہ کبھی سن کر خوشی و
 مسرت سے لبوں پر مسکراہٹ آئے اور نہ کبھی حسرت و یاس سے آنکھوں کے
 کٹورے آنسوؤں سے بھر جائیں۔

لیکن اگر بات بیسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ایسے
 ہو جیسے ابھی کل کی بات ہے۔ اس بات کے اس واقعہ کے اور اس کے سارے
 کرداروں کے نام لوگ وظیفے کے طور پر رٹ لیں۔ ان کے ذکر سے ذہن و فکر
 میں بہار آجائے۔ خوشی و مسرت سے چہرہ ایمان کھل اٹھے جی کرے۔ ان حسینوں
 کے قدموں کی دھول بن جائیں جن کے حسین تذکرے، ان گلیوں کو، ان بازاروں
 کو، ان غاروں کو زندہ رکھے ہوئے ہے تو اس کو پرانی کہنا دانشمندی اور دانشوری
 نہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ثقاہت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اگر ان کی
 رائے ہی کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بات آج سے دو ہزار ایک سو اڑسٹھ سال پرانی ہے
 جس بات کو سات لاکھ اسی ہزار چار سو اسی دن گزر چکے ہوں۔ وہ بات اگر آج بھی
 ایسی ہی ہو کہ ایقان و یقین سے بھولنے نہ پائے بلکہ خالق و مالک اس کہانی کے

پڑھنے والوں کو ایک ایک حرف کے بدلے کم از کم دس دس نیکیوں کی خیرات بانٹتا رہتا ہو کئی لاکھ انسانوں کو وہ اتنا ازبر ہو نوکِ زباں پر ہو کہ بھولنے کو جی ہی نہ کرے۔ تو کیا آپ اس کہانی کو پرانی کہیں گے نہیں۔ ہرگز نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سو اکتھ سال پہلے۔ ملک شام کے ایک بادشاہ انطیوکیس چہارم نے مالک کے غیروں سے یارانے کے بھوت سوار ہونے کی بناء پر بیت المقدس کو شہید کر کے اس کی جگہ زلمیس دیوتا کے مندر کی بنیاد ڈالی تو مکابی خاندان کے چند غیور موحد نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، حالات کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

یعنی بیانِ حقیقت کا منشا داستان گوئی نہیں بلکہ حکمت و موعظت کو اس طرح لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس سے فیض یاب ہوں۔ اپنے رب پر خالق و مالک پر ایمان لانے کے بعد جو ملتا ہے وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ پھر کبھی ابہام کا مقام نہیں آتا۔

وہ نوجوان، قریب ہی ایک پہاڑ کی غار سے میں جا لیٹے۔ حق بات کہنے پر جہاں زبان کٹتی ہو۔ وہاں سے حالات کی بہتری تک یا قدرت کی طرف سے حالات کی تبدیلی آنے تک ہجرت کر جانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔

ان نوجوانوں کے ساتھ۔ ایک کتا بھی، غار کے دھانے پر آ لیٹا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

کہ ہم نے ان کے کانوں پر اس غار میں کئی برس تھکی دی۔ کان پر پیار سے تھکی دے کر سلانا اور سلائے جانے والے کی حفاظت کا پورا اہتمام کرنا، قرب الہی کے لئے ہو تو حسن عمل کا کیا کہنا۔

ہم غار کے پتھروں اور ذروں نے ان کا استقبال کیا اور تین صدیوں تک ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا ہے۔ یہ نوجوان ہماری پارٹی کے بندے تھے۔ اُن کے ساتھ ساتھ ایک نجس اور ناپاک جانور، کتا بھی تھا لیکن وہ چونکہ اُن کے ساتھ ہی آیا تھا اور یقیناً اس نے ان نوجوانوں کے مقام و مرتبہ کو جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، پھر مان بھی لیا تھا اس جان پہچان اور تسلیم نے اس کو بھی امر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں پیدا کردہ کتوں میں سے کسی کا قرآن پاک میں ذکر نہیں آیا۔ صرف اسی کا نام آیا ہے یہ سب ان کی جان پہچان اور تسلیم کا انعام ہے کہ اس نے اپنے مالک و خالق کے ماننے والوں کو مان لیا۔

تیری نسبت نے نکھارا میرا انداز حیات

میں اگر تیرا نہ ہوتا سگِ دنیا ہوتا

قدرت نے ان نوجوانوں کے ایمان کی پختگی کے صلے کی پھوار میں ہم غار کے پتھروں، کنکروں اور خاک کے ذروں کو بھی بھگو کر رکھ دیا اور اس کتے کو بھی، لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ غار کے قریب ان کی یاد میں مسجد تعمیر کریں۔ ان کے اسماء گرامی کی تختی لگائیں۔ غار، مسجد، کتا، کی نسبت سے قرآن پاک میں

أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ،

وَكَالِبُهُمْ بِاسِطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ

کہ ان کا کتا غار کے منہ پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے کہہ کر تمام کرداروں کو زندہ کر دیا، تازہ کر دیا، ان کے اس واقعہ کو اتنا پرانا ہونے کے باوجود زمانے کی غفلت کے گرد و غبار میں چھپنے نہیں دیا نسیاً منسیاً ہونے نہیں دیا۔

جب ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہوں اور شکور حلیم کی قدر دانی کے شہرے ہوں اور اس غار کا سرساری دنیا کی ہزاروں لاکھوں غاروں میں سب سے اونچا ہو تو ہم بھلا کیسے ان کو فراموش کر سکتی تھیں۔

یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہمارے ہاں ساری کائنات میں آج تک جتنے ہمارے خالق و مالک کے ماننے والے چاہنے والے اور اس کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے بھی ہوئے۔ ان سب کے سردار ان سب کے آقا، فخر انسانیت اور فخر موجوداتِ زمانہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئے۔

غارِ حرا

میرا نام تو حرا ہے اور میرے قریب ہی ایک اور میری بہن غارِ ثور کے نام سے معروف و موسوم ہے۔ ہمارے مقدروں نے ہمیں غارِ اصحاب الکھف سے بھی اونچا مقام دے دیا۔

صحابِ لطفِ رحمانی، مالکِ آب و تابِ چہرہٴ زیبائی، بلیغِ دل آراء، ملاحظت و نمکینی حسن و جمال کے پیکرِ جسمانی و روحانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ ستودہ صفات کے اعلانِ نبوت کے قریب قریب، میرے کلبہٴ تاریک کو رشکِ آفتاب و ماہتاب بنانے کے دن قریب آگئے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے مجھے خلعتِ وجود سے نوازا گیا۔ اس وقت سے کوئی رشکِ انسانیت، انسان میرے ہاں مہمان ہوئے ہوں۔ شاید یہ میری زندگی میں پہلا لمحہ مسعود تھا کہ پوری کائنات کا مرکزِ محبت و اطاعتِ محبوبِ رب ذوالکرم، باعثِ تخلیقِ کلِ خلایق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے اپنے مالک سے لو لگائے خلوت میں بیٹھ کر، ساری کائنات سے منہ موڑ کر، اپنے معبود و مسجود سے ہمراز ہونے کے لئے میرا انتخاب کیا۔

میں چھج پتا سے ونڈاں

اج قیدی کر لیا ماہی نوں

قدرت کی عطا کردہ نعمتوں کا حساب ممکن نہیں۔ اس نے ہمیں کیا کیا انعام بخشے ہیں۔ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوصف جب مطلعِ تاباں بن کر

میرے ہاں جلوہ افروز ہوئے اور اپنے خالق و مالک سے ہمراز ہوئے۔ بے شک اس وقت آپ کے پاس میرے سوا اور کوئی نہ ہوتا تھا لیکن میں نہیں جان سکی وہ میرے ہاں خلوت کدہ میں کیا کیا اسرار و رموز سے لبریز گفتگو فرماتے تھے۔

ہجر کی راتیں ہوں، یادن بہر حال طویل ہوتے ہیں اور وصل کی طویل ترین راتیں بھی مختصر ہو جاتی ہیں۔ آپ اگرچہ کئی کئی دن میرے ہاں جلوہ افروز رہتے تھے اور مجھے قدم بوسی کا شرف ملتا رہتا تھا۔ آپ کی وہ جبین سعادت، جس کی تابانیوں سے بھیک لے کر چاند رشن ہوتا ہے وہ جبین میں نے کئی بار چومی ہے۔ میں نے کتنی کتنی دیر تک اس کے بوسے لئے ہیں۔ میں خود ان لمحات کے سحر میں ڈوب جاتی تھی اور مجھے خبر تک نہ ہوتی تھی کہ ساری رات ایک ہی سجدہ میں کیسے بسر ہو گئی۔ آپ میرے ہاں قیام میں کبھی کبھی آرام فرما بھی ہوتے تھے۔ میرے خاک کے ذروں کا وہ حصہ جہاں آپ کا جسم مبارک آرام فرما ہوتا تھا وہ عرش اعظم سے بھی برتر اور عظیم ہوتا تھا۔ میں ایسے حالات میں محسوس کرتی تھی کہ جیسے کسی نے مجھے زمین سے اٹھا کر لامکاں تک پہنچا دیا ہے۔

خوشبو ہے کہ اب تک نہیں جاتی میرے گھر سے

اک شب کوئی مہمان میرے گھر میں رہا تھا

اگر آپ کے مشامِ جان ایمان کام کرتے ہیں تو کبھی میرے ہاں تشریف لائیں۔ میں نے وہ خوشبودار لمحات کی عنبر نشاں خوشبو، آج تک سنبھال سنبھال رکھی ہوئی ہے۔ یہ حضور سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انعام میں عطا فرمائی ہوئی ہے۔

سلام اس پر کہ جس نے ظلمتوں کو روشنی بخشی

سلام اس پر کہ جس نے زندگی کو زندگی بخشی

سلام اس پر کہ جس کی راہ دیکھی ہے بہاروں نے
 سلام اس پر کہ جس کے پاؤں چومے ہیں ستاروں نے
 پھر وہ لمحہ بھی آگیا جو تقدس مآب کھربوں سالوں پر بھی بھاری ہے جس میں
 پوری انسانیت کا نصاب زندگی اترا۔ ان گنت ملائکہ کا سردار ان گنت انبیاء و رسل کا
 صحابی، مکین سدرۃ المنتہی، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام پوری دنیا کے امام
 و راہبر و راہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تمام آسمانی کتابوں میں سب سے
 اعلیٰ ترین کتاب کی ابتدائی چند آیات مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ میں ان لمحات کی
 گواہ ہوں۔ میرا ایک ایک پتھر گواہ ہے۔ میری خاک کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے کہ
 اولین سطور مبارکہ پوری انسانیت کے نصاب زندگی کی ابتدائی آیات، ہمارے
 سامنے نازل ہوئیں۔ اس پاکیزہ معطر معنبر لمحے کی پاکیزگیاں نہ پوچھو۔ یہی چند
 آیات مبارکہ ناقوس اولیں تھیں۔ جس نے پوری کائنات کو حیرت زدہ کر دیا۔

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی
 عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
 اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
 اور اک نوحہ کیمیا ساتھ لایا

میرا نام جو آپ کو اب تک یاد ہے یا میں دنیائے ایمان کے نقشہ پر جلوہ گر
 ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ میرے ہاں تشریف لائے اور
 میرے ذروں کو رشکِ قمر و بدر بنا دیا۔ اور میرا ماحول ابھی تک اسی نشے سے سرشار
 ہے۔ حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مہمان کو خوش آمدید کہتے
 ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے ہیں۔

پوچھا کسی نے مجھ سے کہ خوشبو کی انتہا
 میں نے کہا کہ آج بھی غار حرا میں ہے

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله
 واصحابه وبارك وسلم

غارِ ثور

کامل عشق خدایا بخشیش غیر دلوں منہ موڑاں
 ہوں جاناں، ہو تکاں، ہو آکھاں لوڑاں

ابر بہار نے حجرہ حجاز مقدس کا انتخاب کیا کہ پورے حجاز مقدس میں خصوصاً
 بیت اللہ شریف اور اس کے اڑوس پڑوس میں صدیوں سے ابر بہار کا ایک چھینٹا
 تک نہ برسا تھا۔ صدیوں پہلے حضرت ذبح علیہ السلام کے محترم قدم یہاں پہنچے اور
 وادی غیر زرع کو مرجع خلأق بنا دیا پھر امتدادِ زمانہ سے خود بیت اللہ شریف بھی
 غیروں کا مسکن بن گیا اور غیروں نے اپنا تسلط اس طرح جمالیا تھا جیسے تیندوا اپنے
 جال میں شکار کو چاروں طرف سے پھنسا لیتا ہے۔ ابر بہار کے چھینٹے، حرماں نصیبی
 کے خوگروں کو اس نہ آئے۔ دکھتی آگ پر پانی کے چھینٹے آگ کو اور بھڑکا دیتے
 ہیں۔ یہاں کے باسیوں کے دلوں میں شرک و بت پرستی کی شیطانی آگ اتنی
 شعلہ جوالہ بن چکی تھی کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے تن بدن کی آگ کو اور بڑھا
 گئے۔

وہ جو سارے جہانوں کے لئے رحمتوں کا سائبان بن کر آیا تھا وہ اپنے شہر،
 اپنے گھر والوں اور اپنے اعزاء و اقرباء کے لئے کتنی بڑی ٹھنڈی چھاؤں دینے والی
 چھتری بن کر آیا ہوگا لیکن حرماں نصیبی اور کم بختی کے اندھیروں نے ان کی بینائی،
 ان کی بصارت اور ان کی بصیرت کے چراغوں کو بجھا دیا۔ راہِ راست کی راہ
 دکھانے والا بارہ تیرہ سال مسلسل انہیں جگاتا رہا۔ بد بختی کو خوش بختی میں تبدیل
 کرنے والا ناقوس مسلسل بجاتا رہا۔ اس کے جواب میں دعائیں لینے کی بجائے
 دکھ سہتا رہا۔ کرب برداشت کرتا رہا۔ ان کے بچھائے ہوئے کانٹوں پہ چلتا رہا۔

اپنے چاہنے والوں کے گلوں میں رسیاں ڈالے گھسیٹتے دیکھتا رہا۔ دہکتے انگاروں پر لیٹتا دیکھتا رہا۔ نازک اجسام مستورات کے جسموں کو درمیان سے چرتا ہوا دیکھتا رہا اور صبر کی تلقین کرتا رہا۔ وہ خود بھی صابر تھے اور اپنے چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں کو صبر کی ایک بہت بھاری سل کے نیچے دل رکھ دینے کی راہ کا خوگر بناتا رہا۔ چشمِ فلک نے یہ نظارے دیکھے اور آسمانِ نیلگوں کے ستارے یہ منظر دیکھ دیکھ آنسوں بہاتے رہے۔ شعب ابی طالب کے تین سال کا کر بناک زمانہ ان بدبختوں کی وجہ سے شقاوتِ قلبی میں اور اضافہ کرتا رہا۔ وہ زہریلی زبانوں، زہریلے فقروں، زہریلی سوچوں اور ذہنوں کے زہریلے تیروں میں اضافے کرتے رہے۔ ادھر ابرِ رحمت کی ٹھنڈی پھوار دعاؤں کی خیرات بانٹتی رہی۔ آخر خود خالق و مالک نے ہی حکم دے دیا۔ میرے محبوب، ان بد نصیبوں اور بدبختوں کی کالک دور ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے۔ اور آپ کے پاس بھی وقت بہت کم ہے۔ اب یہ تھوڑے وقت میں کسی زرخیز زمین پر ابر بہار بن کر برس اور خوب برس اور اتنا برس کہ ان کی آسندہ کی نسلیں بھی تاقیامِ قیامت دعائیں دیتی رہیں۔ درودوں سلاموں کے نذرانے پیش کرتے کرتے سیر نہ ہوں۔ تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے پیغام سے ایسے نہال ہوں کہ زمانہ ان کی سخاوت کا ان کی نرم دلی کا، ان کی محبت و الفت کا شکار ہو جائے۔

آخر مکہ کی وہ وادیاں، جو

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

کے نعموں سے سرمست تھیں اس کی پاکیزہ گلیوں، بازاروں، پر نور قرب و جواروں کو داغِ مفارقت دے کر یہاں سے چلے جانے کا وقت آ گیا۔ تاریخ کے دھارے بدلنے لگے۔ اوراقِ زندگی پلٹنے لگے۔ کعبے کے باشندوں سے رحمتیں روٹھنے لگیں۔ صفاء و مروہ ویران ہونے لگیں۔ حجرِ اسود ہر پھیرے پر السلام علیک یا

رسول اللہ کہنے کی سعادت سے محروم ہونے لگا۔ فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رحمتوں اور برکتوں کے پھولوں سے بھری جھولیاں لٹانے کا روٹ بدلنے لگا۔ مکہ کی وادیاں

قولوا لا اله الا الله تفلحوا

کے پیغام جانفراء سننے سے محروم ہونے لگیں۔ اندھوں، بہروں، گونگوں پر ختم اللہ علی قلوبہم

کی مہریں اور سخت ہونے کا وقت آ گیا۔ اندھے مزید اندھیاروں میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیئے جانے لگے۔ بہروں کا بہرہ پن ایسا ہونے لگا جیسے کوئی کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ گونگوں کا گنگ، ان کی بدبختی پر اور زیادہ آنسوؤں کے بہانے کا وقت لے کر آ گیا۔ اب مکہ کی فضا، کبھی چاند اترتا نہ دیکھ سکے گی۔ اب محراب کعبہ اس وقت تک جب تک مالک نے چاہا۔ ان کے ابرووں کو دیکھ دیکھ سجدہ ریز نہ ہو سکے گی۔ اب مقام ابراہیم کی قدر و منزلت پہچاننے والا، رخصت ہونے والا ہے اور وہ پھر بے قدروں کی ناقدر شناسی کا شکار ہونے والا ہے۔

تیرے اک نہ ہونے سے ساقیا! حالت یہ میکدہ ہے

خم کے خم بھرے ہیں اور مے خانہ خالی ہے

۲۲۔ صفر المظفر تھی، اور پیر کا دن اور جان کعبہ، کعبہ اور اہل کعبہ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ ان کے سروں پر، ان کے چیدہ چیدہ سات افراد جو اس وقت ان کی محرومی کے غصے کی انتہا کو پہنچے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے ہوئے تھے۔ نامرادی کی خاک ڈال کر، ان کی آنکھوں کی بے بصیرتی میں اور اضافہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے، روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ، ابوبکر یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منتظر تھے۔ صرف کواڑ چڑھائے ہوئے تھے۔ گھر کے مین

گیٹ کو کنڈی نہیں لگائی ہوئی تھی کہ کہیں کنڈی کھولتے جتنی دیر بھی نہ لگے۔ گھر کا سارا اثاثہ، ساری دولت، ساری متاع، ایک گٹھڑی میں بندھی، ساتھ جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے گوشت اور طعام سے توشہ دان تیار کیا ہوا تھا۔ حضرت اسماء آپ کی صاحبزادی الوداع کہنے قریب ہی حجاب نسوانی میں مستور کھڑی تھیں۔ توشہ دان اور دیگر سامان باندھنے کے لئے جلدی میں رسی نہ مل سکی۔ تو حضرت اسماء نے اپنے دوپٹہ کے دو حصے کئے۔ ایک میں توشہ دان باندھ دیا اور ایک حصہ پھر سر پر اوڑھ لیا۔ ایسی جلدیاں بھی کیا خوب ہوتی ہیں۔ ایسی جلدی میں کیا ہوا کام بھی بعض اوقات وقت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ان کی اس جلدی میں کیا ہوا یہ عقلمندی کا کام ذات النطاقین کا لقب دے گیا جو تا قیامت، ان کی پہچان بن گیا۔

گلے ملنے کی جلدی میں کسے رہتے ہیں یاد ارکان

نماز عید میں یاروں نے اک تکبیر کم کر دی

مکہ سے روانگی کے ان لمحات جدائی کا قلق، کوئی کعبے کی دیواروں سے پوچھے۔ جو فریاد کناں تھیں کہ اے ہمیں چھوڑ کے جانے والے تو تو ہمیں پھر سے آباد کرنے کے لئے آیا تھا۔ سینکڑوں جھوٹے معبودوں سے آزاد کرانے آیا تھا۔ ان کم بختوں نے ہزار ہا۔ ان بتوں پر دی جانے والی قربانیوں کے خون اور گوشت سے میری دیواروں کو لتھڑا ہوا ہے۔ تو تو ہمیں دھونے اور پاک کرنے کے لئے ویز کھم کی صفت بن کر آیا تھا۔ ہمیں تو امید لگ گئی تھی ہمیں کوئی پاک کرنے آ گیا ہے اور تو ہمیں پھر ویسے کا ویسا ہی ان کم بختوں کے حوالے کئے جا رہا ہے۔

اے تماشہ گاہِ عالم روئے تو

تو کجا بہر تماشہ می روی

میری دیواروں کی، حریم کعبہ کی، حطیم کعبہ کی، مستلزم کی، حجر اسود کی، مقام

ابراہیم کی، کعبے کے پرنا لے کی۔ آب زمزم کی، صفا کی، مروہ کی، حرا کی، ثور کی، سب کی آنکھیں تو آپ پر لگی ہوئی تھیں۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اس فریاد نے ماحول کو اتنا سوگوار کر دیا تھا کہ راحتِ قلب حزیں رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق سے کہا، ذرا ٹھہرو، ان بیچارے بے گناہ فریاد کنناں پتھروں کو دلاسا تو دے سکوں۔ آپ نے کعبہ کو جو اس وقت فریاد میں سب کا نمائندہ بنا ہوا تھا۔ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَاحِبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلٰى وَاِنَّكَ لَاحِبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلٰى
اللّٰهِ وَلَوْ لَا اَنَّ اَهْلَكَ اَخْرَجُونِيْ مَا اَخْرَجْتُ مِنْكَ

(رواہ الامام احمد والترمذی)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں روایت فرمائی ہے۔
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ، مَا أَطْيَبِكَ مِنْ
بَلَدٍ وَأَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمِيْ أَخْرَجُونِيْ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ
غَيْرِكَ

یعنی بخدا، اے مکہ کی سر زمین تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ساری زمینوں سے
زیادہ محبوب ہے اور بے شک تو اللہ تعالیٰ کی تمام زمینوں سے اللہ تعالیٰ
کو زیادہ پیاری ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ
نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔

حضور سید عالم و سید کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شہر
مکہ! تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا پیارا ہے اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے
نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں ہرگز کسی دوسرے شہر میں کبھی سکونت اختیار نہ کرتا۔
لگتا ہے کعبہ نے سرکار و الاتبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت بھرے
انداز میں پیار کا اظہار کرنے اور حالات کی سنگینی کی مجبوری کی وضاحت سے مغموم

سی خاموشی اختیار کر لی ہوگی اور کہا ہوگا اچھا کریم، رفتید و لے نہ ازدلی ما

اچھا جاتے ہو فی امان اللہ

سونی محفل ہے کوئی بات نہیں

سوگوار، مغموم اور افسردگی کے ماحول میں سفر شروع ہوا۔ اگرچہ میں غارِ حرا بھی راستے میں تھی لیکن آج میری بہن غارِ ثور کے مقدر جاگنے والے تھے۔ سرکار نے ادھر کا رخ فرمایا۔ سرکار جوں جوں اس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اس کی راہ کے پتھر، اونچے ہو ہو کر استقبال کر رہے تھے۔ وہ دور سے اتنی بلندیوں پر سرفرازی کے جھنڈے گاڑنے والے کو آتا دیکھ کر۔ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے اور بلند ہوتے جا رہے تھے۔

حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غارِ ثور کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ آپ کے پاؤں کا جوتا۔ پاؤں کو زخمی کر رہا ہے اور آپ چلنے میں دشواری محسوس فرما رہے ہیں۔ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ابو قحافہ کے بیٹے کو فرشِ زمینِ لاعلمی سے اٹھا کر عزت و شہرت کے عرش پر لا بٹھایا ہے۔ اے ہم بے شانوں کو شان و شوکت دینے والے۔ آپ کے زخمی قدموں کی تکلیف۔ ناقابل برداشت ہے میرا کندھا حاضر ہے۔ تشریف لائیں اور میرے کندھے کو عرشِ بریں بنا دیں۔

ایہہ کھی مست ملنگاں دی عرش بنا جا آج دی رات

آپ نے درخواست قبول فرمائی۔ کوئی دیکھنے والا دیکھے۔ مکے کا ایک پچاس سالہ رئیس۔ سامانِ سفر بھی اٹھائے ہوئے ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر کر رہا ہے۔ حضور سراپا نور و ظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے اور پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے قدموں کے نشان بھی مٹاتا جا رہا ہے۔ اس اندازِ

فداکاری پہ کوئی مرنہ جائے کیوں۔

سرد آہیں، گرم آنسو، آنسوؤں میں خونِ دل
 کہہ رہے ہیں اس طرح افسانہ در افسانہ ہم
 اسی کیفیت میں آپ غارِ ثور کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ آگے کی کہانی
 آپ خود غارِ ثور سے سن لیں۔ شاید میں اس کے جذبات کی صحیح ترجمانی نہ کر
 سکوں۔

کہاں سے لائے گا قاصدِ دہن میرا زباں میری
 یہی بہتر ہے خود سن لیں وہ مجھ سے داستاں میری

میں غارِ ثور ہوں۔ میں صفاء و مروہ، فاران اور حرا کی پڑوسن ہوں۔ میں ان
 پہاڑیوں کے مقدر دیکھ دیکھ کر اپنی محرومی اور حرمانِ نصیبی پر اکثر آنسو بہایا کرتی تھی
 اور سچ پوچھے تو میری بے بسی مجھے دل سے رلاتی تھی۔ لوگ اپنی بلندی پر ناز کرتے
 ہیں مجھے اپنی بلندی پر شرم آتی تھی۔ میرے ہاں ایک مہمان بھی ایک عرصہ سے
 ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ سانپ میرا رقیب تھا اسے بھی انہی کا انتظار تھا۔ شاید اس
 نے کسی سے سن لیا تھا کہ آپ کا ایک دن یہاں سے گزر ہوگا۔ ہم آپس میں رقیب
 ہو کر بھی ایک دوسرے سے جلتے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہتے
 تھے۔ وہ مجھے اکثر میری آہ و زاریاں میری جدائی میں نکلنے والی چیخیں سن سن کر چپ
 نہیں کرایا کرتا تھا بلکہ وہ مشورہ دیا کرتا تھا اور رو اور چیخ اور ٹھنڈی اور سرد آہیں بھر،
 وہ فریادیوں کی فریاد پر ترس کھانے والے ہیں بس اس کا مشورہ سینے سے لگایا کہ

ایسے لئی غم دیاں دولتوں رکھیاں نے سانہ سانہ

غم ہون گے جے کول تے غم خوار آون گے

جدائی کا ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے اور اگر یہ جدائی صدیوں پر محیط ہو
 جائے تو کیا عالم ہوگا آخر ایک دن ایک رات میرا مقدر جاگا وہ جانِ جانِ وہ جانِ

بہار، وہ جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہاں قبلہ جمال جلوہ افروز ہوئے۔ سید کائنات اور سید مخلوقات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاں قدم رنجہ فرمایا خیر و برکات اور فوز و نجات کی بہار آئی۔ میری ساری وادی کے ستارے اور چاند آپ کے رخساروں کی شعاعوں سے منور ہو گئے۔

جینے کے آثار ملے ہیں آج مجھے سرکار ملے ہیں
 سر سے غم کی رات ڈھلی ہے صبح کے انوار ملے ہیں
 غم کے مارو غم کا ہے کا مجھ کو میرے غم خوار ملے ہیں

آپ میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے اسی انتظار میں اپنا دروازہ کبھی بند ہی نہ کیا تھا مجھے آواز آئی۔ آپ کے جاں نثار رفیق کہہ رہے تھے۔ حضور آپ تھوڑی دیر توقف فرمائیں۔ میں اندر جا کر پلکوں سے جا روب کشی کر لوں اور آبِ دیدہ سے چھڑکاؤ کر لوں میں ان کی اس ادا پر نہال ہو گئی۔ واقعی مجھے اپنا غم کدہ صاف رکھنے کی طرف دھیان ہی نہ گیا تھا۔ وہ فرخِ قال اور فرخندہ بخت اندر تشریف لائے اور مجھے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اندھیرے میں انہیں احساس ہوا غار میں ہر طرف روشن دان ہی روشن دان ہیں۔ روزن ہی روزن ہیں اور وہ روزن سترے، قریب تھے۔ دانشور لوگ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا۔ اتنے روزن ہونا، کسی راز سے خالی نہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر آپ نے اپنی ایک انتہائی قیمتی چادر جو آپ اوڑھے ہوئے تھے پھاڑ پھاڑ کر اچھی طرح سوراخ بند کرنا شروع کر دیئے حتیٰ کہ وہ جامہ برد صابری، ریزہ ریزہ کر کے تمام سوراخ بند کر دیئے جبکہ دو سوراخ رہ گئے۔ شاید وہ بھی بند کرنے کے وہ کوئی اسباب پیدا کر ہی لیتے۔ ان کے لئے کیا مشکل تھا۔ ایک انسان کامل، دوسرا کار مختار، صاحب عقل و شعور اور اس پر مستزاد یہ کہ عشق احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجسمہ شکیل، ایسی صفات کے حامل شخص کے لئے دو سوراخ بند کرنا بہت ہی آسان کام

کرنا کون سا مشکل امر تھا۔

بات صرف اتنی سی تھی کہ صدیوں سے بیٹھے سراپا انتظار عاشق کدھر جاتے جن کی طلب صادق نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بیچارے کیا کرتے۔

آسے آسے عمر گزاری تے گزرے سال ہزاراں

مالی باغ نہیں دیکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں

اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اور شان بڑھانی تھی۔ اس کا کیا بنتا۔ اس لئے خود فاعل حقیقی نے باقی ماندہ دو سوراخ بند نہ کرنے دیئے۔ جلدی سے ایک ہی ترکیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آئی کہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ان دونوں روزنوں پر رکھ دیں اور سراپا حسن و جمال کو مہبط انوار الہیہ کو درخواست کی کہ سرکار ابد قرار، اندر تشریف لے آئیں۔ میں اپنی بے زبانی کی زبان سے بھی درخواست گزار تھی کہ اہلاً وسہلاً و مرحباً

وہ تشریف لائیں یہ ان کا کرم ہے

یہ گھر ہے کہاں ان کے آنے کے قابل

بس پھریوں ہوا کہ گنہگاروں اور سیاہ کاروں کے دفتر سے زیادہ سیاہ ترین غار، غم زدہ و مفلس اور افسردہ لوگوں کی طرح بے سروسامان، عشاقِ صادق کے دل اور جگر کی طرح دامن تارتار اور انتہائی تنگ و ناہموار غار، غم فراق و مسلسل حرارتِ اشتیاق دید محبوباں کی طرح پارہ پارہ بلکہ آتش ہجر سے دل سوختگان کے دلوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے اور چھلنی چھلنی غار میں سرکار سراپا انوار و تجلیات تشریف لے آئے۔

وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت

کبھی ہم ان کو کبھی گھر کو دیکھتے ہیں

دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں ایک جیسا ہونے سے ساری دنیا کے انسان ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ دیکھو اور محبت و حیرت کی آنکھیں کھول کر دیکھو۔ صرف ایک شخص کی خاطر، اتنے انتظام و انصرام کئے جا رہے ہیں۔ کورپشن اور محرومانِ بصارت و بصیرت اور غیروں کو اپنی آنکھوں، نظروں، فکروں دماغوں، اپنی جبینوں اور اپنے سجدوں میں سجانے والوں سے کہو۔ ادھر دیکھو کسی کی محبت میں دنیا اور دنیا کا مالک، کیا کیا معجزے دکھا رہا ہے۔

سانپ نے ستر روز تیار کر لئے اور میں نے بھی دروازے کبھی بند نہیں کئے۔ صدیق نے اپنے قیمتی کپڑے تار تار کر دیئے۔ خود مالک و خالق نے دفعۃً چند لمحات میں غار کے دھانے پر جھاڑیاں اگا دیں۔ ننھے سے کیڑے کو عنکبوت کو فوراً پوری زندگی بھر کا زور لگا کر بھر پور محنت سے فوراً جالاتن دینے کا حکم ہو گیا۔ کبوتروں کے ایک جوڑے کو اس جھاڑی میں جالے کے حصار سے ایک طرف فوراً گھونسلا بنا کر انڈے دے دینے کا حکم ہو گیا۔ حالانکہ عام حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ عنکبوت نے انتہائی اخلاص و اختصاص کے تانے بانے سے غار کے منہ پر پردے ڈال دیئے۔ جھاڑیوں نے وادی غیر ذی زرع میں سخت ترین پتھروں کا سینہ چیر کر منشاء خداوندی کے مطابق، جتنی ضرورت تھی۔ اتنی جھاڑی اگا دی۔ کبوتروں نے پتہ نہیں کیسے انتظام کیا ہو گا۔ فوراً انڈے دے دیئے گھونسلا بنا لیا اور چھوٹے چھوٹے انڈوں سے اس گھونسلے کو فوراً آباد بھی کر دیا۔ کیا یہ کوئی عام سا شخص تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ساری مشینری فوراً حرکت میں آگئی اور وہ کام کر دکھائے کہ جدید ترین اور تیز ترین دور کی مشینری میں بھی اتنی سرعت رفتاری سے وہ کام نہ کر سکے۔ اللہ ہی جانے یہ کون بشر ہے۔

اگر قوتِ ذائقہ زندہ ہو تو منہ میں نمک رکھیں یا مرچ۔ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے نمک کا اپنا ذائقہ ہے۔ مرچ کا اپنا ذائقہ ہے۔ اسی طرح قوتِ ذائقہ محبت مردہ

نہ ہوئی ہو بلکہ زندہ ہو۔ خوشبوئے محبوب آئے بغیر رہ نہیں سکتی اور جس چاہنے والے نے انتظارِ محبوب میں صدیاں گزاری ہوں اسے محبوب کی آمد کی خبر کیوں نہ ہوئی ہوگی۔

سانپ کو بھی محبوب کی تشریف آوری پر خوشبو نے مست کر دیا۔ یہی مستی اس کی زندگی تھی۔ اسی خوشبو کی چاہت میں اس نے ستر کے قریب سوراخ بنا رکھے تھے لیکن جب آپ کی آمد آمد ہوئی تو قدموں کے بوسے لینے کے لئے جس راستے سے بھی نکلتا ہے وہ راستہ بند ہے۔ ایک دو چار آٹھ دس بیس عرض تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ اس کی طلب، ان رکاوٹوں سے مزید تیز ہونے لگی۔ آخر اس نے وہ راستہ تلاش کر لیا جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑیاں تھیں۔ اس نے دو چار دس بیس بار کچو کے دیئے ہوں گے لیکن آپ نے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آخر اس نے اپنی زندگی بھر کا بھرا سرمایہ اور جمع کیا ہوا زہر سارے کا سارا آپ کی ایڑی میں انڈیل دیا۔ اس کے علاوہ اُس کے پاس ان کی نذر کرنے کے لئے اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن صدیق کی صداقتِ محبت و الفت نے قوتِ صداقت میں لغزش نہ آنے دی۔ میں دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ ایڑی اور سانپ کا باہمی ربط بڑھ رہا تھا۔ محبت ہر دو جانب غالب تھی۔ بشری تقاضوں کے تحت، شدتِ تکلیف سے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آج چہرہ واضحی ان کی جھولی میں محو استراحت تھا۔ ایک آنسو نے درجہ قبول پایا اور قبولیت کو پہنچتا پہنچتا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا۔ لوگ کہتے ہیں۔

اشک سچے ہوں تو کبھی ضائع نہیں جاتے

میری پلکوں سے گرے ان کے قدم تک پہنچے

اگر کسی کی پلکوں سے گرے، کسی کے قدم تک پہنچ جائیں تو لوگ کہیں اشک

اور آنسو کتنے سچے ہیں اور اگر اشک پلکوں سے گریں اور رخسارِ محبوب تک پہنچ

جائیں تو ان کی سچائی کی معراج کیا ہوگی۔ یہ صدیق کی صداقت کی معراج تھی۔
 مازاغ کے کجلے والی آنکھ کھلی اور صدیق سے پوچھا۔ خیر باشد کیا ہوا عرض
 کیا۔ لُدِغْتُ میں ڈس لیا گیا ہوں آپ نے ایڑی ہٹانے کا حکم دیا۔ ایڑی کے زخم
 پر مرہم کل زمن یعنی لعابِ دہن تھوک مبارک لگایا اور زہرِ فوچکر ہو گیا۔ اندر سے
 سانپ بھی نکل آیا اور قدموں پہ لوٹنے لگا۔

وہ لعابِ دہن، مرہم کل زمن
 اس کی تخلیقی ندرت پہ لاکھوں سلام

(ظفر چشتی)

سوال پیدا ہوتا ہے سانپ تو دہشت کا نام ہے، خوف کا نام ہے اب تو سانپ
 آزاد تھا، جگہ بھی محدود تھی، باہر جانے کے سارے راستے بھی مسدود تھے۔ کسی کے
 بھاگنے کے، فرار ہونے کے امکانات بھی نہیں تھے۔ پھر افراتفری کیوں نہ پڑی۔
 سانپ نے کسی اور کو ڈسا کیوں نہیں۔ سانپ کی کھوپڑی کچلی کیوں نہیں گئی۔ میں
 خود عینی گواہ ہوں۔ نہ صدیق نے اسے کچھ کہا اور نہ راحت قلب و جاں نے اسے
 کچھ کہا بس اتنا ہوا کہ سانپ آیا قدموں پہ لوٹا، زیارت کی اور واپس اپنے بل میں
 جا گھسا۔ اللہ اللہ خیر سلا

رات کے کسی آخری حصہ میں آپ کی آمد آمد مبارک ہوئی تھی اور یہ سارے
 حفاظتی انتظامات رات کے اسی حصہ میں ہو گئے تھے دن تو آخر نکلنا تھا۔ نکلا اور اپنی
 جان کے دشمنوں کی، جانِ ایمان کے دشمنوں کی یہ رات بھی بڑے کرب سے گزری
 تھی۔ ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ مجھے تو ان کی اس رات کی کیفیت کی خبر نہیں
 کیسے گزری۔ میرا اندازہ ہے۔ اچھی اور آرام سے نہیں گزری ہوگی۔ بڑی
 تلملاہٹ میں گزری ہوگی۔ بے چینی بے قراری اور اپنی ناکامی کی کسک میں ہی
 گزری ہوگی۔ اسے لوٹنے کی ننگی تلواروں کے پہرے میں، سروں اور آنکھوں میں

خاک جھونک کر نکل گیا۔

دن طلوع ہوا۔ ناکامی کے اشتہار لگے، وہ لوگ جو دن چڑھے کوئی ایسی ویسی خبر سننے کے لئے شب بھر بے قرار رہے تھے۔ وہ بھی حیرت و استعجاب کی دلدل میں پھنس گئے۔ کوئی ابو جہل کو سستی کے طعنے دے رہا تھا اور کوئی اسے ڈوب مرنے کے لئے کہہ رہا تھا۔

اعلان ہونے لگے، جو پکڑ کر لائے زندہ یا مردہ، سواونٹ، اس کی نذر اور انعامات و اکرامات کی بارش الگ سرداری و شہرت کا سہرا الگ۔

خود ابو جہل، جہالتوں اور حماقتوں کی کتاب کا سر ورق، شرم سے منہ چھپانے کی بجائے، ڈھیٹ ہو کر تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کھوجی ساتھ لئے۔ پاؤں کے نشانات کی راہنمائی میں مجھ تک غارِ ثور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کھوجی نے کہا تمہارا مطلوب، اس غار سے کہیں آگے نہیں گیا۔ سورج یہیں کہیں غروب ہوا ہے۔

لیکن غار کے دروازے پر اگی ہوئی جھاڑیوں پر بہت پرانے ہونے کا چڑھا ہوا غازہ دیکھ کر عنکبوت کا اخلاص و اختصاص کے تانے بانے سے تنا ہوا جالا دیکھ کر جھاڑیوں کے عین درمیان میں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں دیئے ہوئے انڈے دیکھ کر تلملا اٹھے کھوجی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اس غار میں داخل ہونے کے تمام راستے مسدود ہیں۔ وہ اندر کیسے داخل ہوئے۔ کھوجی کہہ رہا تھا تم جو مرضی ہے کہو۔ میں اپنے تجربے کی عینک سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس غار کے اندر ہی ہوں گے۔ اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔

اور اندر بیٹھے صدیق کہہ رہے تھے اندھو! کسی غیر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تم نے غیروں سے یارانہ لگایا ہوا ہے۔ تم دل کی نگری سے غیر کو نکالو، بس اس کو بسا لو جس نے دل کی نگری کو اپنے لئے مخصوص کیا ہوا ہے۔ اس کو نکال

کر مالک کو اس گھر میں بسا لو پھر دیکھو تمہیں نظر آ جائے گا کہ اس وقت حسن سارے کا سارا مری جھولی میں ہے۔ غیروں کو اور غیروں سے یارا نہ لگانے والوں کو، اپنے گھر میں کون داخل ہونے دیتا ہے۔

لیکن چونکہ یہ غیروں سے محبت کی پٹی، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے ذہنوں اور فکروں پر، اس زور سے بندھی ہوئی تھی کہ اس کا ایک پیچ بھی ڈھیلا نہ ہو سکا۔ لہذا دیدار سے محروم کر دیئے گئے اور یہاں سے بھی ناکامی و نامرادی کی خاک، اپنے سروں پہ، اپنی سرداری کی پگڑیوں پہ ڈالے، واپس لوٹ گئے۔

یہ سارا واقعہ میرے سامنے ہوا تھا اگر اس عرش کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی خطرے کی گھنٹی آگے بڑھتے ہوئے محسوس ہوتی تو صدیق گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے کہ اب کیا ہوگا۔ فوراً تسکین بھرے الفاظ، ذات والاتبار کی طرف سے، جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہو جاتے۔ صدیق لَا تَخَفْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا صدیق! خوف زدہ ہونے کی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ!

پتہ نہیں یہ میرا وجدان ہے۔ یا حقیقت ہی ایسے ہے۔ کئی بار ان تین دنوں میں ایک عجیب کیف و سرور کی صورتِ حالات پیدا ہو جاتی رہی۔ میں یوں محسوس کرتی کہ جب ساری کائنات کو خواب غفلت سے جگانے والے، استراحت فرما ہوتے، تو شاید جیسے کسی کا داؤ لگ جاتا ہے۔ صدیق حضور کے آرام کے وقت کے منتظر رہتے۔ جو نہی آپ آرام فرما ہوتے بس سیدنا صدیق اکبر، رضی اللہ عنہ، حضور سراپا نور و سرور کے چہرہ انور کی زیارت میں مصروف ہو جاتے۔ کبھی آپ کی مازاغ کے کجلے والی آنکھ کے حسن میں گم ہو جاتے۔ تو کبھی واییل اذاجی کی تلاوت کرنے لگتے۔ ابھی تلاوت واییل سے جی نہیں بھرا تو پھول پنکھڑیوں کی نزاکت پہ لاکھوں

سلام بھیجنے لگتے اور کبھی پنجابِ رحمت سے دریا ہائے رحمت انگلیوں سے پھوٹتے دیکھنے لگتے۔ دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کی سماعت کا حسن بھی کیا حسن تھا۔ وہ اپنی خاموش زبان سے کئی اپنی کہانیاں، سناتے، بس اسی طرح دن کا طویل حصہ گزر جاتا۔

میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں ان کیفیات میں مغل ہوں کہ یہ ایک طالب اور مطلوب، محبت اور محبوب کی بات تھی اور اس کے معاملے میں ہم پتھروں کی کیا حیثیت ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سے میں پوچھ لیتی یا میں آپ کی اس کیفیت میں ڈوب کر کوئی بات کرتی تو آپ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے یہ اشعار ضرور سناتے۔

ایہہ تن میرا چشمہ ہووے تے میں ماہی دیکھ نہ رجاں ہو
لوں لوں دے مڈھ مکھ لکھ چشماں اک کھولاں اک کجاں ہو
ایناں ڈٹھیاں وی مینوں صبر نہ آوے تے میں ہو رکتے ول بھجاں ہو
ماہی دا دیدار وے حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں ججاں ہو

خیر اسی انداز سے وقت گزر گیا۔ رات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تشریف لاتے۔ دن بھر کی ساری کہانی سنا جاتے اور گھر سے کھانا بھی لے آتے۔ آپ کا ایک غلام قریب ہی کہیں سارا دن بکریاں چراتا رہتا اور شام کو واپسی سے پہلے بکریوں کا دودھ پیش کر جاتا۔

میرا جی کرتا تھا اسی طرح صدیاں بیت جائیں لیکن ہر خواہش، ہر ایک کی کب پوری ہوتی ہے۔ جب تک مالک کو منظور تھا۔ آپ نے میری کٹیا کو عرشِ معلیٰ نائے رکھا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو میں نے اپنے آپ سے کہا۔

دلِ مہجور راضی ہو رضا پر
ترا چاہا کبھی چاہا خدا نے

نبی رحمت سے محبت

ایک میں ہی اس کا دیوانہ نہیں ہوں دوستو

اس حبیب کو جس نے بھی دیکھا وہی شیدا ہوا

محبت اس سے کی جاتی ہے جس کی صحیح تعریف معلوم ہو۔ اس سے شناسائی

ہو۔ اس کے حسن و جمال سے واقفیت ہو۔ اس کے خصال و شمائل سے آگاہی ہو

اور جس شے کی تعریف ہی معلوم نہ ہو اس سے محبت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں

ہوتا اور اگر کسی کی صحیح تعریف معلوم نہ ہونے کے باوجود اس سے محبت کا دعویٰ کرتا

ہے تو وہ یا تو خود فریبی کا شکار ہے یا پھر لوگوں کو فریب دینا چاہتا ہے۔

اسی طرح اگر کوئی مقام نبوت کے صحیح تصور سے آشنا نہ ہو اور اس کے باوجود

محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹوں کی دنیا کا سردار ہے۔

اگر کسی کے حسن و جمال کا منکر ہو۔ اوصاف حمیدہ کے اعلیٰ مرتبے کا انکار

کرے۔ اس کی حیثیت اس کے مقام اور مرتبے کو ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس

کے باوجود عشق رسول کا دعویٰ کرے۔ اس کا کلمہ پڑھے اس کی تعریف و توصیف

بیان کرے تو کیا یہ کذب عظیم نہ ہوگا۔

کیا شیر، بھیڑیا، گیدڑ، لومڑ، ہرن، بارہ سنگا، گاؤخر، زیر، حیوان ہونے کی

حیثیت سے سب ایک جیسے ہیں۔ کیا عربی النسل رہوار اور سبک رفتار گھوڑا اور بوجھ

اٹھانے والا ٹو دونوں گھوڑے ہونے کی وجہ سے ایک جیسے ہیں۔

اگر ایک شخص گھر والوں سے کہے کہ میں بھی تمہارا باپ ہوں۔ میں اور تمہارا

باپ دونوں ایک جیسے ہیں لہذا دروازہ کھولو۔ میں بھی تمہارے باپ ہی کی طرح

ہوں۔ کیا اس کو گھر میں داخل ہونے کا ٹکٹ مل جائے گا۔

اگر نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو سب انسان بھی ایک جیسے نہیں اگر سب انسان ایک

جیسے نہیں تو ان سے محبت اور نفرت کے پہلو بھی ایک جیسے نہیں اگر کسی میں کوئی خوبی

نہ ہو اور اس سے محبت کرنے پر مجبور کیا جائے تو کیا یہ انصاف کی بات ہے۔
 محبت کے لئے محبوب کا خوبیوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جتنی زیادہ خوبیاں
 ہوں گی محبت اتنی زیادہ عروج پر ہوگی۔ اگر کوئی میرے باپ سے بڑھ کر شفیق نہ
 ہو۔ مہربان نہ ہو۔ تو میں اس سے اپنے باپ سے بڑھ کر محبت کیسے کر سکتا ہوں۔
 اگر میری ماں سے بڑھ کر میری ہر تمنا کا خیال رکھنے والا نہ ہو۔ میرے دکھ میں
 میرے کرب میں، میرے آنسوؤں کو میری ماں سے بڑھ کر محبت سے پونچھنے والا
 نہ ہو تو میں اس سے اپنی ماں سے زیادہ کیسے پیار کر سکتا ہوں اگر کوئی میری اولاد
 سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے والا نہ ہو تو میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس سے پیار
 کیوں کر کر سکتا ہوں۔ اگر دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر میری ضرورتوں کو پورا
 کرنے والا نہ ہو۔ میری چاہتوں کا خیال رکھنے والا نہ ہو۔ تو اس سے ان سے
 زیادہ محبت کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر اس کے باوجود میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو جھوٹا
 ہوں یا اس کے باوجود مجھے کسی سے محبت پر مجبور کرنے پر کوئی مجبور کرتا ہے تو یہ
 زیادتی ہے۔ یا مجھ سے ان سب سے زیادہ محبت کی چاہت رکھتا ہے تو حماقت ہے
 اگر کسی مجبوری کے تحت ایسی محبت کا اظہار کر بھی دیا جائے تو یہ منافقت ہے۔

ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ راحت قلب حزیں۔ رحمتہ للعالمین
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک
 صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے
 بڑھ کر مجھ سے محبت و پیار نہ کرے۔

محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے۔ ظاہری، جسمانی، خوبیوں کو دیکھ کر محبت
 ہوتی ہے۔ اخلاقی بلند یوں کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے۔ شفقت و محبت کو دیکھ کر محبت
 ہو جاتی ہے۔ سخاوت و عدالت دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، جتنی زیادہ

خوبیاں ہوں گی اتنی ہی محبت بڑھتی جائے گی۔

خوبیاں موجود ہوں اور محبت نہ ہو تو یہ شقاوتِ قلبی ہے۔ خوبیاں نظر نہ آئیں اور محبت کا دعویٰ کرے۔ یہ حماقت ہے خوبیاں موجود ہوں۔ ان خوبیوں کا بطیب خاطر اعتراف کرے۔ ان خوبیوں کی بناء پر تعظیم و تکریم بجالائے۔ عقیدت و احترام سے نقد دل و نگاہ کا نذرانہ پیش کرے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اسی ایمان کا نام محبت ہے۔ ایمان کی پختگی، محبت کی معراج ہے اور محبت کی معراج۔ ایمانِ کامل کی دلیل ہے۔

میرے حضور، سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعتاً میرے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ پر شفیق ہیں۔ مہربان ہیں۔ کرم نواز ہیں۔ عنایاتِ کریمانہ کے حامل ہیں۔ میرے والد ماجد اور والدہ ماجدہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ وہ میری ظاہری تخلیق کے موجب بنے۔ میری سرپرستی فرمائی۔ میرے خورد و نوش کا خیال رکھا۔ اس کے انتظامات فرمائے۔ مجھے گرم، سرد سے بچایا، میری بیماری و تندرستی کا خیال رکھا۔ اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا۔ پیار کیا۔ محبت کے شیرے میں ڈبویا، مجھے سینے سے لگایا۔ میرے بوسے لئے، میری ہر تکلیف پر تڑپے اور اس وقت تک تڑپتے رہے جب تک میری تکلیف ختم نہ ہوئی۔ میرے لباس کا خیال رکھا، میری جوتی کا خیال رکھا۔ میری حجامت کا خیال رکھا، میری تعلیم و تعلم کا خیال رکھا، اچھے سے اچھے سکول کا، مدرسہ کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، استاد کا معلم کا انتظام فرمایا۔ مجھے عرش سے فرشِ زمین پر بسانے کے جملہ انتظامات فرمائے۔ ان سارے انتظامات پر اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی۔ خود بھوکے رہے پیاسے رہے ننگے بدن ننگے پاؤں رہے سارے زمانے کے تھپڑے سہے۔ میری خطاؤں کی طرف نہ دیکھا۔ لوگوں کی طرف سے اٹھنے والی انگلیوں کی پرواہ نہ کی۔ میری کمزوریاں دیکھ کر بھی مجھ سے محبت میں کمی نہ آنے دی۔ میں کسی وجہ سے کسی اعتبار سے اپاہج ہو گیا۔ تو پوری

زندگی، گود میں پہلو میں کندھے پر اور سر چڑھاٹھائے رکھا۔ میری اپاہجی کی وجہ سے بوجھ سمجھ کر پھینک نہیں دیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ عبدالحق ظفر چشتی ایک بنجر زمین ہے۔ اس کے باوصف کرم کی برکھا برسانے میں کمی نہیں کی۔

پھر بتائیے میں ایسے ماں باپ سے کیوں محبت نہ کروں۔ کیوں پیار نہ کروں کیوں قدم دھو دھو کر نہ پیوں۔ ان کے قدموں کی جنت پہ کیوں لوٹ لوٹ نہ جاؤں۔ ایسے شفیق، ایسے مہربان، ایسی بے لوث محبت کرنے والوں کو چھوڑ کر، غیروں کی طرف دیکھوں تو لعنت ہے مجھ پر

ہاں اگر کوئی ایسا مل جائے۔ جو ان کی عزت و توقیر کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی قدر و منزلت کی پہچان رکھتے ہوئے، ان کے مقام و مرتبہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ان سے بھی زیادہ مہربان ہو، شفیق ہو، کرم نواز ہو اور اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ بھی نہ ہو۔ خاندانی پس منظر بھی نہ ہو۔ جغرافیائی حد بندی بھی نہ ہو۔ لسانی موافقت بھی نہ ہو۔ کچھ بھی نہ ہو۔ کوئی بظاہر تعلق نہ ہو، بالکل غیر ہو اور ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرے۔ فرش زمین سے اٹھا کر، عرش بریں پر لے جانے کے لئے دن رات ایک کر دے۔ میری جسمانی ہی نہیں میری روحانی تربیت کا خیال بھی رکھے۔ میرے ماں باپ کو سمجھائے بھی کہ یہ بچہ جو تمہاری گود میں مالک نے دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا، یہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اس کو کہیں یہودی، نصرانی اور مجوسی نہ بنا دینا۔ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز آئے وہ میرے تمہارے اور اس کے خالق و مالک رب کی عظمت و جلالت کی بلندی کے اعتراف کی آواز آئے۔ دیکھنا پہلے دن ہی اس کی پوری زندگی کا نصاب، اس کے کانوں میں انڈیل دینا، اس کی فلاح و بہبود کا راز اس کو بتا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، ورنہ یہ تمہارا ہی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گا۔

کوئی پوچھے۔ اے عظمتوں کے تاجدار، اے سب خیر خواہوں سے بڑھ کر

خیر خواہ۔ آپ کو اس بچے سے اتنا لگاؤ کیوں ہے۔ آپ کا کیا لگتا ہے تو وہاں سے جواب آتا ہے۔ بھلے آدمی! یہ میرا امتی ہے۔ تم تو صرف اس کے جسم کے باپ ہو۔ میں اس کے جسم اور روح کا بھی روحانی باپ ہوں۔ تمہارا اس سے صرف جسمانی تعلق ہے جب تک اس کا جسم سلامت رہے گا تم اس کا ہر ناز اٹھاؤ گے لیکن جو نہی اس کے جسم سے طائر روح پرواز کر گیا اس کے جسم کی فکر میں، ساری زندگی قربان کرنے والو۔ اس کے رخسار چوم چوم، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والو، اس کو سینے سے چمٹا چمٹا کر اپنی موہوم امیدوں کو پروان چڑھانے والو۔ تم اس کے وجود اس کو ایک دن سے زیادہ اپنے گھر رکھنے کیلئے تیار نہ ہو گے۔ ہو سکتا ہے اس کے وجود سے ہمیں بدبو آنے لگے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ہیولے سے تمہیں خوف آنے لگے اور تم اسے قبر میں دفن کرنے کے لئے مجبور ہو جاؤ۔

لیکن سنو! جب تم اسے منوں مٹی کے نیچے دبا کر گھر لوٹ آؤ گے اور اس کے ساتھ اس کی قبر میں باپ ماں، بھائی، چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی یا دوست ایک رات بھی گزارنے پر آمادہ نہ ہو سکو گے۔ میں تو اس وقت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گا۔ اس کے گناہوں کا اس کی خطاؤں کا اور اس کی تمام کوتاہیوں کا پردہ پوش ہوں گا۔ اس کے لئے رحمت کی بہار بن کر آؤں گا۔

اگر یہ ساری باتیں میں سن پاؤں مجھے ان کی شفقت و محبت بہ نسبت والدین کے کہیں زیادہ نظر آئے۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ماں باپ کی محبت رکھتے ہوئے بھی ان سے زیادہ پیار کروں کہ ان کے احسانات میری ماں اور میرے باپ سے زیادہ ہیں کہ یہی ایمان کی تکمیل کا معیار ہے اور لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَاٰلِدِهِ كَا فَرْمَانِ مِرْے اِيْمَانِ كِي تَكْمِيلِ پْر مِهْر تَصْدِيقِ هے۔

کیسی کیسی نعمتیں امت کے دستر خوان پر
کتنے کتنے وقت کے فاتے غذائے مصطفیٰ

اسی طرح دنیا کے تمام رشتے، ناطے، تعلقات، ضروریات، مجبوریات کو سامنے رکھ کر دیکھ لو، کون کتنا میرے لئے ضروری ہے۔ کس سے میرا کتنا ناطہ ہے۔ کتنا بڑا رشتہ ہے کون شخص کتنی میری مجبوری ہے اور کون ان سب سے زیادہ ضروری ہے اور کس سے ان سب سے زیادہ ناطہ ہے اور کون ان سب سے زیادہ میری مجبوری ہے اس تقابل کے بعد۔ اور یہ تقابل بھی پوری دیانتداری کے ساتھ ہو۔ اور اگر واقعہ کوئی ان سب سے زیادہ میرا خیر خواہ ہو۔ ان سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والا ہو۔ ان سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والا، ان سب سے زیادہ میرا ساتھ نبھانے والا تو پھر واقعہ میرا فرض ہے میری ذمہ داری ہے بلکہ صحیح پوچھو تو نمک حلائی یہی ہے کہ میں بھی ان سب سے زیادہ ان سے پیار کروں۔ ان سب سے زیادہ محبت کروں کہ یہی نکتہ عروج میرے ایمان کی تکمیل کا معیار ہے اور یہیں اسی مقام پر پہنچ کر لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کا فرمان میرے ایمان کے عروج اور تکمیل پر مہر تصدیق، ثبت کرتا ہے۔

اشرف المخلوقات تو بہر صورت، اشرف المخلوقات ہے۔ اسی لئے خالق نے اس کے لئے اہتمام بھی اتنے زیادہ کئے ہیں اس کی ناز برداریاں بھی زیادہ کی ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اس کا خیال بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس کی راہنمائی کے لئے ان کے نصاب زندگی کے لئے خود کتابیں بھیجی ہیں۔ ان کتابوں کو سکھانے والے، پڑھانے والے، ان پر عمل کرانے والے، خود بھیجے، انہی کے لئے جنت بنائی۔ باغات لگوائے۔ نہریں کھدوائیں بے حد و حساب انعامات کے دروازے کھولے، جہنم بنائی۔ اس میں خوفناک و ہیبت ناک سزاؤں کا ذکر کیا۔

اللہ کے لئے اور نہ ماننے والوں کے علیحدہ علیحدہ درجات بنائے۔

لیکن پتھر کنکر روڑ، خاک کے ذرے ان میں سے تو کوئی بھی مکلف نہیں۔

نباتات، ہزار ہا قسموں کے پودے، درخت، پھل پھول، کھیتوں میں لہلہاتے پودے، خود رو پودے اور بوٹیاں ان میں سے بھی کوئی مکلف نہیں۔ ان پر کوئی گرفت نہیں، کسی کو مانیں، کسی کو نہ مانیں، حیوانات بھی غیر مکلف ہیں۔ کسی کو چاہیں نہ چاہیں۔

اس کے باوجود طرفہ تماشا دیکھیں کہ میرے محبوب، تیرے محبوب، میرے رب کریم کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، ایسے محبوب ہیں کہ آپ کنکروں کے بھی محبوب ہیں۔ خاک کے ذروں کے محبوب ہیں مٹی کے تودوں کے محبوب، پہاڑوں کی غاروں کے محبوب ہیں کوہساروں کی چوٹیوں کے محبوب ہیں۔ آپ نباتات کے محبوب ہیں۔ آپ درختوں کے محبوب ہیں۔ درختوں کے پتوں کے محبوب ہیں۔ شاخوں کے، پھولوں، کلیوں کے، خاروں کے محبوب ہیں۔ آپ حیوانوں کے محبوب، درندوں، چرندوں، پرندوں کے محبوب ہیں۔ آپ ہرنیوں کے محبوب ہیں۔ آپ گوہ کے محبوب ہیں چڑیاں آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ ان کے بچے پکڑے ہوئے واپس دلاتے ہیں۔ آپ کی ہرنیاں شکر گزار ہیں کہ شکاری کی قید سے چھڑاتے ہیں۔ بکریاں آپ کی شکر گزار ہیں کہ بانجھ اور باکرہ بکریوں کو آپ دودھ والی بنا دیتے ہیں۔ اونٹنیاں آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان کو مامور من اللہ بنا دیا۔ گدھے اور دراز گوش آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ نے ان بے شعوروں کو اتنا شعور دے دیا کہ انہیں صحابہ کرام کے نام یاد ہو گئے۔ ان کے گھروں، ان کی گلیوں اور ان کے محلوں کے نقشے ازبر ہو گئے۔ اونٹ آپ پر قربان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی گردن ذبح ہونے کے لئے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے مالکوں سے بیگار سے بچا لیا۔ بڑھاپے میں کام کی زیادتی سے بچا لیا دشمن کے ہاتھ کی کنکریاں آپ کی شکر گزار ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اپنا کلمہ ان کو یاد کرا دیا۔ پہاڑ آپ پر قربان ہیں کہ

آپ نے ان سے اپنی محبت کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوکھی لکڑیاں آپ کو اپنا محبوب تسلیم کرتی ہیں کہ آپ نے ان کو اپنے حجرہ پاک کے ساتھ سلا لیا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عقیدتوں کا مرکز بنا دیا اور جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ فرما لیا۔ کھاری کنویں آپ کی محبوبیت کا اعتراف ہی نہیں۔ اقرار بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا تھوک اور لعاب وہن ڈال کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیٹھا بنا دیا۔ مدینہ کی ساری بستی آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اسے مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کی طرح حرم بنا دیا۔ مسجد قبا آپ کی چاہتیں اپنے دل میں سمائے بیٹھی ہے کہ اس میں دو نفل پڑھنے والے کو عمرہ کا ثواب عطا فرما دیا۔ گناہ راستے آپ کے قدموں میں بچھ بچھ جاتے ہیں کہ آپ نے ان راہوں کو دنیا بھر کا مرکز بنا دیا۔ مسجد نبوی شریف کا ذرہ ذرہ سپاس محبت و عقیدت پیش کرتا ہے جس کی زیارت کرنا آپ نے امر کر دیا۔ اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بڑھا دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستان میں محبتوں کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ کہ آپ نے ان کے متعلق اعلان کر دیا کہ ان میں دفن ہونے والوں کی چادر جنت میں انڈیل دی جائے گی۔ خود بیت اللہ، اللہ کی شکر گزاری کے جذبات سے بھرا پڑا ہے کہ آپ نے اسے بت کدہ سے کعبہ اللہ بنا دیا۔ شعب ابی طالب آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اس کے محبوب ہیں کہ آپ کی میزبانی کا شرف پا کر دنیا بھر کی عقیدتوں کا مظہر بن گئی۔ غارِ حرا شکر گزار ہے کہ اس میں خلوت گزینی فرما کر ہمراہِ خلوت نشینی بنا دیا اور اس میں نصابِ انسانیت، اللہ تعالیٰ کے مقدس اور آخری کلام کے نزول کا ابتدائیہ بنا دیا۔ غارِ حرا تک جانے والے راستے اور ان راستوں میں پڑے پتھروں کے آپ محبوب ہیں کہ ان راہوں کے راستے دنیا بھولنے سے معذور ہے۔

جمالِ مصطفیٰ سے منسلک ہوتی ہیں جب آنکھیں

فرشتے میری آنکھوں کی زیارت کرنے آتے ہیں

محبت کا تیری میں نے جو دل میں گھر بنایا تھا
 چراغ، اس کی منڈیروں پر اندھیرے خود جلانے ہیں
 عقل، نفس اور عشق، تینوں عطاء الہی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کسی نہیں۔
 سب وہی ہیں۔ اپنی کوشش سے، تگ و دو سے، ہمت سے، دولت سے، اثر و رسوخ
 سے، جاہ و چشم، سے یہ حاصل نہیں کر سکتا نہ کسی بازار سے ملتی ہیں اور نہ ہی کسی
 دکان سے ملتی ہیں۔ تینوں عطائی اور وہی ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک کے خواص
 مختلف ہیں۔

عقل، فضائل دیکھتی ہے۔ یا نقائص دیکھتی ہے۔ فضائل دیکھے گی تو خوش ہو
 گی، نقائص دیکھے گی تو عیب جوئی کرے گی بلکہ عیب جوئی، نکتہ چینی زیادہ کرے گی
 اور نفرت کرے گی۔

نفس، صرف نفع دیکھتا ہے۔ مفاد دیکھتا ہے ضرورت پوری ہوئی تو گوارا،
 نہیں۔ تو کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔

ہو گئے اسی کے ہم نوا

جس کسی سے بھی نوالہ مل گیا

عشق، محبت کی انتہا کا نام ہے جس کو پسند کیا، بس اسی کے ہو گئے۔ جس کو
 پسند کیا، وہ پسندیدہ ہو یا نہ ہو۔ دنیا اس میں ہزار عیب نکالے۔ اسے اس سے بحث
 نہیں۔ اس نے کسی کو پسند کر لیا بس اسی کا ہو گیا۔

اس میں کیا ہے کیا نہیں، اس سے مجھ کو کیا غرض

بس مجھ کو وہ اچھا لگا میں نے سوچا کچھ نہیں،

اس کی بابت سوچنا اور سوچنا بھی رات دن

پھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں

سنا ہے کسی نے مجھ سے کہا ارے مجھون! جھلے آدمی! تو کس لیلیٰ پر عاشق

ہے کچھ دیکھ کر تو عاشق ہوتا۔ نہ منہ نہ متھا، نہ رنگ نہ ڈھنگ، تو مجنوں نے کہا تیرے پاس لیلیٰ کو دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں۔ تو نے اگر لیلیٰ کو دیکھنا ہے تو میری آنکھ، میری نظر سے دیکھ۔ میری نظر میں، دنیا میں اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح لیلیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تو وہی لیلیٰ ہے جس پر قیس عامری فدا ہو چکا ہے اس نے کہا ہاں تو وہ کہنے لگا تو اتنی حسین تو نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے۔ اس نے کہا چپ خبر دار آگے نہ بولنا تو دیکھنے میں بھی ہوش میں ہے اور عشق و محبت کی دنیا میں یہ ہوش کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ نہ آرکانہ پارکا، تو اس دنیا کی ہوش سے منہ پھیر اور مجھے دیکھنا ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھ، پھر شاید تمہیں دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی حسین نظر نہیں آئے گا۔

دروغ برگردن راوی سنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رضاعی بھائی قیس عامری سے پوچھا ارے بھائی قیس! آج کل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابا جان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مسئلہ خلافت عروج پر ہے ذرا سوچ کے بتا کہ ان دونوں میں سے خلافت کا صحیح مستحق کون ہے۔ تو قیس نے کہا میری نظر میں تو ان دونوں میں سے مجھے کوئی مستحق خلافت نظر نہیں آتا۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا اگر دونوں میں سے کوئی صحیح مستحق خلافت نہیں تو پھر کون ہے۔ تو قیس نے کہا میری نظر میں تو صرف لیلیٰ ہی مستحق خلافت ہے۔

ایسی نقش ہوئی دل وچہ تیری تصویر

ہن نظراں چہ سوہنا کوئی جچدا ہی نہیں

عشق کے اس انوکھے باب کا رنگ انوکھا ہے اگر کوئی عام شخص کو کوئی عام سی عورت کوئی عام سی چیز پسند آجائے تو انسان اسی پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن اگر پسندیدہ شخصیت ہو ہی وہ جس کو محبوبیت واقعہً زیب دیتی ہو جس جسا۔

کوئی نہ ہو۔ نہ اس جیسی کسی کی صورت ہونہ سیرت، نہ اس جیسی کسی کی رفتار ہونہ گفتار اس کا بولنا قانونِ الہی، اس کی حرکت پابند قانونِ الہی، جانور اس پر خدا ہوں پتھر اس پر قربان ہوں حیوان اسی پہ نثار ہوں، انسان اس کے قدم چومے، فرشتے اس کی اور اس کے غلاموں کی چاکری کرتے پھریں، راہیں اس کے لئے ہموار ہو جائیں۔ سنگلاخ چٹانیں جس کے لئے نرم و گداز ہو جائیں کنکر روڑ خاک کے ذرے جس کا کلمہ یاد کر لیں۔ چاند اور سورج اس کے اشاروں پر نظام ہستی تبدیل کر دینے پر مجبور ہو جائیں۔ کھارے کنویں جس کی خاطر اپنا کھارا پن ہی کشید کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکال باہر پھینکیں۔ ٹوٹی ٹانگیں اشارہ پاتے ہی جڑ جائیں۔ انگلیاں پنجاب یعنی پنج آبِ رحمت بن جائیں۔ عرش الہی جس کے تلوؤں کو بوسے دینے کو ترسے، ان گنت کھربوں، پدموں اور سنکھوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ستارے، جس کے احاطہ علم میں آ کر محدود ہو جائیں اور محدود ہو جائیں جس نے ایک بار دیکھا۔ وہ بار بار دیکھنے کو ترسے۔

تیری پہلی نظر کا وار توبہ

ابھی تک دل ، دعائیں دے رہا ہے

جس کی شان میں ازل سے قصیدے لکھے جا رہے ہوں۔ توریت ہو، زبور ہو یا انجیل، جس کے اوصاف حمیدہ کے تذکرے سے مزین ہو۔ انبیاء اس کی صفتیں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ اُن سے عہد و پیمان باندھیں کہ اگر ہماری عین شہرہ نبوت کے جو بن کے عالم میں، تشریف لے آئیں تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خود بھی اور ہماری امتیں بھی اسی کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس سے تعاون کریں گے اس کے مشن میں اس کی مدد کریں گے۔

خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں کیں

ذبح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کیں

کَلِیْمِ اللّٰهِ کَا دَل رُوْشَن هُوَا جَس ضُو فِشَانِی سَے
 وَه جَس کِی ضُو بَهْرُکِی جُوَاب لِن تَرَانِی سَے
 وَه جَس کَے نَام سَے دَاوُد نَے نَعْمَ سَرَانِی کِی
 وَه جَس کِی یَاَد مِیْن شَاهِ سَلِیْمَاں نَے گَدَائِی کِی
 دَل یِجْی مِیْن اَرْمَاں رَه گَئے جَس کِی زِیَارَت کَے
 لَب عِیْسِی پَہ آئے وَعِظ جَس کِی شَانِ رَحْمَت کَے

وہ محبوب اگر فرمائے کہ لَا یُؤْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ
 وَاٰلِدِهِ وَوَالِدِہِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنِ کہ تم میں کوئی شخص بھی ایمان دار نہیں ہو سکتا
 جب تک میں اسے اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں
 سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔

تو بتاؤ، کسی کافر کا جی کرے گا ایسے محبوب کو چھوڑ کر، ایسے محبوبوں سے محبت کی
 پیٹنگیں بڑھانے لگے جو قدر دان بھی نہ ہوں۔ جو بے وفا بھی ہوں۔ روتا چھوڑ
 جانے والے ہوں۔ زندگی بھر کی کمائی جس کے قدموں میں ڈھیر ہو اور وہ ٹھوکر مار
 کر چھوڑ کر چلے جائیں۔

ایک خوشبو سے مہک اٹھتی ہے دنیا ساری

جب تیرا نام میرے لب سے ادا ہوتا ہے

اسی محبوب سے محبت کا محبت بھرا ذکر، انسانوں سے آگے بڑھا جمادات و
 نباتات و حیوانات تک پہنچا اور یہی ہمارا موضوع ہے۔

مشکیزہ اور محبتِ راحتِ جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کھوٹی تھی
 جس سے پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ جناب جان دو عالم، راحت قلب حزیں صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ شاید آپ کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور لٹکے ہوئے مشکیزے سے منہ لگا کر آپ نے پانی نوش فرمایا۔ میں نے قینچی لی اور جہاں آپ نے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا تھا۔ میں نے مشکیزے کی اتنی جگہ کاٹ لی تاکہ وہ جگہ جہاں آپ کے لب مبارک لگے ہوئے تھے۔ اتنے سے مشکیزے کو تبر کا اپنے پاس رکھ لوں۔ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ فَقَطَعْتُ فَمُ الْقَرِيَّةِ تَتَّبَعًا مَوْضِعًا بَرَكَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، یعنی میں نے مشکیزے کے اتنے حصہ کو کاٹ کر اپنے پاس برکت حاصل کرنے کے لئے محفوظ کر لیا۔ (ضیاء القرآن جلد ۵ ص ۵۵۹ سبل الہدیٰ جلد ۷ ص ۳۶۴)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر دربار رسالت کی ہمیشہ صاحبہ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے گھر کا اسی طرح کا ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں قدم رنجہ فرمایا اور کھونٹی سے لٹکے ہوئے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا۔ میں نے اس جگہ سے اتنا مشکیزہ کاٹ کر رکھ لیا جس جگہ آپ نے اپنا منہ مبارک لگایا تھا۔ وہ کاٹا ہوا مشکیزہ تبرک و برکات حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر میں رکھ لیا۔

محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر، کشکول سوال لے کر آؤ ذرا محترمہ ام سلیم صاحبہ اور محترمہ کبشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھیں۔ چمڑے کے ان ٹکڑوں میں کیا بھر گیا تھا۔ یا ان ٹکڑوں سے پوچھیں تمہاری اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے کہ دنیا کے دانشور تمہیں پوری مشک سے کاٹ کر اپنے پاس رکھتے رہے۔

حقیقت یہ ہے کہ محبت جو انسان کو محبوب کی چاہت میں اندھا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بظاہر ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن پوری زندگی کا سرمایہ اور اخروی زندگی کی نجات کا سرمایہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو وہ کر گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ

سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے
سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے

لبہائے محبوب کے بوسے لینے والا پیالہ

جس کے قدموں کی دھول اتنی بلند مرتبہ والی ہو کہ وحدہ لا شریک اللہ الصمد کی شان والا بے نیاز معبودِ حقیقی قسمیں کھائے۔ ان کے پنچے کی مٹھی کی طاقت کا سوال نہ کر جس کی ایک اشارہ انگشت سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں جس کے اشارہ ابرو سے نظم کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اس کے لبہائے مبارک کی قدر، وہ جانیں جن کے سامنے ان لبوں سے نکلے ہوئے لفظ سپارے، صفحے اور سورتیں بن جائیں اگر ان مبارک لبوں سے کسی چیز کو لمس نصیب ہو جائے یا کسی چیز کی ان سے نسبت ہو جائے۔ اس کا مقام و مرتبہ دیکھنا مقصود ہو تو آؤ۔ ایک عاشق کا اندازِ محبت دیکھ لیں۔

حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو حضور سر ایا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو خادمِ خاص تھے۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد دیر تک آپ کے پاس ایک مٹی کا پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور موٹا سا تھا۔ اس کو آپ نے لوہے کی تاروں سے جوڑا ہوا تھا اور سونے چاندی کی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور اسی میں آپ پانی وغیرہ نوشِ جان فرماتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس پیالے کو دیکھا تو فرمایا: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَهُ لِعِنِّي جَوْزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِيَّةً جَسَدِيَّةً (ضیاء النبی جلد ۵ ص ۵۵۸)

حضرت محمد بن اسماعیل رضی اللہ عنہ بھی شاید اسی پیالے کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوا۔

انہوں نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ دکھایا اور فرمایا یہ وہ مبارک پیالہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی وغیرہ پیتے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ ہمارے پیالوں میں پانی کیوں نہیں پیتے۔ جب کہ ہمارے پیالے نازک ہلکے اور خوبصورت بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ پیالہ بطور تبرک، برکت حاصل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیالہ میں اکثر پانی وغیرہ ڈال کر نوش فرمایا کرتے ہیں۔ یہ پیالہ القمر کے نام سے موسوم تھا۔ (ضیاء القرآن جلد ۵ ص ۵۵۹)

مشکیزہ اور پانی کی حضور سے محبت

مشکیزہ کی بات چلی تو مشکیزہ نے مجھے کہا میری بات تو مکمل کر لو۔ پھر آگے چلنا جن کے ذکر میں اتنی حلاوت ہے ان کے حضور میں حاضری کی کیا کیفیت ہو گی۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ایک سفر میں تھے کہ آپ کے غلاموں نے پانی نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ایک اور ساتھی کو ارشاد فرمایا تم اس طرف کو جاؤ۔ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے دو اونٹوں پر پانی کے بھرے دو مشکیزے ہیں۔ اس عورت کو لے آؤ۔

دونوں حضرات گئے۔ بتائی گئی جگہ پر پہنچے۔ وہ عورت مل گئی۔ دونوں حضرات نے اس عورت سے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں وہ کہنے لگی کون اللہ کا رسول، وہ جو اپنے باپ دادا کے دین سے نکل گیا ہے۔

فرمایا ہاں تھوڑی سی جرح قدح کے ساتھ، وہ عورت کو ساتھ لے آئے۔ نبی

رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مشکیزے اتروا لئے۔ اور دونوں کے منہ کھول کر تھوڑا سا پانی ایک برتن میں لیا۔ اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر مشکیزوں میں ڈال دیا۔

پھر آپ نے مشکیزوں کے منہ کھول دیئے اور صحابہ سے کہا سب لوگ اپنے اپنے برتن پانی سے بھر لو۔ اب وہ عورت پاس کھڑی حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگ اپنے اپنے برتن پانی سے بھر رہے ہیں اور مشکیزوں سے پانی کم نہیں ہو رہا بلکہ یوں بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کسی نے ان میں ہوا بھر دی ہو۔

جب سب صحابہ کرام نے پانی بھر لیا تو آپ نے مشکیزے واپس کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ اے عورت! ہم نے آپ کے مشکیزوں سے پانی نہیں بلکہ ہمیں یہ پانی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا اس عورت کے لئے کچھ کھانے کی چیزیں اکٹھی کرو۔ ایک کپڑا بچھا دیا اور ہر صحابی کچھ نہ کچھ اس میں ڈال رہا ہے حتیٰ کہ وہ کپڑا بھر گیا۔ آپ نے اس عورت کو وہ عطیات دیتے ہوئے شکر یہ ادا کیا۔

وہ عورت، جب اپنے خاندان میں پہنچی، تو گھر والوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عورت نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ شخص یا تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یا وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اس کے خاندان نے یہ بات سنی تو وہ سارا قبیلہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دامن اسلام میں داخل ہو کر صحابیت کے بلند مرتبہ کو حاصل کر لیا۔

(بخاری شریف صفحہ ۴۹ جلد ۱ خصائص کبریٰ صفحہ ۴۳ جلد ۲ مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۳۳)

جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکیزے میں پڑھ کر پانی ڈالا ہوگا تو پانی اور مشکیزہ دونوں سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ پانی اور

مشکیزہ دونوں حکم کے غلام تھے بے شک وہ مشرکوں کے ہاتھ میں تھے لیکن جو نبی
 محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع
 ملا۔ انہوں نے حق ادا کر دیا حتیٰ کہ جن مشرکین کے ہاتھوں میں زندگی گزاری تھی
 ان کے جنتی اور صحابی ہونے کے راستے ہموار کر دیئے۔

پتھروں کی حضور سے محبت اور آپ کی اطاعت

خیر القرون کے ابتدائی دنوں کے لمحات حسیں کی وادیوں میں انسانوں اور
 جنوں کے حصار سے باہر نکل کر دیکھا تو ہر کنکر ہر ذرہ، ہر پتھر، ہر پہاڑ، بلکہ ہر بت
 کا مجسمہ تھے مخاطب ہو کر محبت حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار
 ہو کر مجھ سے کہہ رہا تھا۔ اے توصیف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زباں کھولنے
 والے نوکِ قلم کو تابدار کرنے والے، ہم سب اپنی اپنی کہانی سنانے کو بے چین و
 بے قرار ہیں۔ لوگ ہمیں بے حس کہہ کر گزر جاتے ہیں بے حس کہیں کے بے خبر ہی
 سارے زمانے کو بے خبر جانتے ہیں۔ وہ تو سارے زمانوں کی من اللہ خبر رکھنے
 والوں کو بھی بے خبر ہی کہتے ہیں۔ بے خبر کہیں کے۔ افسوس تو ہمیں اس بات کا ہے
 کہ باخبر کو باخبر سمجھنے والے بھی ہمیں بے حس کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسرتوں
 سے سرشار بھی ہوتے ہیں۔ ہم محبت کرنا جانتے ہیں۔ ہم نفرت بھی کرنا جانتے
 ہیں۔ ہم محبت میں رقص کرنا بھی جانتے ہیں ہم خوفِ خدائے ذوالجلال کے جلال
 سے ڈر کر رونا بھی جانتے ہیں۔ ہم ہجر و فراق میں تڑپنا بھی جانتے ہیں۔ ہم خوفِ
 الہی سے ریزہ ریزہ بھی ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہیں تو شبنم کی طرح قطرہ قطرہ نہیں
 بلکہ چشمے جاری کرتے ہیں۔ نہریں بہاتے ہیں ہم آنے والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر
 ذکرِ ذکر الہی ہو تو بڑھ کر قدم چوم لیتے ہیں اور اگر غافل ذکر الہی ہو تو ہمارا جلال
 دیکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی شاید حضور سراپا نور و ظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 زبانِ اقدس سے سنا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ

دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ اے فلاں! کیا آج کوئی تیرے ہاں سے ایسا شخص گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔

تو گویا ہم ذاکر ذکر خالق ارض و سماء اور ذاکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاں آنے سے خوشیوں اور مسرتوں کی کتاب کا سرورق بن جاتے ہیں اور غافلوں کے آنے کی نحوست سے کبیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں اور اگر ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اسے اپنے اندر دھنسا بھی لیتے ہیں۔

آپ عاد و ثمود کی کہانی پڑھ کر دیکھ لیں۔ کسی ایرے وغیرے اور نام نہاد دانشور یا مؤرخ کی لکھی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ خود خالق کائنات ارض و سماء کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں۔ باشندگان رس، باشندگان مدین اور اصحاب لوط کے واقعات کے اوراق پلٹ کر دیکھ لو۔ جب ان نافرمانوں پر ہمیں برسنے کا حکم ہوا۔ تو طوفانِ باد و باراں میں ہم بھی شامل تھے۔ غصے اور جلال میں حضرت انسان کو اپنے بیگانے کا ہوش نہیں رہتا لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں۔ ہم اس طیش اور جلال کے عالم میں بھی باہوش رہتے ہیں اور اپنے اور بیگانے کو پہچانتے ہیں جو بھی ہماری پارٹی کا بندہ ہو یعنی ہمارے خالق و مالک کا فرمانبردار بندہ ہو اس میں اور دوسرے غیر کے بندے میں ہم امتیاز کرنا جانتے ہیں۔ غیروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا اور جو ہمارا تھا۔ ہمارے مالک کے اطاعت گزاروں میں تھا۔ اسے سنگ باری اور طوفانِ باد و باراں اور طوفان و سیلاب میں سے ایسے نکال لیا۔ جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔

پھر بھی آپ ہمیں بے حس کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ ہمارے خالق و مالک رب ذوالکرم والاحسان کے واحد نمائندہ دور حاضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جب عید کی نماز ادا کرنے جاؤ تو کوشش کرو جاتے ہوئے اور راستہ اختیار کرو اور واپس گھر کو لوٹتے ہوئے اور راستہ اختیار کرو۔ یہ کیوں فرمایا

ہے یہ صرف اس لئے ارشاد فرمایا کہ جب تم آتے جاتے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آؤ اور جاؤ گے تو ان راستوں کے پتھر کنکر ذرے گلیاں اور بازار تمہاری تکبیر کے گواہ ہوں گے اور چشم دید گواہ ہوں گے اور اپنے مالک کے حضور کل قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ یا الہی یہ شخص واقعی ہماری پارٹی کا بندہ ہے۔ یہ حزب اللہ میں شامل ہیں اسے کچھ نہ کہا جائے۔

کیا یہ چشم دید گواہی کوئی بے حس بھی دے سکتا ہے۔ اگر اس کے باوصف آپ ہمیں بے حس ہی کہتے ہیں۔ تو ہمارے خیال میں یہ آپ ہی کی اپنی بے حسی کی دلیل ہے۔

اب ہم آپ کو اپنے چند ایسے واقعات سناتے ہیں جن سے آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ ہمیں نہ صرف اپنی حیثیت کا احساس ہے بلکہ ہمیں انسان کو انسانیت کا احساس دلانے کا بھی احساس ہے۔ اگرچہ ہم پر صدیوں تک کے طویل عرصے میں خاموشی کا پہرہ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم کس سے بات کرتے، وہ لوگ جو اتنے اندھے، بہرے ہو چکے تھے جنہیں اتنا بھی احساس نہ تھا کہ ساری کائنات تو ہماری خدمت گزاری کے لئے بنائی گئی ہے اور ہم پتھر کے اپنے ہاتھوں بنائے صنموں کے حضور سر خمیدہ ہو چکے ہیں اور اس حماقت میں ایسی ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔

ایک غریب کی کہانی سن لیں۔ پھر ہماری انسانیت کی تذلیل پر تڑپ اٹھنے کی کہانیاں ہم آپ کو سنائیں گے۔

وہ ایک سفر پر تھے۔ سفر بھی طویل اور تھکا دینے والا تھا کچھ مسائل بھی سفر میں کھڑے ہو گئے اور کوئی صنم بھی اپنے ساتھ سفر میں نہ لے جاسکے جب انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو فطری جبلت ہے کہ وہ اس پریشانی سے نجات کے لئے کسی سے منت سماجت کرے جو اس کے غم کا مداوا کر سکے۔ اس کے آگے ہاتھ

جوڑے، اس کے آگے سر کو جھکا دے تاکہ وہ اس کی تکلیف میں مدد کر سکے۔
ان دیکھے خدا کا، ان کے ہاں کوئی تصور بھی نہ تھا۔ اپنی گٹھڑی دیکھی تو اس
میں پتھر کا بت، لکڑی کا بت یا کسی اور دھات کا بت بھی نہ تھا۔ جبلت مجبور کرتی
ہے کہ دکھ کے مداوے کے لئے کوئی ہو اور وہ ہے بھی نہیں۔

اب ان کی ذہنی افلاس کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی حماقت کے
لئے آمادہ ہوئے انہیں اسی دوران پیشاب کی حاجت ہوئی۔ پیشاب سے فارغ
ہوئے تو دیکھا تھوڑی سی مٹی گیلی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسی موقع کو غنیمت جانا، وہ
گیلی مٹی لی، اس کا ایک بت بنایا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔

وہ انسان، جو مسجود و ملائک تھا جو مکرم و محترم تھا اشرف مخلوقات کے تاج کا
سزاوار تھا۔ وہ بد قسمتی سے پیشاب کی ناپاک گیلی مٹی کے بت کے سامنے سرنگوں
ہو گیا۔ ایسے بد قسمت انسان، ایسے ذہنی عبادت زدہ انسان، کو کوئی جھنجھوڑے بھی تو
کیا جھنجھوڑے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس گندگی سے
نکلنے کے لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ابر رحمت برسا یا۔ جب
ہمیں بھی کوئی امید کی کرن نظر آئی تو ہم نے بھی بیداری احساس کا ثبوت دیا۔

سواع بت کی کہانی

ہم میں ایک پتھر کا بت تھا اس کا نام سواع تھا۔ سواع نے یہ کہانی سنائی کہ
عقل کے اندھے، کمال دانشوری کے دعویدار، مجھے اپنے قبیلے کا بہت بڑا حاجت روا
سمجھتے تھے بلکہ اپنا سب کچھ مجھی کو سمجھتے تھے۔ نذریں، نیازیں، منتیں، سب کچھ دن
رات میرے حضور پیش کیا جاتا رہا۔

ایک صاحب تھے، راشد بن عبد ربہ، انہیں بنو ظفر نے کچھ تحائف دیئے اور
کہا یہ تحائف ہماری طرف سے ”سواع“ کی نذر کر دینا۔ وہ صبح تک میرے پاس تو

نہ پہنچ سکے البتہ ایک اور بت خانہ تھا جس میں ”ضمار“ نامی بت ہمارا بھائی پوجا جاتا تھا۔ جب راشد اس کے ہاں پہنچا۔ وہ بھی صبح نور کے اجالے کے طلوع سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ”بنو عبدالمطلب سے ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ زنا اور سود کو حرام قرار دیں گے۔ وہ بتوں کے لئے جانوروں کو ذبح کرنا حرام فرمائیں گے۔ آسمان کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اب شیاطین کو انکارے مارے جائیں گے۔“

ابھی ضمار کی بات ختم ہوئی تھی کہ ایک دوسرا ہمارا بھائی بت پکار پکار کر کہنے لگا ”ضمار“ کی پوجا کو ترک کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کی بہت پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ وہ نماز ادا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے، روزہ رکھنے، نیکی کرنے اور صلہ رحمی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر تیسرے بت کے پیٹ سے آواز آنے لگی۔

إِنَّ الَّذِي وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهُدَىٰ

بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدَىٰ

یعنی وہ ہستی عظیم جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد نبوت اور ہدایت کے وارث ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق قریش سے ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ ایسے نبی محترم ہیں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں بیان فرماتے ہیں۔

راشد یہ باتیں، بتوں کی زبان سے، جنہوں نے پہلے کبھی زبان ہی نہ کھولی تھی سن کر حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ قدم رنجہ فرما چکے تھے۔ راشد میرے پاس آئے قدرت نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے میری بے بسی، میری بے چارگی دکھانے کے لئے ایک واقعہ رونما کر دیا۔ دو سانپ مجھ پر سوار ہیں۔ مجھے چاٹ رہے ہیں اور جو تحائف میرے آگے پڑے ہوئے تھے ان کو ہڑپ کر

رہے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں سانپوں نے مل کر میرے منہ پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔

راشد کو یہ منظر ہوش میں لانے کے لئے کافی تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا۔ ہمارا عظیم تربت ”سواع“ اتنا بے بس ہے کہ دو سانپوں کو مار نہیں سکا۔ مارنا تو بڑی بات ہے اپنے منہ پر کئے جانے پیشاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے یہ شعر نکلا

اَرَبُّ يُولُ الثَّعْلَبَانِ بِرَأْسِهِ
لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

کیا وہ بھی رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر دو سانپ پیشاب کر رہے ہوں جس پر سانپوں نے پیشاب کر دیا۔ وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔

راشد کے دل کی کھڑکی کھل گئی یہی ہمارا مقصد تھا۔ وہ میرے ہاں سے مجھ سے نفرت کرتے ہوئے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا اور شاہ شاہان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر آپ کے دست اقدس پر بیعت سے سرفراز ہوا پھر وہ صرف راشد نہیں تھا۔ وہ حضرت محترم سیدنا راشد رضی اللہ عنہ ہو گئے۔

مجھے بعد میں خبر ملی۔ سیدنا راشد رضی اللہ عنہ نے شہر یار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ”رہاٹ“ کے مقام کی جاگیر طلب کی۔ وہ ذات جن کے ہاتھ میں مالک نے تمام کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہوں۔ ان کا ان کو ”رہاٹ“ کی جاگیر بخشا کون سا مشکل تھا۔ آپ نے ان کو وہ جاگیر بخش دی اور ساتھ یہ کرم فرمایا کہ ایک برتن منگایا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور حضرت راشد بن عبد ربہ سے فرمایا یہ پانی اس عطا کردہ جاگیر کی سب سے اونچی والی جگہ پر ڈال دینا اور اپنی ضرورت سے زیادہ مال کی ہوس کر کے مال کو لوگوں سے روک نہ لینا۔

انہوں نے ایسے ہی کیا جب وہ وہاں پہنچے تو آپ کا عطا کردہ پانی، زمین کی ایک اونچی سی جگہ پر ڈال دیا۔ پتہ نہیں اس تھوک آلود پانی نے اس اونچی زمین کو اپنی زبان میں کیا کہا یا زمین کی گہرائی میں کہیں چھپے ہوئے پانی کو کیسے آواز دی اور نبی مکرم کا کیا پیغام سنایا یہ راز کی باتیں ہیں وہ جانیں یا نبی پاک جانیں۔

لوگوں نے دیکھا، اسی جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت راشد نے اپنی جاگیر ”رباط“ میں کھجوروں کے باغات لگائے اور اسی پانی سے ان باغات کو سیراب کرتے تھے۔ حضرت راشد کو ان باغات سے بہت نفع ہوا۔

لوگ اس پانی کو ”ماء الرسول“ کے نام سے یاد کرتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ پانی، یہ پانی صرف پینے اور زمین کو سیراب کرنے ہی کے لئے نہ تھا بلکہ لوگ اس چشمے کو پیتے اور اس سے غسل کرتے تو بیماریوں سے شفا بھی پاتے۔

ٹھاٹھیں مار رہے ہیں مجھ میں عشق کے سات سمندر
جب سے مجھ پر تو نے رحمت کی اک بوند انڈیلی
صلی اللہ علیہ وآلہ بقدر حُسْنِهِ و جِمالِهِ

ضمار بت کی کہانی

میری کہانی بھی ”سواع“ سے مختلف نہیں۔ میں بھی اندر ہی اندر کڑھتا رہتا تھا کہ یا مولا! یہ کیسے انسان ہیں جنہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ انسان ہو کر پتھر کے ایک بے جان بت کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ان کی اصلاح کی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آیا اور اس نے راہبر انسانیت کو مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اپنی جان چھڑانے کا موقع مل گیا۔ ہم ڈرتے تھے کہ کل قیامت میں جہنم میں پھینکے جانے والے انسانوں کے ساتھ ہمیں بھی اس کا ایندھن نہ بنا دیا جائے کہ ارشادِ خداوندی ہے:

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

کہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔

مجھے جس شخص نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اس کا نام تھا ”مرداس“ تھا وہ میری پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، کبھی سر جھکاتا، کبھی گھٹنے ٹیکتا، کبھی کبھی تو مجھے اس کی ایسی حرکتوں پر ہنسی آ جاتی تھی جب اس بدنصیب کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے عباس کو اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ ضمار کے پاس جایا کرو۔ اس کی عبادت کیا کرو وہ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ احمق کہیں کا بھلا جو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ کسی کو کیا نفع دے سکتا ہے۔

خیر! اب اس کا بیٹا عباس میرے پاس آنے جانے لگا۔ ان دنوں ہمارے کریم مالک و مختار کے محبوب ساری کائنات کے محبوب، اور ہمارے بھی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔

ایک دن عباس بن مرواس میرے پاس آیا۔ اس نے پورے معبد میں جھاڑو دیا۔ صاف ستھرا کیا میرے سر کو چھوا آداب بجالایا تو میں نے موقع غنیمت جان کر بولنا شروع کر دیا۔ جی ہاں ایک پتھر کا بت بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے لگا۔ آپ بھی میرے اشعار پڑھ لیجئے۔

أُودِي ضَمَارٌ وَعَاشَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ	قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا
بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِي	إِنَّ الَّذِي وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهُدَى
قَبْلَ الْكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ	أُودِي ضَمَارٌ وَكَانَ يُعْبَدُ مَدَّةً

یعنی اے عباس بن مرداس! ان تمام قبائل سے کہہ دو جن کا تعلق سلیم سے ہے کہ ضمار ہلاک ہو گیا اور اہل مسجد نے زندگی پالی۔ بے شک وہ ذات جو حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت اور ہدایت کی وارث بنی۔ اس کا تعلق قریش سے ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ضمائر ہلاک ہو گیا حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہونے سے پہلے اس کی ایک طویل عرصہ تک عبادت کی جاتی رہی ہے۔

عباس کی قسمت جاگی اور میری کسک مٹی، اور دل کی حسرت پوری ہوئی کہ عباس کی میرے ان اشعار سے آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اسی وقت اپنے قبیلہ بنو حارثہ کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنایا سمجھ دار آدمی تھا اور معتبر بھی سارے قبیلے نے اس کی بات مانی اور سارا قبیلہ اس کے ساتھ بارگاہ نبوی میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ جب سرکار نے عباس کو دیکھا تو تبسم فرمایا ان کے تبسم کی اس ادا پر ہزار جان تصدق، آپ نے ارشاد فرمایا، عباس! ذرا اپنا واقعہ بیان کرو جس واقعہ کی بناء پر ایمان کی توفیق نصیب ہوئی تو عباس نے میرے متعلق سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا عباس! تو نے سچ کہا ہے اس کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر صحابیت کے مقام و مرتبہ پر فائز ہوا۔

اک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے
اک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی
اب کوئی بچائے نہ بچائے مجھے ناصر
اک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی

اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما

(حجۃ اللہ العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ۱ ص 316)

بادر بت کی کہانی

سواغ، ضمائر کی طرح میں بھی بت خانے میں بھگوان بنا بیٹھا تھا۔ مازن بن القصر مجھے پوجتا، چومتا، چاٹتا نذرانے پیش کرتا، میرے حضور قربانیاں پیش کرتا،

اپنی ہر تکلیف، دکھ اور پریشانی میرے سامنے پیش کرتا۔ گڑگڑاتا، خدا کی شان، انسان ہو کر مجھ پتھر کے آگے سر جھکاتا، چاہئے تو یہ تھا کہ وہ شرم سے ڈوب مر جاتا لیکن اس کی عقل کا شعور کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ اسے تو احساسِ محرومی بھی نہیں تھا البتہ الثا میں اپنے مخدوم کو اپنے حضور جھکتا ہوا دیکھتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاتا۔

بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے

گلوں کے داغ دھونے کو سحاب آیا ہی کرتا ہے

پرانے ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی

تو گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے

بس اس کے کفر و شرک کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ ضلالت و گمراہی کے

اندھیرے چھٹنے لگے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت آ گیا۔

ہمیں محسوس ہو گیا اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے، دکھ سے، کرب سے، ان

انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے عرض کریں تو ہماری سنی جائے گی۔

بس ایک دن مازن بن القصر میرے پاس ایک ذبیحہ لے کر آیا۔ میں یہ بتانا

بھول گیا کہ میرا مسکن ”عمان“ میں تھا۔ خیر جب وہ ذبیحہ لے کر آیا اور اس نے

اسے مجھے حضور پیش کیا تو میں نے بڑی فصیح و بلیغ عربی میں چند اشعار پڑھے

جنہیں سن کر اس کی تقدیر بدل گئی۔ یہی میرا مقصد تھا آپ بھی وہ اشعار پڑھ لیجئے

اور جھوم جائیے۔

يَا مَآذِنُ اسْمِعْ تَسْرُ
ظُهُورَ خَيْرِ بَشَرٍ

یعنی اے مازن! سن! تم خوش ہو جاؤ کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

ظہور ہو چکا ہے۔

بُعِثَ نَبِيٌّ مِنْ مَضَرَ
يُدَيِّنُ دِينَ اللَّهِ بِرِ

قبیلہ مضر سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے وہ لوگوں کو اللہ

تعالیٰ کے پاکیزہ دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔

فَدَعُ نَحِيَّتًا مِنْ حَجَرٍ تَسْلَمُ مِنْ حَرِّ سَقَرٍ

پتھر کے بتوں کو چھوڑو۔ جہنم کی گرمی اور آگ سے بچ جاؤ گے۔

مازن بن القصر پہلے تو بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بت جو گونگا بہرا اور اندھا ہے یہ کیسے بولنے لگا ہے۔ شاید اسے خبر نہیں تھی کہ گونگوں، بہروں اور اندھوں کو قوت گویائی قوت بصارت اور قوت سماعت بانٹنے والا آ گیا ہے۔ اسی کے صدقے مجھے گویائی ملی تھی۔ میں انہی کا ادنیٰ کارکن اور سپاہی بن کر ان کی صفت و ثناء بھی کر رہا تھا اور پتھر کا بت ہو کر ان کے مشن کی تبلیغ بھی کر رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا آواز دی اور کہا۔

أَقْبِلْ إِلَيَّ أَقْبِلْ مُسْتَمِعًا لَا تَجْهَلْ هَذَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ جَاءَ بِحَقِّ مُنْزَلٍ

ادھر میری طرف آؤ، آؤ آؤ غور سے سنو اور جاہل نہ بنو۔ یہ نبی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مرسل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سچا کلام لے کر تشریف لائے ہیں۔

قدرت نے میری تدبیر کا سبب بنایا اور مازن کی تقدیر بدلنے کا سامان پیدا کیا۔ ابھی مازن اسی کیفیت میں تھا کہ ایک مسافر ادھر سے گزرا۔ وہ مازن کے پاس ٹھہرا۔ اس نے مسافر سے پوچھا کوئی انوکھی یا کوئی نئی خبر تو نے سنی ہے۔ اس نے کہا ہاں! حجاز مقدس میں ایک ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اس کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت پر لبیک کہو۔

مازن نے یہ بات سنی اور میرے پاس آیا اور مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ مجھے میرا ٹکڑے ہونا ہی میرا ٹوٹ پھوٹ جانا ہی دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا گیا۔ الحمد

للہ

مازن نے اپنی سواری تیار کی۔ اس پر بیٹھا اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کی راستے بھر کی کیفیت کا اندازہ۔ اس سے لگا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے کریم آقا کی شان میں شعر بناتا جاتا تھا، پڑھتا جاتا تھا جو اس نے آپ کی محفل پاک میں جا کر سنائے۔

كَسَرْتُ بَادِرًا جُذَاذًا وَكَانَ لَنَا
رَبًّا نَطِيفٌ بِهِ حَيْنًا بِتَضَلُّالٍ

میں نے اپنے بت بادر کو پارہ پارہ کر دیا۔ وہ ہمارا رب تھا اور ہم گمراہی میں ڈوبے ہوئے۔ اس کا طواف کرتے تھے۔

بِالْهَاشِمِيِّ هُدِينَا مِنْ ضَلَالَتِنَا
وَلَمْ يَكُنْ دِينُهُ شَيْئًا عَلَيَّ بِالِ

اللہ تعالیٰ نے ہماری گمراہی سے اپنے نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی حالانکہ پہلے آپ کی دین کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔

يَا رَاكِبًا بَلَغَ عَمْرًا وَاخْوَتَهَا
إِنِّي لَمَّا قَالَ رَبِّي بَادِرٌ قَالِي

اوجانے والے سوار، یہ بات جا کر عمر کو اور اس کے بھائیوں کو سنا دو کہ جب اس نے کہا کہ میرا رب بادر ہے تو میں اس سے بالکل ناراض ہو گیا۔ بس اسی مستی میں اشعار پڑھتا جاتا تھا اور سفر کرتا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ عرش کے دولہا لیکن بوریائیں ماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر آپ کی بیعت کی۔ دائرہ اسلام میں داخل ہوا جہنمی سے جنتی ہوا۔ خاکی سے نوری ہوا۔ صحابی سے صحابی ہوا اور رضوان من اللہ کا سزاوار ہوا۔ اب میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں۔ بے ساختہ میری زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے

راضی ہو گیا۔

مازن، اسلام لانے سے پہلے بہت عیاش تھے۔ حسین عورتوں کے رسیا تھے۔ شراب و کباب کی مستی چڑھی رہتی تھی اور بے اولاد بھی تھے۔ جب **وَيُزَكِّيهِمْ** کی شان والے محبوب کی محفل میں بیٹھے اور اپنی زندگی کی ذہنی غلاظت سے نفرت پیدا ہو گئی اور عرض کیا حضور! میں گانے بجانے کا بہت شوقین ہوں۔ حسین عورتوں کا دلدادہ ہوں۔ شراب و کباب میری خوراک ہے اور اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہوں۔ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ اگر ظاہر بدلا ہے سوچ اور فکر بدلی ہے تو بری عادات بھی بدل جائیں۔ کیونکہ سنا ہے عادتیں نہیں بدلتیں۔ کہ اس کا تریاق صرف ایک دعا ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کا مرثدہ پانے والے محبوب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اے میرے مولا! مازن کے گانے سننے کے شوق کو قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا شوقین بنا دے۔ اس کے حرام کو حلال میں تبدیل کر دے۔ شراب کے بدلے اس کو ایسی سیرابی عطا فرما جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اس کی بدکاری کو عفت و پاکیزگی میں بدل دے۔ اس کو شرم و حیا عطا فرما اور لخت جگر بھی عطا فرما۔

تیرے مونہوں گل جیہڑی نکلے اوہ تیراے
جیہڑا توں اشارہ کریں اوہو تقدیراے

سرکار کی دعا قبول ہوئی، مازن نے قرآن پاک یاد کر لیا۔ بری عادات نے اپنا رخ اس کی طرف سے پھیر لیا۔ اس کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ انہوں نے چار بیویوں سے نکاح فرمایا۔ ان سے اولاد بھی ہوئی یعنی ہر طرف آبادیاں ہی آبادیاں تھیں۔ شادا بیاں ہی شادا بیاں تھیں۔ ایک بار آپ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور سراپا سپاس گزار ہوتے ہوئے یہ اشعار حضور کی خدمت میں پڑھ کر سنائے۔

إِلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ حَنْتُ مُطِئِي

تَجُوبُ الْفِيَا فِي مِنْ عُمَانَ إِلَى الْعَرَجِ

یا رسول اللہ! میری اونٹنی اب صرف آپ ہی کی جانب سفر شوق کرتی ہے اور عمان سے عرج تک کے جنگلات کو عبور کرتی ہے۔

لِتَشْفَعَ لِي يَا خَيْرَ مَنْ وَطِيَ الْحَصَى

فِيُغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَأَرْجِعُ بِالْفَلَجِ

تا کہ آپ میرے لئے شفاعت فرمائیں۔ اے کائنات کے بہترین انسان! اور میرے گناہ معاف ہو جائیں اور

إِلَى مَعْشَرٍ خَالَفَتْ فِي اللَّهِ دِينَهُمْ

وَلَا رَأْيَهُمْ رَأْيِي وَلَا نَهْجُهُمْ نَهْجِي

معشر کی طرف کامیابی سے لوٹوں۔ میں نے اللہ کے لئے ان کے دین کی مخالفت کی۔ نہ ان کی رائے میری رائے ہے۔ نہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔

وَكَنتُ أَمْرًا بِالْعَهْرِ وَالْخَمْرِ مَوْلَعًا

شَبَابِي حَتَّى أَذِنَ الْجِسْمَ بِالنَّهْجِ

میں تو وہ شخص تھا جو شراب اور بدکاری کا دلدادہ تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے راہ راست سے آگاہ کر دیا۔

فَبَدَّلَنِي بِالْخَمْرِ خَوْفًا وَخَشْيَةً

وَبِالْعَهْرِ إِحْصَانًا فَحَصَّنَ لِي فَرْجِي

اللہ تعالیٰ نے میری شراب نوشی کو خوف و خشیت میں تبدیل کر دیا اور مجھے بدکاری سے محفوظ کر دیا اور میری شرمگاہ کی حفاظت کر دی۔

فَأَصْبَحَتْ هَمِّي فِي الْجِهَادِ وَنِيَّتِي

فَلِلَّهِ صَوْمِي وَلِلَّهِ مَا حَجَّيْتُ

اب میرا ارادہ اور میری نیت صرف جہاد کرنے کی ہے اور میرا روزہ اور میرا حج بھی اسی کے لئے ہے۔

جب حضرت مازن اپنی قوم قبیلے اور خاندان کی طرف لوٹے تو انہوں نے بڑا برا بھلا کہا۔ بڑی سختی کی حتیٰ کہ کچھ شاعرات سے ان کی ہجو بیان کرنے پر لگا دیا۔ جب وہ شاعران کی توہین آمیز اشعار پڑھتے تو آپ فرماتے مجھے تمہاری ہجو کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو خود اپنے نفس کی ہجو بیان کرتا ہوں جس نے اتنی دیر تک میرے مالک سے مجھے دور رکھا۔

آپ نے اپنی زمین میں ایک مسجد تعمیر کر لی جس میں عبادت کرتے اگر کوئی مظلوم ان کے پاس آتا تین دن اُن کے ساتھ نماز ادا کرتا اور پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لئے جو دعا کرتا قبول ہو جاتی اگر کوئی مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ اس مسجد میں کھڑے ہو کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آرام و سکون اور شفاء عطا فرماتا۔

ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم بن عطا السلمی سے روایت بیان کی ہے۔

(حجۃ العالمین جلد ۱ ص ۳۱۴\۳۱۲)

یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن ان کی ساری قوم نادم ہو کر حاضر ہوئی معافی طلب کی اور آپ پوری قوم کو لے کر بارگاہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر گئے اور پوری قوم کو دائرہ اسلام میں داخل فرما کر مامون و معصون من عذاب النار فرما دیا۔

آپ ہزار بار مجھے بے حس کہیں لیکن اس پورے خاندان کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنانے میں مجھے جو سرشاری نصیب ہوئی وہ بہت کم حساس انسانوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔

عشق احمد سی دنیا میں نعمت نہیں مال و زر کی بھی کوئی حقیقت نہیں

بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در کے جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے

نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی
آخری وقت سران کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے
(نجم نعمانی)

اللهم صل وسلم و بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ

حتى لا یبقی من الصلوٰۃ والسلام و البرکة شی

نختم کے قبیلے کے بتوں کی کہانی

ہم بھی سواع، ضمار اور بادر جیسے بتوں کے بھائی تھے۔ ہماری بد قسمتی کہ نجانے، ہم ان بد بختوں حیوانوں سے بدتر انسان کے ہاتھ کیسے آگئے۔ انہوں نے خود اپنی صناعی اور کمال محنت سے ہمیں گھڑا ہمارے ہاتھ پاؤں اور سر بنائے۔ ناک نقشہ خوبصورت بنایا۔ جو ان کے اپنے ذہنوں میں نقش تھا پھر ہمیں اپنے ہاتھوں بلند جگہوں پہ رکھا۔ ہم تو خود اٹھ بھی نہ سکتے تھے پھر ان انسانوں نے، اپنی پیشانی ہمارے سامنے ٹیک دی۔ آہستہ آہستہ نسل در نسل ہم بڑے ہوتے گئے اور انسان نما یہ بیولے چھوٹے ہوتے گئے۔ ان کی سزا بھی یہی تھی جس انسان کو اتنا بھی شعور نہ ہو کہ جو پتھر اپنے آپ اپنا پہلو نہیں بدل سکتا۔ وہ تمہاری تقدیر کیسے بدل سکتا ہے۔ اس کے باوصف اگر وہ پھر بھی پتھر کے حضور ہی سجدہ ریز ہو جائے۔ اسی کو حاجت روا مانے اسی کو مشکل کشا تصور کرے۔ زندگی اور موت عزت و ذلت رزق اور دولت، شان و شوکت اسی سے طلب کرے تو بتائیں۔ ایسے مجسمے کو انساں کہنا انسانیت کی توہین نہیں۔ اسی وجہ سے انسان بلند قامت ہوتے ہوئے بھی چھوٹا ہوتا گیا۔ اور پھر اس مقام تک پہنچ گیا کہ لم یکن شیاً مذکور کہ یہ اس قابل بھی نہ رہا کہ یہ کوئی قابل ذکر شے ہوتا۔

نختم تو ایک ایسا قبیلہ تھا جس کو حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہ تھی۔ انہوں نے

اپنے صنم خانے میں کئی بت بنا رکھے تھے۔ ہر کام کے لئے ہر مشکل کے لئے ہر پریشانی کے لئے علیحدہ معبود بنا رکھے تھے اور ہم اندر ہی اندر شرم و ندامت سے اور اللہ تعالیٰ کے جہنم کی آگ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ کہ آخر خدائے رحمن و رحیم کے حضور ہماری خشیت اور ہمارا گڑگڑانا اور ہماری بے بسی پر رحم آگیا اور اس نے ہمیں عذاب نار کا ایندھن ہونے سے بچا لیا۔ راحت قلب حزیں، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھی مخدوم و محبوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنی ایک آزاد حکومت کی بنیاد رکھ دی تو ہمیں بھی مالک نے توفیق بخش دی۔ ہم تو اپنے مالک کے بندے ہیں۔ اسی کے حکم کے آگے سرنگوں کرنے والے ہیں۔ جب ہمارے خالق و مالک کے محبوب آئے ہی اس لئے تھے کہ ان حیوانوں سے بدتر ذہنیت کے انسانوں کو انسان بنانا ہے۔ ان کا کھویا ہوا وقار ان کو واپس کرنا ہے تو پھر ہم اپنے فرض سے کیوں کوتاہی کرتے۔

ایک رات کی بات ہے وہ رات ان کو جگانے کی رات تھی۔ پوری قوم کے بڑے بڑے سرکردہ ہمارے حضور فرمانبردار غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا آپس میں کوئی باہمی جھگڑا تھا جس کا فیصلہ کرانے وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے۔ اندھے کہیں کے کہ ہم میں سے ایک بت نے اچانک بولنا شروع کر دیا۔

يَا أَيُّهَا الرِّكْبُ ذُو وَالِإِحْكَامِ

مَا أَنْتُمْ وَطَائِشُوا الْأَحْلَامِ

اے قافلے والو! جو فیصلہ کروانے آئے ہو تمہیں کیا ہو گیا۔ تمہاری عقل کہیں ٹھکانے تو نہیں لگ گئی۔

وَمُسْنِدُ الْحُكْمِ أَلْسِي الْأَضْنَامِ

أَمَّا تَرُونَ مَا أَرَى أَمَامِي

اور جس فیصلہ کو بتوں کی طرف منسوب کرتے ہو تم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے جس کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔

مِنْ سَاطِعٍ يَجْلُوا دُجَى الظَّلَامِ

هَذَا نَبِيُّ سَيِّدِ الْاِنَامِ

دیکھو! اس پھلنے والی چیز کو جس نے ظلمتوں کو کافور کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ جو تمام لوگوں کے سردار ہیں۔

مِنْ هَاشِمٍ فِي ذُرْوَةِ السَّنَامِ

يَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَالْاِسْلَامِ

وہ قبیلہ ہاشم کے ایک عظیم انسان ہیں۔ وہ حق اور اسلام کو بیان کرتے ہیں۔

اَعْدَلْ ذِي حَكْمٍ مِّنْ الْاَحْكَامِ

مُسْتَقْلِنًا بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ

فیصلے کرنے والوں میں وہی سب سے زیادہ عادل ہیں۔ وہ مکہ معظمہ میں اسلام کو ظاہر فرمائیں گے (تم ہم سے فیصلے کروانے آگئے ہو۔ فیصلے ان سے جا کر کراؤ جو سب سے بڑے عادل ہیں)

قَدْ طَهَّرَ النَّاسَ مِنَ الْاَثَامِ

جَاءَ بِهِمْ الْكُفْرُ بِالْاِسْلَامِ

انہوں نے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے اور وہ اسلام کے ساتھ کفر کو مٹانے کیلئے تشریف لائے ہیں۔

ہمارے ساتھی کا تیر نشانے پر بیٹھا پہلے تو وہ خوف زدہ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اس طرف مائل کر دیا وہ اٹھے، مکہ معظمہ پہنچے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ہمیں اپنے محبوب کے جاں نثاروں کی فوج میں اضافے کی سعادت حاصل ہوئی یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا۔

حضرت اسماعیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریج سے اور انہوں نے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حجۃ اللہ العالمین فی معجزات
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (جلد نمبر ۱ ص 316)

اس واقعہ کو واقدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

میں جو اک برباد ہوں، آباد رکھتا ہے مجھے

دیر تک اسم محمد ﷺ شاد رکھتا ہے مجھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَبَالِهِ

ضمام بت کی کہانی

میں بھی بادر سواع اور خثعم قبیلہ کے بتوں کی مانند ایک بت تھا۔ میں یمن کے
ایک قبیلہ بنو عدزہ کا ایک بت تھا۔ یہ قبیلہ میرا بہت احترام کرتا تھا۔ میں ہند بن
حرام کے قبیلہ کے محلے میں تھا۔ میری خدمت اور دیکھ بھال کے لئے ایک شخص
طارق نامی مامور تھا۔ لوگ میرے پاس آ کر میرے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔
میری حالت بھی اپنے دوسرے بہت سے بھائیوں کی طرح تھی۔ میں بھی
اپنے اندر کے غبار سے جلتا رہتا تھا۔ ہر وقت اپنے مالک کے حضور التجائیں کرتا
رہتا تھا۔ میرے مالک اس بد قسمت انسان کی تقدیر کب بدلے گی اور مجھے ان کی
احتمقانہ حرکتوں سے کب نجات نصیب ہوگی۔ پس مالک نے کرم فرمایا میرے
صدیوں کے کرب سے میری نجات کا وقت آ گیا اور انسانوں کی تقدیر سنورنے کا
وقت بھی آ گیا۔

فَجَاءَ مُحَمَّدٌ سِرَاجًا مُنِيرًا

فَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا

ہمارے آقا تشریف لے آئے۔ وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ بد قسمت انسان

تو پھر سوچ میں پڑ گیا۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں۔

اس میں کیا ہے کیا نہیں اس سے مجھ کو کیا غرض
 بس مجھ کو وہ اچھا لگا پھر میں نے سوچا کچھ نہیں
 اس کی بابت سوچنا اور سوچنا بھی رات دن
 پھر بھی مجھ کو یوں لگا کہ میں نے سوچا کچھ نہیں
 خیر ایک دن جب کہ سراج منیر طلوع ہو چکا تھا لوگ کچھ جانور لے کر میرے
 حضور ذبح کرنے کے لئے حاضر تھے اور ان میں زمیل بن عمرو العذری میرے
 قریب تھا کہ میں نے بلند آواز سے ان سے کہا۔ اے بنو ہند بن حرام! حق ظاہر ہو
 گیا۔ ضمام ہلاک ہو گیا۔ اسلام نے شرک کا خاتمہ کر دیا۔

زمیل بن عمرو، ایک بت کو، پتھر کے بت کو، بولتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا اور
 کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میری نیت بھی ان کو جھنجھوڑنا ہی تھا۔ چند دن گزر گئے اور پھر
 میں نے اپنے خادم کو پکار کر کہا۔ اے طارق! ہوش میں آؤ۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ناطق کا نزول ہوتا
 ہے۔ تہامہ کی سرزمین میں ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان کے مددگاروں کے لئے
 سلامتی ہے اور ان کے دشمنوں کے لئے شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ آج میں تمہیں
 روز حشر تک اپنی طرف سے الوداع کرتا ہوں، یہ کہا اور میں دھڑام سے نیچے آگرا
 اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میری ٹوٹ پھوٹ میرے بھی کام آئی کہ میں اپنے مالک کے
 محبوب اور اپنے مخدوم و مطلوب کے مشن کی تکمیل میں ملن کی محبت و مؤدت اور ان
 کی اطاعت میں کام آ گیا اور مجھے پوجنے والوں کی تقدیر بھی بدل گئی۔

زمیل بن عمرو العذری میرے ہاں سے اٹھا۔ اس نے ایک اونٹنی خریدی۔
 اپنی قوم کے چند افراد کو ساتھ لیا اور بارگاہ رسالت پناہ میں جا حاضر ہوئے۔ سلام
 نیاز عرض کیا۔ پورے راستے نہ جانے ان پر کیسی مستی چھائی رہی۔ یہ مستی یہ محبت
 انسان کو ویسے ہی شاعر بنا دیتی ہے۔ وہ بھی راستے میں شعر کہتے گئے۔ اونٹنی ہانکتے

گئے، اور حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت زمیل کے اشعار آپ بھی پڑھ لیں۔ ایمان تازہ ہو جائے گا۔

إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْمَلْتُ نَصَهَا
 أَكَلِنَهَا حُزْنًا وَغُورًا مِّنَ الرَّقْلِ
 لِأَنْصُرُ خَيْرَ النَّاسِ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا
 وَأَعْقِدُ حَبْلًا مِّنْ حَبَالِكَ فِي جَبَلٍ
 وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 أُدِينُ لَهُ مَا أَثْقَلْتُ قَدَمِي نَعْلِي

یعنی یا رسول اللہ صلی علیک وسلم میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے صرف آپ ہی کے لئے اپنی اونٹنی کو اتنی دور سے تکلیف دی ہے اور اس کو ریت کے ٹیلوں پر چلایا ہے تاکہ میں تمام لوگوں میں ایک بہترین شخص کی مدد کروں اور آپ کی رسیوں میں سے ایک رسی اپنی رسی سے باندھ لوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں اور میں آپ کے دین کو اس وقت تک اختیار کرتا ہوں جب تک میرے پاؤں میرے جوتے سے بوجھل رہیں گے۔ (یعنی تاحیات آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں)

(حجۃ اللہ العالمین علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ۱ ص 317)

کبھی اشک کوئی بہا لیا کبھی زخم دل کو سجا لیا
 یہی حال تھا مرا روز و شب کہ کسی نے در پہ بلا لیا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و على آل
 محمد حتى لا يبقى من الصلوة و السلام و البركة شيء

حضرت وائل بن حجر الحضرمی کے بت کی کہانی

مجھے میرا نام یاد نہیں، پتہ نہیں وہ میرا کیا نام لیتے تھے۔ خیر نام و نمود میں کیا رکھا ہے۔ میں حضرت موت کے علاقہ میں ایک بت خانہ میں نصب تھا۔ دوسرے بتوں کی طرح، لوگ میری پوجا پاٹ کرتے تھے اور اسی طرح صدیاں بیت گئیں اور میں اس بے جان نام و نمود سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا۔ کوئی ایسا وقت آئے اور اس جھوٹی نام و نمود اور جھوٹی وفائی خدائی سے جان چھوٹے اور میں بھی کہیں۔ ان پتھروں میں شمار نہ کر لیا جاؤں جو انسانوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

میں مسند خدائی پر بیٹھا بھی خوش نہ تھا بلکہ خون کے آنسو روتا تھا۔ میرا رونا میری زاری میرے کام آگئی اور خالق عالم کی تخلیق اول رونق گلزار ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی۔ میں جسما بھی ٹوٹ پھوٹ جانا چاہتا تھا لیکن کچھ کر کے جانا چاہتا تھا۔ الحمد للہ میں نے اپنے مالک کے محبوب کے غلاموں میں محبت کرنے والوں میں۔ ایک ایسے غلام کا اضافہ کرنے کا باعث بن گیا جو میری آخرت سنوارنے کا سبب بن گیا۔

حضرت موت کے علاقہ کے ایک بادشاہ الحجر الحضرمی تھا۔ ایک نوجوان خوبصورت خوب رو، تنومند، ذہین و فطین، میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کا حسن دیکھ کر میرے دل میں آئی آدمی ایسا حسین و جمیل اور بہادر و عقلمند جہنمی نہیں ہونا چاہئے۔ میں نے اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لئے بڑے ہی دردناک انداز سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس نعت میں تبلیغ و عطا و نصیحت بھی تھی۔

وَأَعَجَبَ الْوَائِلِ ابْنِ حَجَرَ
يَخَالُ يَدْرِي وَهُوَ لَيْسَ يَدْرِي

وائل ابن حجر پر تعجب ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے حالانکہ وہ کچھ نہیں

جانتا۔

مَاذَا يُرْجِي مَنْ نُحِيتُ صَخْرَ

لَيْسَ بِذِي نَفْعٍ وَلَا ذِي ضَرِّ

اسے کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک گھڑے ہوئے بت سے امیدیں وابستہ کئے

ہوئے ہے جو نہ نفع دینے والا ہے اور نہ نقصان دینے والا ہے۔

لَوْ كَانَ ذَا حِجْرٍ أَطَاعَ أَمْرِي

اگر صاحب عقل و شعور ہے اور ذی حجر ہے تو میرے حکم کو مان لے۔

وائل بڑے تعجب سے میری طرف مائل ہوا اور کہنے لگا، اے کچھ کہنے والے!

میں تیری بات غور سے سن رہا ہوں تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے۔

پھر میں نے کہا:

إِرْحَلْ إِلَى يَثْرِبَ ذَاتَ نَخْلٍ

تَدِينُ دِينَ الصَّائِمِ الْمُصَلِّي

تو یثرب کی طرف روانہ ہو جا وہ کھجوروں والی سرزمین ہے۔ وہاں روزہ

رکھنے والے اور نماز قائم کرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا

دین اختیار کر

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ خَيْرِ الرُّسُلِ

وہ محمد رسول اللہ نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سارے رسولوں سے

افضل ہیں۔

یہ کہہ کر میں تو منہ کے بل گر پڑا، وائل کا خدا بھلا کرے۔ اس کے میری باقی

کسر بھی پوری کر دی اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آگے کی کہانی آپ خود ان سے

سن لیں۔

حضرت وائل بن حجر الحضرمی رضی اللہ عنہ کی داستان بھی پر کیف قابل فخر اور ایمان افروز ہے۔ آپ کی کنیت ابو ہبیدہ تھی۔ ان کا باپ وقت کا بادشاہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم اس بت خانہ سے بت کی بات سن کر اس کے خود بخود گرنے اور ٹوٹ پھوٹ جانے سے متاثر ہو کر ایک وفد کی صورت، بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئے۔ معلم علوم سماوی و ارضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہمارے آنے سے پہلے ہی خبر دے رکھی تھی۔ آپ نے جاں نثاروں، حاضر باشوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا۔ تمہارے پاس وائل بن حجر دور دراز علاقہ سے حضور موت سے آرہا ہے۔ اس کا مقصد، صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہے اور بس۔ وہ بادشاہ کے بیٹوں میں سے ایک ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے جس شخص سے ملتا وہ یہی کہتا کہ تمہاری آمد سے تین دن پہلے ہی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق بتا دیا تھا۔

جب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ سرکار نے مجھے اہلاً و سہلاً و مرحباً کہا، خوش آمدید کہا، مجھے اپنے قریب کیا، میرے لئے آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی، مجھے اس چادر پر بٹھایا، پھر آپ نے دعا فرمائی۔

”اے مولا! اے میرے پروردگار! وائل بن حجر کی اولاد اور ان کی

اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما۔“

پھر پ منبر شریف پر رونق افروز ہوئے۔ مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور آپ نے

فرمایا:

لوگو! یہ وائل بن حجر ہیں، یہ تمہارے پاس بہت دور دراز علاقہ سے آئے ہیں

یعنی حضور موت سے آئے ہیں۔ یہ اسلام کی طرف بہت مائل ہیں اور دین اسلام کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں اپنی عظیم سلطنت میں موجود تھا تو مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں نے اپنی سلطنت اور بادشاہی کو خیر باد کہہ دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے دین کو اور آپ کے حضور حاضری کو ترجیح دی۔

آپ نے فرمایا وائل تو نے سچ کہا ہے۔ آپ نے دوبارہ دعا فرمائی۔ اے میرے مولا! وائل بن حجر کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما۔

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے وفد کی صورت میں حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عقیق کے مقام پر ایک بت تھا اور اس بت نے زبان فصیح میں ہماری رہنمائی کی اور خود گر کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔

حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ۱ ص

۳۱۸

کیا خبر کیا سزا ملتی مجھ کو، میرے آقا نے عزت بچالی

میری فرد عمل مجھ سے لے کر، کالی کالی میں اپنی چھپالی

اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیماً

حضرت ورقہ بن نوفل اور عثمان ابوالحوریت کے بت کی کہانی

جیسا کہ آپ میرے دوسرے بھائی بتوں کی کہانیاں پڑھ آئے ہیں۔ میری کہانی بھی ایسی ہے البتہ میں کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ میرا وجود میرے لئے بوجھ بن چکا تھا۔ میں چونکہ معبود نہیں مجھے خواہ مخواہ زبردستی معبود بنا کر بت خانہ میں رکھ دیا گیا تھا اور اچھے بھلے جہاں دیدہ، سیانے بیانے لوگ ہو کر بھی مجھ جیسے بے بس

کے حضور سر فلندہ ہو جاتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی مت اور عقل کیوں ماری گئی تھی کئی بار میں نے اپنے مالک سے عرض کیا تھا میرے مالک! خداوند! یہ خدائی دردِ سر ہے۔ یہ تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ مجھے اس دردِ سر سے اس عذاب سے نجات دلا۔ نہ جانے کتنی مخلوق میری طرح زبان حال سے پکار رہی تھی۔ بے بسی و بے چارگی میں تڑپ رہی تھی۔

کہ اک طرف سے گھٹائے رحمت
دھل گیا پھر جہاں کا چہرہ
ازل سے پیاسی جو سر زمیں تھی
کلیاں مہکیں، شگوفے پھوٹے
چھائی ہر سو اور خوب برسی
نفس نفس پہ بہار آئی
وہیں پہ ابر بہار برسا
چمن میں ہر سو بہار آئی
(ظفر چشتی)

یعنی وہ صبح نور طلوع ہوئی جس نے چار دانگ عالم میں ہر فریادی کی فریاد کو پہنچنا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکدانِ ارضی پر رونق افروز ہوئے۔ اس روز میری کیفیت مجھ سے نہ پوچھو۔ شدت جذبات سے میں اپنے آپ پر قابو نہ پاسکا اور اوندھے منہ نیچے آگرا۔ اتنے میں قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو، عبداللہ بن جحش اور عثمان بن الحویرث موجود تھے۔ وہ میری پرستش کیا کرتے تھے اور میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور میری عبادت کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے مجھے اوندھے منہ گرا ہوا پایا تو بڑے حیران ہوئے۔ ان کے لئے تو بڑے تعجب کی بات تھی کہ ان کا معبود، زمین بوس ہوا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور پہلی حالت پر کھڑا کر دیا۔ میں نے کوئی اپنی اہمیت جتانے کے لئے تو یہ کام کیا نہیں تھا بلکہ اپنی حیثیت دکھانے کے لئے کیا تھا۔ میں پھر گر گیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پہلی حالت میں نصب کر دیا۔ میں اوندھے منہ پھر گر پڑا۔ انہوں نے تین بار کھڑا کیا اور میں تین بار ہی گر پڑا۔

یہ واقعہ اس صبح کا ہے جس دن شاہ رسولان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ پھر میں نے بڑی فصیح و بلیغ عربی اشعار پڑھے جو میرے اپنے ہی جذبات تھے۔ اس پر اس کا ان پر کیا اثر ہوا۔ اس کی تو مجھے خبر نہیں البتہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا۔ وہ اشعار آپ بھی سننا چاہتے ہیں سن لیں مجھے تو یاد ہیں وہ ذرا ذرا۔

نُرْدَى لِمَوْلُودٍ اَنَارَتْ بِنُورِهِ

جَمِيعِ فَجَاجِ الْاَرْضِ بِالشَّرْقِ وَالْغَرْبِ

ہم اس مبارک نومولود بچے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جس کے نور سے زمین نے سارے گوشے شرق سے غرب تک روشن ہو گئے۔

وَخَرَّتْ لَهٗ الْاَوْتَانُ طَرًّا وَاُرْعِدَتْ

قُلُوبُ مُلُوكِ الْاَرْضِ طَرًّا مِّنَ الرَّعْبِ

تمام دنیا کے بت آج اس کی وجہ سے گر پڑے ہیں اور زمین کے بادشاہوں کے دل اس کے رعب سے کانپ رہے ہیں۔

وَنَارُ جَمِيعِ الْفَرَسِ بِاُخْتِ وَاظْلَمَتْ

وَقَدَبَاتِ شَاهِ الْفَرَسِ فِي اَعْظَمِ الْكُرْبِ

تمام فارس (ایران کے آتشکدوں) کی آگ بجھ گئی اور وہاں ہر طرف تاریکی چھا گئی اور شاہ ایران نے آج کی رات بڑی تکلیف اور کرب میں گزاری ہے۔

وَصَدَّتْ عَنِ الْكُهَّانِ بِالْغَيْبِ جِنُّهَا

فَاَلَا مُخْبِرٌ مِنْهُمْ بِحَقِّ وَلَا كَذِبِ

کاہنوں نجومیوں کے جنات کو غیب کی خبریں دینے سے آج سے روک دیا گیا۔ اب انہیں کوئی سچی جھوٹی خبر نہیں دے سکا۔

فَيَا لِقُصِي اِرْجِعُوا عَنِ ضَلَالِكُمْ

وَهَبُّوا اِلَى الْاِسْلَامِ وَالْمَنْزِلِ الرَّجْبِ

اے قصی کے لوگو! اپنی گمراہی کی زندگی سے پلٹ آؤ۔ اسلام اور کشادہ منزل کی طرف لوٹ چلو۔

یہ کہہ کر میں نے اپنے محبوب کریم کے مشن میں ایک ادنیٰ غلام کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر دیا اور خدائی کے دردِ سر سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کر لی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں علامہ خدا تظلی نے ہوائف میں اہل عسا کرنے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

ابھرا ہوں تیرے نام کا لے لے کے سہارا
منجھدار سے، طوفان سے، تلاطم سے، بھنور سے
بیمار مدینہ کو مدینہ میں بلا لیں
کب تک یہ تیرے شربت دیدار کو تر سے

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و على آله صلوة
تكشف جميع الهموم و الغموم يا حي يا قيوم

جبیر بن مطعم کے بت کی کہانی

مکہ معظمہ جس میں بیت اللہ شریف یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے کئی معبود بنا رکھے تھے۔ ان میں ایک میں تھا۔ میرا بھی وہی حال تھا جو دوسرے بتوں کا تھا۔ ہم تو اس وقت کو ترس رہے تھے کہ کب ہم اس جھوٹی خدائی کی مسند سے اترتے ہیں جس پر زبردستی بٹھا رکھا ہے اگر کوئی عزت کے قابل ہو اس کی توقیر کرتے ہوئے لوگ اس کو تھوڑا سا اور بھی بڑھا دیں تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن سائیکل پنچر لگانے والے کو ایم بی بی ایس کا بورڈ لگا کر بٹھا دیا تو اس بیچارے کا کیا حال ہوگا اور اگر اس کو زبردستی بیٹھے رہنے پر مجبور کیا گیا تو لوگوں کا مریضوں کا کیا حال ہوگا اور ادھر تو یہ عالم تھا کہ ہم تو پنچر لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور ہمیں سپیشلسٹ کی کرسی پر زبردستی بٹھا دیا اور پھر مسلمان کئی صدیاں اس پر ہی

بیٹھے رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اس پر لوگوں کے ایمان کا جتنا بیڑہ غرق ہوا ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگرچہ ہمارا ذاتی قصور کم تھا لیکن ہماری اندرونی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ انسان کی ڈوبتی کشتی دیکھ کر میں جتنا کڑھتا رہتا تھا آپ اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب ہمارا دل ڈوبنے لگا۔ انسان کی انسانیت بھی چیخنے لگی تو قدرت کو رحم آ گیا۔

جد آیا محبوب خدا دا ، ہو گیا نور اُجالا

سارا حسن سمیٹ لیا یا سوہنا زلفاں والا

میں تو آپ کی ولادت باسعادت سے ایک ماہ پہلے ہی اس مسند سے زبردستی اترنے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک دن جبیر بن مطعم اور اس کے ساتھ چند رؤساء مکہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی ابھی ایک اونٹ میرے حضور ذبح کیا تھا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور بلند آواز سے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ ارے لوگو! غور سے سنو! آسمان سے چوری چوری باتیں سننا ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آسمان کی طرف جانے والے شیطانوں کو شہاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے انتظامات اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ”احمد“ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جن کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہو گی۔ حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے اسی وقت رک گئے اور بت کی اس صدا پر ہم نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس کے ایک ماہ بعد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔

اُن کا بیمار ہوں اُن کے در لے چلو

اور مجھ کو نہ کوئی دوا چاہئے

نام اُن کا جو آئے تو بڑے پیار سے

چومنا چاہئے، جھومنا چاہئے

صابر صابری تو کیوں بے چین ہے
تجھ کو در، ان کو در کا گدا چاہئے

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم

”سواع“ نامی بت کی ایک اور کہانی

میرا ایک پجاری عبداللہ بن ساعدہ الہندی، ایک دن اپنی ایک بھیڑ لے کر آیا تاکہ وہ پانی بھی پی لے اور مجھ سے بھیڑ کے لئے برکت حاصل کر لے جب وہ بھیڑ لے کر میرے قریب آیا تو میں نے اس کی خوب خبر لی اور اس کو اچھی خاصی سنائیں۔ صرف اس کے ضمیر کو جگانے کے لئے میں نے اس سے کہا: تعجب ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ عرب کے بہترین اور دانشور شخص کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں کہ وہ ایک بے جان اور پتھری چیز سے برکت حاصل کرنے آ گیا ہے۔ پہلے تو وہ خوف زدہ ہوا، پھر اس نے آواز پر غور کیا۔ اس کی غیرت جاگی اور بڑی ہی شرم و ندامت کے ساتھ بھیڑ کو لیا اور چلتا بنا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو آئینہ دکھانے سے وہ برا مان گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر صحابیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا۔

منہ اٹھا کے چل دیئے سیدھے مدینے کی طرف

ہم سے یہ دیوانہ پن میں خوب دانائی ہوئی

صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارك وسلم

سعید بن عمرو الہندی کے بت کی کہانی

سعید کے والد عمرو الہندی بھی دوسروں کی طرف زبردست بت پرست تھے۔ ور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ تھا اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا تھا۔ اسی کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا۔ اندھی اور جاہلانہ عقیدت سے خدا بچائے۔ بس ایک بھیڑ چال تھی

جس کسی کو دیکھو کوئی نہ کوئی بت اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے اور اپنی ساری کمائی، ساری دولت، ساری دانائی اس کے قدموں میں ڈھیر کئے بیٹھا ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی ان کو کیا ہو گیا ہے۔

ایک دن عمرو الہندی نے ایک جانور ذبح کیا اور میرے حضور لا کر پیش کیا ہم تو پہلے ہی بھرے ہوتے تھے۔ دانائیاں تقسیم کرنے والے بھی تشریف لا چکے تھے۔ ہمارا انگڑائی لینا کسی کام آسکتا تھا۔ آپ سے پہلے تو یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو جھنجھوڑتے بھی ہیں تو وہ جائے کدھر، آگے کوئی راستہ بتانے والا نظر ہی نہ آتا تھا۔ اس لئے ہم بھی کڑوا گھونٹ پی کر بیٹھے ہوئے تھے۔

جب وہ ذبح شدہ جانور لے کر میرے پاس آیا اور مجھے پیش کیا تو میں بول پڑا اور کہا تعجب ہے بلکہ کتنے تعجب کا مقام ہے کہ عبدالمطلب کے قبیلہ سے ایک نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ بدکاری کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ بتوں کے لئے جانوروں کی قربانیاں حرام قرار دیتے ہیں۔ اب ان کے آنے سے آسمانوں کا تحفظ کر دیا گیا ہے اور اوپر کی طرف جانے شیطانوں کو شہاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

عمرو الہندی حیران و پریشان میرے ہاں سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اتفاق یہ ہے انہیں راستے میں کوئی ایسا ذمہ دار شخص نہ ملا۔ حتیٰ کہ ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا ابوبکر! یہ بتاؤ کیا مکہ معظمہ میں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہو اور اس کا نام نامی احمد ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمرو سے پوچھا تمہیں آپ کے متعلق کیسے علم ہوا۔ عمرو نے سارا واقعہ میرے والا بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں! یہ بات صحیح ہے۔ اور صحیح خبر ملی ہے وہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

الحمد للہ میں سرخرو ہوا کہ عمر و کی قدرت نے سرپرستی فرمائی۔ یقیناً ان کے دل میں سچی طلب پیدا ہوگئی ہوگی ورنہ راستے میں کوئی احمق یا احمقوں کا کوئی سردار مل جاتا اور وہ انہیں جانے ہی نہ دیتا۔

ابن سعد اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت سعید بن عمرو الہندی رضی اللہ عنہ سے روایت اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے روایت بیان کی۔ حجۃ اللہ علی العالمین جلد اول ص ۳۲۰

آپ وجہ تخلیق کون و مکاں
محترم آپ کی ذات بعد از خدا
اسم اعظم ہے اسم محمد جہمی
سدرۃ المنتہیٰ آپ کے زیر پا

آپ ہی ابتداء آپ ہی انتہا
ان گنت ہوں درود و سلام آپ پر
دونوں عالم میں ہے دھوم اُس کی مچی
ان گنت ہوں درود و سلام آپ پر

صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ
و بارک وسلم

خصوصی نوٹ

اس کتاب کا یہ حصہ جو آپ کے زیر مطالعہ ہے یہ جمادات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حصہ ہے۔ اس میں اب تک ایک جذباتی کیفیت میں جمادات سے سوال کرتے رہے اور جوابات پاتے رہے۔ محبت بھرے جذبات اور دیوانہ پن میں یقیناً خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی لیکن آج تک کسی دیوانے کی دیوانگی میں ہونے والی کسی خطا پر اس کو سزا دیتے نہیں دیکھا گیا۔ قارئین و ناظرین سے ایک دیوانے کی التجا ہے کہ اگر واقعی کہیں کوئی خطا سرزد ہوگئی ہو تو ازراہ لطف کریمانہ اصلاح فرمادیں اور خطا معاف فرمادیں۔

اسی حصہ میں زیر نظر واقعہ میں بھی ایک پتھر دیوانے کا ذکر موجود ہے لیکن

فرزانے لوگوں کا اس واقعہ میں غلبہ ہے۔ اس لئے ہم حجۃ اللہ العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے اپنی زبان میں من وعن تحریر کریں گے۔ مقصد اس سے بھی وہی ہے کہ پتھر کنکر ریت کے ذرے پہاڑ، بے جان چیزیں، سب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی تھیں۔ آپ سے محبت کرتی تھیں۔ آپ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی تھیں۔

چونکہ سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رسول نبی اور رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ اس لئے آپ کی ذات کی تسلیم میں انسانوں اور جنوں کے سوا کسی بھی مخلوق نے آپ کی رسالت کا، نبوت کا، محبوبیت کا انکار نہیں کیا۔ آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا۔ آپ کے احکامات کی تعمیل کی۔ آپ کی محبت میں ڈوبے، سرشار ہوئے، دیوانے ہوئے۔ آپ کی محبت میں تڑپے، آپ کی محبت میں رقص کیا۔ آپ کی قربت کے مزے لوٹے۔ آپ کے فراق میں روئے، سسکیاں بندھیں، گلے لگانے اور کلاوے میں لے لینے پر مجبور کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ساتھ رہنے کی سعادتیں حاصل کیں۔ آپ کی جدائی میں پاگل ہوتے کنوؤں میں چھلانگ لگا کر جانیں قربان کر دیں اور نہ جانے کیا کیا انداز ہائے محبت پیش کئے۔ خشک سوتے پھوٹے، جگر چیر کر رکھ دیئے اور قدموں پہ لوٹ گئے، نظام کائنات کی تبدیلیاں ہونے دیں لیکن حکم کی تعمیل میں پس و پیش نہیں کیا۔ عرش سے فرش تک دوڑیں لگیں۔ وہ جنہیں کسی کے ہاں آنے جانے پر کوئی قدغن نہ لگا سکا۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں بغیر کنڈی کھڑکائے، بغیر اجازت لئے، بغیر مہلت دیئے، آکر پکڑ لیں، دبوچ لیں، گلے گھونٹ دیں، گردن مروڑ دیں، کوئی اُف نہ کر سکے، کوئی سی نہ کر سکے، کوئی شکوہ نہ کر سکے، کوئی اعتراض نہ کر سکے اور کوئی بول نہ سکے۔ وہ بھی دروازے پر کھڑے اجازتیں لینے پر مجبور ہو جائیں۔ کھاری کنویں حکم کی تعمیل سے بیٹھے ہوں، کھجوروں کی کمی کو زیادتی نصیب ہو، پتھروں کی

چنگاریاں مستقبل کی خبریں دیں، جانور دربانیاں کریں، مردے بول اٹھیں، یہ سارے رنگ، یہ سارے انداز محبت کے ہیں، پیار کے ہیں، وارثی کے ہیں نہ کسی کے انگلی اٹھانے پر جبیں پر بل آئے، نہ کسی کے شکوے پر ناک سکیڑیں، بس اپنی دھن میں مست کوئی ہنستا ہے تو ہنسے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے، کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو ڈالے، نہ کسی کی طنز کی پرواہ، نہ کسی نقصان کا اندیشہ۔

یہ سارے انداز نباتات نے جمادات نے، حیوانات نے، ملائکہ نے، فرشتوں نے، فرشیوں نے عرشوں نے اختیار کئے اور دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا۔ فاصلوں نے سمٹنا سیکھ لیا، بے زبانوں نے بولنا شروع کر دیا، بے جانوں نے تڑپنا اپنا لیا۔

یہ باب، انوکھے باب، فرزانوں کے نہیں، دیوانوں کے ہیں، پروانوں کے ہیں۔ اس لئے ان کے تذکرے میں انداز بھی مختلف رہا لیکن درج ذیل واقعہ میں فرزانہ لوگوں کا مکلف لوگوں کے تذکرہ کا حصہ غالب ہے۔ اسی لئے اس میں وہ انداز تحریر نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح حضور سے محبت میں جہاں دیوانوں کا ذکر ہوگا۔ وہاں دیوانگی غالب ہوگی جہاں فرزانوں کا ذکر ہوگا وہاں فرزانگی کا رنگ ہوگا۔

عشق دے جھلے ای بازی لے گئے

عقلنداں ایویں عمراں گالیاں

کئی بد قسمت دانشور، اپنی دانشوری کے زعم میں حماقتوں کی کتاب کے سر ورق بن گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ہر کہ کشتہ نہ شد از قبیلہ مانیت

جو ان پر قربان نہیں ہوا وہ ہمارے خاندان سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔

عشق کہن دے نال نہیں عشق ہوندا	ہون وچہ ہندا صاحب حال دا عشق
رنگ ڈھنگ دا عشق تے ہے فانی	لازوال ہوندا، لازوال دا عشق
راہواں بھلیاں نوں باہوں آن پھڑدا	لج پال ہوندا، لج پال دا عشق

جتھے عقل ہنیریاں چھڈ دی اے اوتھے دیوے دیوانیہ بال دا عشق

رقہ بن نوفل، ایک بت اور نجاشی بادشاہ

الخرائطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ کی مسند سے روایت بیان کی ہے کہ وہ اپنے والد صاحب اور وہ اپنی دادی جان حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ میں سخت ناکام ہو کر عبرت کا نشان ہوا تو اس وقت بادشاہ حبش نجاشی کے دربار میں آئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب دونوں اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے ہم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اے معزز قریشیان مکہ مکرمہ! کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے والد ماجد نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہو لیکن قرعہ اندازی کی گئی اور اس بچے کی جان ذبح ہونے سے بچ گئی ہو۔ پھر اس بچے کی طرف سے بہت زیادہ اونٹوں کی قربانی دی گئی ہو۔

ہم نے کہا جی ہاں! ہمارے ہاں، ہمارے بزرگ حضرت عبدالمطلب کے گھر ان کا دسواں بیٹا عبد اللہ نامی پیدا ہوا۔ والد صاحب کو اس کے جوان ہونے پر اپنی مانی ہوئی منت پر ایسا واقعہ ہوا تھا۔

نجاشی نے ہم سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ہم نے کہا اس کے والد صاحب نے آمنہ نامی ایک پاکیزہ عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور وہ نو جوان اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر تجارت کے لئے سفر میں تھا کہ راستے ہی میں انتقال کر گیا۔

نجاشی نے پھر سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ ابھی تک اس کے بچے کی ولادت باسعادت ہوئی ہے یا نہیں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اُس کے متعلق آپ کو خبر دیتا ہوں ایک رات میں اپنے بت کے پاس ہی سویا ہوا تھا کہ میں

نے اچانک اس کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز میں یوں کہہ رہا تھا۔

وُلِدَ النَّبِيُّ فَذَلَّتِ الْأَمْلَاقُ
وَنَامَى الضَّلَالُ وَأَذْبَرَ الْأَشْرَاقُ

یعنی نبی پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ولادت باسعادت ہو گئی اور بادشاہ ذلیل و رسوا ہو گئے، گمراہی دور ہو گئی اور شرک پیٹھ پھیر گیا۔

پھر وہ بت منہ کے بل گر گیا۔ زید بن عمرو نے کہا اے بادشاہ! میرے پاس بھی اسی طرح ایک تعجب خیز خبر ہے۔ میں اُس رات اپنے گھر سے نکل کر کوہ ابو قیس کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے مکہ معظمہ کی طرف دیکھا۔ میں نے ایک ایسے آدمی کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا جس کے دو سبز پر تھے۔ اس نے کوہ ابو قیس پر کھڑے ہو کر مکہ معظمہ کی طرف دیکھا اور کہا ”آج شیطان ذلیل و رسوا ہو گیا۔ بت جھٹلا دیئے گئے اور امین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پیدا ہو گئے“

اس کے پاس ایک کپڑا بھی تھا اس نے اس کپڑے کو مشرق تا مغرب پھیلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے نیچے ہر چیز روشن ہو گئی۔ کائنات میں اتنا زیادہ نور پھیل گیا کہ میری آنکھیں اُس نور کو برداشت نہ کر سکیں چندھیا گئیں۔ یوں لگا جیسے بصارت ختم ہو گئی ہے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، گھبرا گیا۔

اُس ہاتف غیبی نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا حتیٰ کہ وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر گر پڑا۔ اس سے ایک نور نکلا۔ جس سے تہامہ جگمگا اٹھا اور اس نے کہا، آج سے زمین پاک ہو گئی، زمین پر آج بہار آگئی، اس نے کعبہ معظمہ میں موجود تمام پتھروں کی طرف اشارہ کیا اور تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔

نجاشی نے کہا اب میں تم کو بتاتا ہوں میں نے اک رات کیا خواب دیکھا۔ میں اُس رات اپنے محل میں اکیلا سویا ہوا تھا کہ اچانک زمین میں سے ایک سر اور گردن ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا اصحاب فیل کے لئے ہلاکت اتر آئی۔ ان پر ابابیلوں نے

کنکریاں برسائیں۔ حد سے تجاوز کرنے والا، مغرور کٹی ناک والا ہلاک ہوا۔ النبی
الامی الہکی الحدی کی ولادت باسعادت ہوئی جس شخص نے ان کی آواز پر لبیک
کہا وہ سعادت مند ہوا جس نے ان کی دعوت سے انکار کیا سرکش اور باغی بن گیا۔

پھر وہ سر اور گردن زمین میں غائب ہو گیا۔ میں نے یہ خوفناک منظر دیکھ کر
چیننا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھ میں گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی۔ میں نے کھڑا
ہونے کی کوشش کی لیکن میں کھڑا نہ ہو سکا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے اہل خانہ
میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہاں حبشہ سے کہیں دور لے چلو۔
تا کہ میں اسے نہ دیکھوں وہ مجھے حبشہ سے دور ایک مقام پر لے گئے۔

برا آکھدے نے یا بھلا آکھدے نے
خدا جانے کی کی بھلا آکھدے نے
میں عرشوں وی دو گٹھاں اچا ہو جانا
جدوں مینوں تیرا گدا آکھدے نے

خوید ضمیر کے بت کی کہانی

ہم پتھر کے صنم سہی، صنم تو ہمیں، اُس انسان نے بنایا جس کی خدمت کے
لئے ہمیں پیدا کیا گیا تھا اور جس عظیم شخصیت کی خاطر یہ کائنات کا خوبصورت کھیل
عمل میں آیا۔ وہ ان تمام انسانوں کے سربراہوں، سرداروں، آقاؤں، مولاؤں،
ولیوں، غوثوں، قطبوں، صلحاء، علماء، محدثین و مفسرین صحابی تابعی نبی رسول اور
رسولوں کے سردار ہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم تو حقیقتاً ان کے
بے دام غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کی خدمت انہی سے محبت اور انہی کی
اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کی خاطر ہم سب انسانوں کے خادم ہیں۔

میں سارے گھردی نو کر دے اک تیرے دم بدلے

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہم آپ کی فوج کے ادنیٰ

سپاہی، اگرچہ بت خانہ کی جھوٹی مسند پر بھگوان بنے بیٹھے تھے۔ ان کے مشن کے پھیلانے میں ہم کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ہم نے اپنی سی کوشش جاری رکھی۔ ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں ورنہ جس طرح ہم عاد و ثمود پر برسے تھے اور جس طرح عاد و ثمود کی طرح کئی قوموں اور ان کی نسلوں کے نام تک صفحہ ہستی سے مٹا سکتے تھے جیسا کہ اہل مکہ نے کہا بھی کہ **أَمْطَرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ** کہ اے محمد ہم پر بھی آسمان سے پتھر برسا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں روک رکھا تھا اگرچہ وہ اسی قابل تھے، لیکن ہم بھی کسی کے حکم کے پابند تھے۔ اس لئے جو ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم کر گزرے۔

ایک دن خویلد ضمیری اور اس کے کچھ دوست بڑے احترام سے میرے حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا لوگو! آسمانوں سے باتیں حاصل کرنا، اب بند ہو گیا ہے، اب اوپر جانے والوں پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ مکہ معظمہ میں ایک نبی ظاہر ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام ”احمد“ مجتبیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب اُس کا دارالہجرت ہے۔ نماز و روزہ نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔

وہ سب میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں یقین ہو گیا۔ جو کچھ میں نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں اور ان کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

نام اُن کا جولب پہ آئے تو قدسی چو میں لبوں کو بڑھ کر

سجی جو محفل حبیب رب کی تو قدسیوں کی قطار آئی

(ظفر چشتی)

قبیلہ بنی سعد کا بت خانہ

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش بخت اور بلند بخت عورت تھیں۔

ان دنوں قحط سالی سے پورا قبیلہ ہی متاثر تھا۔ البتہ حارث کے قبیلے کا حال کچھ زیادہ ہی پتلا تھا۔ مکہ معظمہ میں اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے بڑے خاندانوں کے لوگ صاحب حیثیت و ثروت چاہا کرتے تھے کہ ہمارے نومولود کو اگر کوئی بنی سعد کی عورت دودھ پلائے تو بات بن جائے۔ اس لئے کہ بنی سعد کی عورتیں بڑی جواں ہمت، خوبصورت، پاکیزہ نظر و پاکیزہ ذہن و فکر ہوا کرتی تھیں اور یہاں کی زبان بھی شستہ پاکیزہ اور فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی تھی۔

جن دنوں ہمارے حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد پذیر ہوئے۔ موسم بہار تھا اور اسی موسم میں ہمارے قبیلے کی عورتیں ایک قافلہ کی صورت میں مکہ جایا کرتی تھیں اور ہر عورت کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی امیر ترین گھرانے یا کسی رئیس کا بچہ مل جائے اور اس کو دودھ پلایا جائے اور انعام و اکرام بھی جی بھر کے ملے۔

اس بہار کے موسم میں جبکہ ابھی اصحابِ فیل کا واقعہ ہوئے چھ سات ماہ ہی ہوئے تھے، قبیلہ بنی سعد کی عورتیں بھی بن ٹھن کے زیب و زینت کر کے، خوش وضع و خوش لباس ہو کر مکہ پہنچیں۔ یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ صرف اس لئے ہوتی تھی کہ بچہ سپرد کرنے والوں کو احساس ہو کہ ہمارا بچہ ان کے ہاں جا کر کوئی الٹا بھوکوں نہ مرنے لگا۔ حلیمہ سعدیہ ان کے خاوند حارث بھی اسی قبیلہ میں شامل تھے لیکن غربت کی وجہ سے ان کی اپنی حالت بھی کوئی اتنی اچھی نہ تھی اور ان کی اونٹنی سواری بھی بڑی کمزور سی تھی۔ اس لئے سفر میں اپنے ہم سفروں سے پیچھے رہ گئے۔ یہ قافلہ رہ رہ کر دل میں پیدا ہوتا تھا کہ سب عورتیں امراء و رؤسا کے بچے لے لیں گی اور ہم غریبوں کے حصہ میں کیا آئے گا۔

آپ جب مکہ معظمہ پہنچیں حالات کا جائزہ لیا تو ان کی ہر سہیلی نے یہی جواب دیا اب پورے مکہ میں صرف ایک ہی بچہ ہے جو ہے تو بڑے خاندان کا اس کا دادا بھی پورے مکہ میں بڑی شان والے ہیں لیکن بچہ ہے یتیم، پتہ نہیں وہاں

سے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ قسمت آزمائی کر کے دیکھ لو خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ خواہ یتیم ہی ہو گود لے ہی لینا چاہئے۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا تو یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے۔ یہی بچہ اگر مل جائے تو دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم کمزور یا یتیم سمجھ کر لے کر جائیں اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دن بھی پھیر دے۔

حلیمہ سعدیہ بچہ دیکھنے گھر گئیں۔ دادا جان نے انٹرویو لیا خوش ہوئے۔ آپ نے بچہ دیکھا تو دیکھتے ہی لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ اس شیر خوارگی کی عمر میں حسن و جمال کا شاہکار بچہ تو کبھی نظر سے گزرا ہی نہ تھا۔ پھر حلیمہ نے سوچا کچھ نہیں۔

بچہ گود میں لیا، سینے سے چمٹایا، ٹھنڈ پڑ گئی، خشک دودھ کے سوتے، نہ جانے کہاں سے پھوٹ پڑے، حلیمہ کی چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ معاملات طے کئے، گھر سے باہر کھڑے اپنے خاوند حارث کو بچہ دکھایا۔ وہ پہلے ہی مایوسیوں کے گہرے غار میں گڑے ہوئے تھے۔ شاید ہماری حالت دیکھ کر کوئی ہمیں بچہ دیتا بھی ہے یا نہیں لیکن جب بچہ دیکھا تو سر سے پاؤں تک نہال ہو گئے۔

جھونپڑی میں آئے، برکت بھی ساتھ ہی آ گئی۔ حلیمہ کا بیٹا عبداللہ جو بھوک کی وجہ سے ہر وقت روتا ہی رہتا تھا، اُس نے ماں کی چھاتی بھری دیکھی تو خوب سیر ہو کر پیا، وہ تو دل ہی دل میں اپنے گھر آنے والے نئے مہمان بھائی کو دعائیں دیتا ہوگا۔ پیٹ بھر کر دودھ پیا اور چین کی نیند سو گیا۔ دردِ دل تھم گیا نیند آ گئی پروانے کو۔ دو ایک روز سستانے کے بعد واپسی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حلیمہ نے سوچا جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا جائے۔ حجرِ اسود کو بوسہ دے لیا جائے اور بچے کو حجرِ اسود کا بوسہ دلایا دیا جائے جو نہی وہ حضورِ سراپا سرور و نور و ظہور کو لے کر حجرِ اسود کے قریب گئیں حجرِ اسود تو بڑی آنکھوں والا ہے۔ ہم بھی پتھر ہیں اور وہ بھی پتھر بلکہ ہم تو پوجیے جاتے ہیں ہمیں جھوٹی مسندِ خدائی پر بٹھایا گیا ہے لیکن صحیح

پوچھیں تو اس کا مقام بہت بلند ہے۔ حضور تو شاید پہلی بار حدودِ کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ حجرِ اسود نے پہلی نظر ہی میں پہچان لیا کہ یہ تو وہ محبوبِ کائنات ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے کعبہ اور حرمِ کعبہ کو پاک کرنا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ بلند کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت حلیمہ آپ کو حجرِ اسود کا بوسہ لینے کے لئے آگے کو جھکیں۔ حجرِ اسود خود باہر نکلا، اس نے تمام زنجیریں توڑیں اور باہر نکل کر آپ کے چہرہ انور کے بوسے لینے شروع کر دیئے۔

لوگ جائیں حجرِ اسود چومنے

اور حجرِ اسود نے تیرے بوسے لئے

حلیمہ ابھی ناواقف تھیں کہ یہ بچہ کون ہے۔ کس شان اور مرتبے کا حامل ہے۔ البتہ اس کے مبارک سینے سے اُبلنے والی دودھ کی دھاریں جانتی تھیں۔ اُس کی مریل سی سبز رنگ کی گدھی بھی جانتی تھی کہ کلبہ افلاس کو ہمیں رشکِ ثریا کرنے والا آ گیا ہے۔ اس کی کمزور اور لاغر اونٹنی بھی جانتی تھی کہ مجھ پر سواری کرنے والا عرشِ الہی کا مہمان ہے جس کی ادنیٰ سی سواریاں براق اور رُفرف ہیں۔ اونٹنی نے بزبانِ حال عرض کیا ہوگا۔ کریم آقا! میں براق نہیں بن سکتی۔ میں رُفرف نہیں ہو سکتی لیکن اپنے وقت کی جتنی طاقتور سے طاقتور اونٹ اور اونٹنیاں ہیں میں ان سب سے تیز تو چل سکتی ہوں۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے خاندانِ بنی سعد میں سب سے کمزور ترین گھرانے کو رشکِ عرشیاں بنانے کے لئے تشریف لائے ہیں۔

قبیلہ بنی سعد میں تشریف لائے ہوئے سال دو سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لئے تشریف لے جانے لگے۔ قدرت تو اس لالہ کی خود اپنے پروگرام کے مطابق حنا بندی فرما رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر آپ کے بھائیوں کی آنکھوں سے او جھل کہیں اور لے گئے۔

آپ کا آنکھوں سے اوجھل ہونا تھا کہ بھائیوں کے لئے مسئلہ بن گیا۔ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیا۔ جب ناکامی ہوئی تو روتے ہوئے گھو آئے اور اپنی ماں کو حلیمہ سعدیہ کو بتایا امی جان قریشی بھائی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ بڑی تلاش کی لیکن مل نہیں پارہے۔

سیدہ حلیمہ کی تو جیسے جان نکل گئی، روتی چیختی چلاتی باہر نکلیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی اس گھر میں دیکھ، کبھی اس گھر میں دیکھ، بچہ کوئی عام سا ہو تو دنیا اس کے لئے بے چین ہو جاتی ہے۔ ایسے قریشی بچے کے لئے جو مہمان بھی ہو، خاندان کو زندگی کی رعنائیاں عطا کرنے والا ہو، گھر بھر کی ساری دودھ کی گاگریں بھرنے والا ہو، شب بھر جس کے چہرے کے نور سے سارے گھر میں اُجالا ہو۔ اس کے گم ہونے کی خبر سن کر بھلا کس کا دل ہاتھ میں نہ آیا ہو گا۔ اپنے بیگانے سب پریشان تھے اور تلاش میں ہر شخص اپنی اپنی سی کوشش میں مصروف تھا۔

کسی نے کہا چلو معبد میں چلتے ہیں۔ بتوں کے حضور گھٹنے ٹیکتے ہیں کوئی منت مانتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور بت خانے چلے آئے۔ بت خانے میں ہماری خدمت پر مامور پروہت کو جا کر سارا واقعہ سنایا۔ اُس نے بچے کا نام پوچھا، بتایا گیا بچے کا نام محمد ہے۔ قریشی ہے ہاشمی ہے مکہ معظمہ کے ایک رئیس کا بیٹا ہے۔ اور یتیم ہے یہ سب کچھ بتانا دراصل بچے کی اہمیت کا احساس دلانا تھا تا کہ وہ ذرا زوردار طریقے سے اس کی ہمارے ہاں سفارش کرے۔

حلیمہ نام بتا رہی تھیں تعارف کر رہی تھیں، ہمارے بھی کان کھڑے ہوئے، محمد، عربی، قریشی، ہاشمی، شریف گھرانے کا سرسبد، یتیم ہم نے سوچا ہو نہ ہو یہ تو وہی ہے جس نے ہمیں اس جھوٹی خدائی سے نجات دلانی ہے۔ سبحان اللہ ہم تو مچل گئے، مکہ معظمہ سے اتنی دور، ہماری قسمت کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں اُن

کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔

خیر وہ ہمارے پاس آیا حلیمہ، حلیمہ کا خاوند حارث، ان کے بچے، کچھ رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کے ہمدرد و پیار کرنے والوں کا ہجوم، سب کے چہرے افسردہ تھے جو نبی اُس نے ہمارے سامنے آپ سرکار کا ذکر کیا اور کہا۔

زیں ز نے فرزند طفیلے گم شدہ است

نام آں کودک محمد مصطفیٰ ﷺ است

(کہ اس عورت کا ایک بچہ تھا، گم ہو گیا ہے اور اس بچے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔) بس اس کا ہمارے سامنے نام لینا تھا کہ ہم سب معبد کے بت اسی وقت نام نامی اسم گرامی سن کر جھک گئے۔

چوں محمد ﷺ گفت آں جملہ بتاں

سرنگوں گشتند ساجد آں زماں

(بس نام نامی لینے کی دیر تھی کہ سارے بت اسی وقت سجدے میں گر گئے۔)

ہم نے اس کہنے والے کی تو کوئی پرواہ نہ کی البتہ خوش بخت و بلند بخت حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے ہم میں سب سے بڑے بت نے تسلی دیتے ہوئے مستقبل میں اس بچے کے بلند مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔

غم مخور یا وہ نہ گردد اوز تو

بلکہ عالم یا وہ گردد اندر و


حلیمہ غم نہ کر، آزرده نہ ہو، ایسے بچے گم ہونے کے لئے نہیں آیا کرتے اور نہ وہ تم سے کبھی ان ہونی راہوں میں گم ہوگا بلکہ ایک وقت آنے والا ہے۔ ساری کائنات، سارا جہاں اور سارا عالم، اُس میں گم ہو کر رہ جائے گا۔

کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، ہم تو پہچان گئے تھے۔ ان کی محبت کی چنگاری جو ہمارے اندر سلگ رہی تھی وہ تو چمک اٹھی اور ہم نے اشارۃً

کنایہ ان کے مستقبل میں ہونے والے مقام کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ عقل مند
را اشارہ کافی است۔

ایسی نقش ہوئی دل وچہ اوہدی تصویر
ہن نظراں چہ سوہنا کوئی چچدا ای نہیں
دل سوہنے دے نظارے کولوں رجدا ای نہیں
اوہدے ورگاتے سوہنا کوئی لبھدا ای نہیں

ایک ہنڈیا کی کہانی

آپ سن کر پڑھ کر حیران نہ ہوں۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی
بچہ پیدا ہوتا تو اس پر ایک ہنڈیا بوندھی کر کے رکھ دیتے تاکہ لوگوں کی نظر بد سے
بچا رہے۔ جب ہادی اعظم جن وانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد فرما ہوئے تو عرب
کے رواج کے مطابق مجھے اٹھایا اب  سارے زمانے کو یعنی رسومات سے
نجات دلانے آیا ہو اس کی اپنی ذات اس قسم کی احمقانہ روایت و رواج کو کیسے
جاری رہنے دیتے۔ ویسے بھی میری کیا حیثیت تھی کہ میں حضور کو نظر بد سے بچاتی،
مجھ پر کپچی طاری ہوئی اور شرم و ندامت سے ٹوٹ پھوٹ گئی۔

اس روایت کے راوی داؤد بن ابی ہند ہیں۔ (دلائل النبوة ص ۱۲۶)

بصرہ کے ایک درخت کی حضور سے محبت و پہچان

لَا تَعْصُ لَهٗ أَمْرًا وَلَا تَخَالِفُ لَهٗ رَأْيًا اے میسرہ! تم نے نہ تو ان کے کسی
حکم کی نافرمانی کرنی ہے اور نہ ہی کس رائے سے اختلاف کرنا ہے۔ گویا سیدہ
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی عظمت کی، دانش کی، صلابت فکری کی پہلے ہی
معترف تھیں کہ ان کے کسی حکم کی نافرمانی اور کسی بھی رائے سے اختلاف، کسی
صورت گوارا نہیں!

یہ پہلا واقعہ تھا، آغازِ تعلقات کا ۲۳ یا چوبیس سال کا ایک نوجوان اور ۳۸ یا ۳۹ سال کی ایک منجھی ہوئی عورت، مال و دولت، وجاہت، شان و شوکت، جہاں دیدہ، عزت و آبرو کی مالک، یہ ساری نعمتیں اس کے گھر میں تھیں۔ اپنے شباب کے عالم میں یکے بعد دیگرے دو خاوند دیکھ چکی تھیں۔ صاحبِ اولاد تھیں۔ ان شوہرانِ گرامی کی وفات کے بعد کئی شرفاء مکہ کی طرف سے دعوتِ نکاح و عقد رد کر چکی تھیں۔ گویا اب زندگی کے اس روپ سے دل بھر چکا ہے اور باقی زندگی، کاروبار حیات میں دلجمعی کے ساتھ گزارنے کا پروگرام ہے یا صرف خدمتِ خلق۔ اس تصور کے ساتھ، مکہ معظمہ، ایک چھوٹا سا شہر، گنے چنے لوگ، باہم خاندانی تعلقات، کسی نہ کسی رابطے سے کوئی نہ کوئی رشتہ و واسطہ، خاندانی مراسم و تعلقات، اس ماحول میں ایک نوجوان سارے مکے کی فضا میں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے ہر چھوٹا ہر بڑا اپنا و بیگانہ اسے دیکھتا ہے۔ اس کی ہر عادت میں ایک انوکھا پن اور نرالا انداز اور اس کی ہر ادا میں پاکیزگی، شرم و حیاء، صداقت و امانت، نظروں کو خیرہ کرتی ہے جو بھی دیکھتا ہے عقیدت نہ سہی، یک گونہ پیار اور عظمت کا تصور لے کر گزرتا ہے پھر اس کی طرف جھکتا ہے۔ بچپن بھی نکھرا ہوا تھا، کھیل نہ کود، ابھرتی جوانی گواہ تھی، نظر کی خیانت، زبان اور گوش ہوش کا تقدس، گواہ تھا کہ کہیں بھی ہلکا پن نظر نہ آتا تھا۔ یہ بات بڑوں تک بھی پہنچی۔ لوگوں میں چہ میگوئیاں، گھروں میں، گلیوں میں، چوکوں کے پاتالوں میں، ادھر ادھر، مجالس و محافل میں، کبھی سنجیدگی سے، کبھی اُچھتے ہوئے، لوگ باتیں کرتے، عجیب نوجوان ہے۔ اس کا ہر رنگ، مکے کے ہر لڑکے والے ہر جوان سے علیحدہ رنگ ہے۔ نہ ایسا کوئی لڑکا، باادب دیکھا ہے اور نہ اتنا کوئی سنجیدہ، ہاشمیوں کے سرفخر سے تن جاتے اور دستاروں کے شملے ذرا اور اونچے ہو جاتے۔

رفتہ رفتہ یہ ذکر بڑی بوڑھی عورتوں تک بھی پہنچا۔ عورتیں باہم بیٹھیں تو اس

نوجوان کی کہانی، کسی نہ کسی انداز میں چھڑ جاتی، خدیجہ بھی سنتی ہی رہتی تھیں۔ سوچا
ایسا ہی نوجوان، امانت دار اور سچا جب کوئی اور ہے ہی نہیں تو کیوں نہ، اس دفعہ
اپنے کاروبار میں شریک کر لیا جائے۔

پیغام بھیجا، باہمی گفتگو، لین دین کی شرائط، اعتماد و بھروسہ، ساز و سامان، خرید
و فروخت، تقریباً ہر موضوع، زیر بحث آیا۔ حضرت ابوطالب کی اجازت سے
مشروط معاملات طے پائے۔ چچا جان نے اجازت دیدی۔

قافلے تیار ہونے لگے۔ ہردو جانب، سامان رسد، سامان تجارت اور سامان
سفر باندھا جانے لگا۔ خدیجہ نے اپنا ایک تجربہ کار اور بااعتماد غلام میسرہ کو ساتھ تیار
کیا لیکن اس کو دی گئی ہدایات کا ایک ایک حرف گواہ ہے کہ یہ غلام نگرانی کے لئے
نہیں تھا۔ غلامی کے لئے تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میسرہ! لَا تَعْصِ لَهٗ أَمْرًا وَلَا
تَخَالِفْ لَهٗ رَأْيًا ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو اور نہ ان کی کسی رائے سے
اختلاف ہو۔

اے میری ماں خدیجہ! اے ساری کائنات کے باشعور انسانوں کی پہلی ماں۔
ام المؤمنین تیرے انتخاب اور تیرے اعتماد پر ہزار ہا سلام ہوں۔ تیرے اعتماد کا،
ایک ایک حرف میری آنکھیں ٹھنڈی کر گیا ہے۔

حضرت ابوطالب نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کچھ مشورے دیئے
ہوں گے لیکن جو من جانب اللہ پڑھ کر آتے ہیں وہ دوسروں کے اسباق کے محتاج
نہیں ہوتے۔

حضرت خدیجہ کا مال تجارت، مکے کے سارے تاجروں کے برابر تھا، یعنی اس
سفر تجارت دنیا میں بھی ہر تاجر سے آپ کا نام اونچا نکلا۔

بادل کی حضور سے محبت

بڑی شان و شوکت سے سفر شروع ہوا۔ چند روز گزرے ہوں گے کہ میسرہ

نے محسوس کیا کہ جب بھی دوپہر کو قافلہ چل رہا ہوتا ہے لوگ سورج کی دھوپ اس کی تمازت اور شدید گرمی کا شکوہ کرتے ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ آخر ایک دن غور کیا اوپر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا، میسرہ کے مقدر پہ ناز کرتے اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے بولا تو تو نہ جانتے ہوئے اتفاقاً ان کا غلام ہو گیا ہے اور تجھے اس سفر میں ان کی چاکری نصیب ہو گئی ہے لیکن مجھے تو خبر ہے یہ کون ہیں۔ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ مجھے بھی فخر ہے کہ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ سارے سفر میں جاتے جاتے آتے آتے، ہاں! سارے سفر میں دھوپ کی ایک کرن بھی ان پر نہیں پڑنے دوں گا۔ گرمی کے بجائے ان تک ٹھنڈی چھاؤں کا سایہ کرنا میرے فرائض منصبی میں شامل ہے اور ان کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ ٹھنڈک تجھے بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ انشاء اللہ

درخت کی حضور سے محبت

قافلہ چلتے چلتے شام کے ایک شہر بصرہ میں جا ٹھہرا۔ سامان اتارا گیا اونٹوں کو ادھر ادھر باندھ دیا گیا۔ خیمے لگ گئے، لیکن آپ نے اپنے لئے وہاں ایک قدیم۔۔۔ درخت کے نیچے ٹھہرنا پسند کیا۔ آج سے دس بارہ سال پہلے بھی، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت میں اسی درخت کے نیچے ٹھہرنے کو پسند فرمایا تھا جس کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہ جاتے تھے۔

ہر نظر انداز کی ہوئی چیز آپ کو فطرتاً پسند تھی۔ درخت دس بارہ سال پرانی چند دن کی رفاقت کی لذت سے سرشار تھا اور وہ منتظر رہتا ہوگا۔

وہ تشریف لائیں یہ ان کا کرم ہے

یہ گھر ہے کہاں ان کے آنے کے قابل

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز بھی اس میں پوشیدہ تھا۔ یہ درخت، ایک

عیسائی صومعہ یعنی عیسائی عبادت گاہ کے قریب تھا۔ اس درخت کی اہمیت، اس عبادت گاہ صومعہ کے عالم کی نظر سے مخفی نہ تھی۔ اس وقت وہاں کے انچارج عالم دین بحیرہ تھے اور اب کے سفر کے وقت اُس صومعہ کے نگران اور انچارج عیسائی عالم دین حضرت نسطورہ تھے۔

حضرت بحیرہ نے بھی پہچان لیا تھا کہ یہ پیارا سا نیا راسا بچہ کون ہے۔ اس کی شان و منزلت کیا ہے۔ صرف اسی کی خاطر پورے قافلہ کی خود صومعہ سے باہر آ کر دعوت کی تھی اور حضرت ابو طالب کو ان کے مرتبہ سے آگاہ کرتے ہوئے آگے سفر سے رکنے پر مجبور کر دیا تھا اور یہیں سے آپ واپس لوٹ آئے تھے۔ حضرت نسطورہ نے بھی آپ کو پہچان لیا تھا یہ درخت، اپنی بوسیدگی کی چھاپ اور گہری کر لیتا ہوگا کہ یہ مسند صرف ایک عرش کے دولہا کے لئے بچھا رکھی ہے۔ کوئی اور نہ یہاں آ کے بیٹھے۔ وہ ہر لمحہ اسی انتظار میں رہتا ہوگا کہ عرش الہی کا راہی کب اس راہ سے گزرے گا جس کے انتظار میں میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔

دن تیرے خیالاں وچہ لنگھدا، راتیں سوواں تے تیرے سفنے نے

تیری یادِ بناں میرے چن سجا، جیہڑا ساہ آیا اوہ حرام آیا

حضرت نسطورہ نے میسرہ کو بلا بھیجا اور میسرہ سے پوچھا۔ میسرہ! یہ شخص جو تیرا

آقا ہے۔ صحیح صحیح بتا یہ کون ہیں۔ میسرہ نے کہا، ان کا نام محمد ہے۔ (صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم) ان کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبدالمطلب، دونوں کا

وصال ہو چکا ہے۔ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں۔

حضرت نسطورہ نے کمال عقیدت و محبت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جو

قبول ہوگئی جب آپ سے اس راہب کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، آداب بجالایا

اور کہا۔

اٰمَنْتُ بِكَ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي التَّوْرَةِ
فَلَمَّا رَاى خَاتَمَهُ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ اشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
الَّذِي بَشَّرَكَ بِعِيْسَى

یعنی میں آپ پر ایمان لایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی شخصیت
ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں کیا ہے۔ پھر جب اس
نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت مبارک دیکھی تو اس کو
بوسہ دیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی
امی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
بشارت دی تھی۔

بحیرہ راہب اور نسطورہ کے مقدر جاگے اور وہ درخت بھی۔ محبت رسول میں
جھوم جھوم گیا۔ وہ آپ کو پہچان گئے۔ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ اس پہچان کے
ساتھ ساتھ۔ آپ کی تصدیق بھی کی۔ ایمان بھی لائے اور بشارتوں کا ذکر کیا، ان
کی پہچان، ان کی تصدیق اور ان کی شہادت۔ کو سلام بارہا سلام، درخت کی جڑوں
سے لے کر اس کی ہر شاخ کو ہر ٹہنی کو، ہر تنے کو، اس کی بوسیدگی کو اور اس کی
صدیوں سے انتظار کی ہر گھڑی کو سلام۔

تعلق ہے مرا ہل نظر کے اُس قبیلے سے
خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے

اٰک جہاں واقف ہے مجھ سے کیا بتاؤں اپنا نام
مجھ کو کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا غلام
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم

منبر رسول اور استن حنانہ

اسمِ جامد کہتے ہی اس کو ہیں، جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی چیز بنائی جاسکے۔ جیسی چیز ہے، جہاں ہے، پڑی ہے، پڑی رہے۔ گویا اس کو کسی کی غرض، نہ اس سے کسی کو غرض، اس کی مثال میں، پتھر، ریت، بجر، ذرے، دیوار، چھت، لکڑی اور اس قسم کی دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ علم، عقل، تجربہ، فہم و فراست، غور و فکر اور نہ جانے کیا کیا۔ اسی عقل، علم اور تجربہ سے انسان نے ہمیں جمادات میں شامل کیا ہے۔ انسان کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

لیکن اگر انسان تاریخ، سیرت، قرآن، حدیث کی ثقہ کتابوں کا مطالعہ کرتا، اور جس طرح اپنے زندہ ہونے، اپنے جذبات کے اظہار، اپنی طرف سے محبت کرنے اور نفرت کرنے اور ٹپنے، پھڑکنے، گلے لگانے، دور ہٹانے کے واقعات کا اظہار کر چکے ہیں۔ کسی کے دور ہونے پر جدائی برداشت نہ کر سکنے، رونے دھونے، آنسو بہانے اور کسی کو سینے سے لگانے پر مجبور کرنے کے جو انداز ہم نے اختیار کئے ہیں۔ کسی کے قریب آنے پر، فرحت و مسرت سے رقص کرنے اور جھومنے کا اظہار کر چکے ہیں، ان تمام واقعات کو پڑھتا، تو شاید جمادات ہونے کا طعنہ نہ دیتا۔

میں ایک لکڑی کا تھم تھا۔ مسجد نبوی شریف میں دو چولوں پر کھڑا رہتا تھا۔ پتہ نہیں، کس کرم فرمانے مجھ پر احسان کیا، مسجد نبوی شریف تعمیر ہوئی اور خشک کٹی ہوئی کھجور کے تنے کو اٹھایا اور لا کر عین مصلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔

میرے مقدر پر، یقیناً عرشِ اعظم بھی ناز کرتا ہوگا۔ وہ عرشِ الہی ضرور ہے لیکن

میرا مولا، میرا خالق و مالک، تو اس پر بیٹھنے، اس کا سہارا لینے، سے بے نیاز ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں تخلیق کیا اور عرشِ الہی پر کون جلوہ فرمائے گا لیکن میرے ساتھ تو عرش کا دولہا، جب چاہتا، کرم فرماتا، آ کر کھڑا ہو جاتا، میرے ساتھ ٹیک لگا لیتا۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔

جھلے لوگو! جو دنیا کی بے سہارا چیز کا سہارا بن کر تشریف لائے۔ بے چاروں کے چارہ بن کر تشریف لائے، انہیں میرے سہارے کی ضرورت تھی؟ وہ تو مجھ مردہ کو زندگی بخشنے آئے تھے اور مجھ مردہ کو زندہ فرما دینے آئے تھے۔ یہ کرم کی بہار ایک عرصہ رہی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ہر چیز فانی ہے۔ میری بہار پر بھی خزاں آنے کا وقت آ گیا۔

مسجد نبوی شریف میں جاٹھاروں کی، پروانوں کی، غلاموں کی، تعداد بڑھنے لگی، ارشادات کا سلسلہ بھی طویل ہونے لگا۔ دیر تک سرکارِ دو جہاں کو کھڑا رہنا پڑتا۔ آپ کے غلاموں میں ایک صاحب حضرت عباس بن سہل بڑھئی یعنی کارپینٹر ترکھان تھے۔ لکڑی کا کام خوب جانتے ہوں گے۔ انہوں نے ایک دن یہ تجویز پیش کی۔ کریم آقا، جب آپ وعظ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو جو ہم میں سے دور ہوتے ہیں، وہ دور ہونے کی وجہ سے زیارت سے محروم رہتے ہیں۔ دوسرا آپ کو دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں لکڑی کا منبر بنا کے لے آؤں۔ جس کے اوپر بیٹھ کر آپ وعظ و نصیحت فرمائیں۔ کریم آقا نے ان کی اس جائز پیش کش کو قبول فرمایا اور منبر بنانے کی اجازت عطا فرمادی۔ منبر بن گیا۔ یار لوگوں نے، بڑے چاؤں کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ كِي شَانِ وَالْخَطِيبِ،

خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے۔

میرے لیے جدائی کا یہ پہلا لمحہ تھا۔ یہ فراق برداشت نہ کر سکا۔ چیخ اٹھا، محفل پاک میں بیٹھنے والوں حضرت عباس بن سہل بن سعد الساعدی، حضرت مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، میری کہانی بیان کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، میں یوں رو رہا تھا جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور ماں مامتا کی ماری بچے کے فراق میں سارے زمانے کو رلا دینے کا انداز اختیار کر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ یا میں روتے ہوئے بیل کی طرح آواز نکال رہا تھا۔

ماں کو تو شاید کبھی صبر آ ہی جاتا ہوگا، میں تو شاید تا قیامت صبر نہ کر سکتا۔ میری تو چیخیں نکل گئیں، میرا کلیجہ اور جگر پھٹ گیا۔ میں رو بھی رہا تھا، فریاد بھی کر رہا تھا، اور کہہ بھی رہا تھا

کششے کہ عشق دارد نہ گذاردت بدنیسا

بجنازه گر نہ یائی بہ مزار خواہی آمد

اے میری زندگی کی ہر تار کی زندگی، میرے عشق میں، میری طلب میں، اور میری چاہت میں، وہ کشش ہے کہ آپ کو چھوڑے گی نہیں اگر آپ میرے جنازے پر نہ آئے تو آپ کو میرے مزار پر ضرور آنا ہی پڑے گا۔

تک پتری والیا لیکھ میرے

میرے ہتھ وچہ ونگیاں لیکاں نے

کدوں دل دا محرم آوے گا

یا لمیاں ہور تریکاں نے

قربان جاؤں، آپ کی محفل میں بیٹھنے والوں نے بھی میری زاری سن لی۔

دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے والے ماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سنی ہی سنی تھیں، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ کے دردی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے

اترے۔ مجھے کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا، جذبات کا عرصہ اگرچہ لمحوں تک محدود تھا، لیکر میرے لیے تو ایسا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ پناہ بے کساں کی پناہ

میں آ رہا، تو میری بندھی ہوئی گھگی سسکیوں میں بدل گئی۔ دردِ دل تھم گیا۔ نیند آ گئی پروانے کو۔

باخبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے رونے کا سبب کیا پوچھنا تھا۔ اور شاید میں بیان بھی نہ کر سکتا، البتہ آپ نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا: کیا چاہتے ہو، اگر چاہو، تو ایسی جگہ لگا دوں کہ تو پھر تروتازہ ہو جائے اور پھر سے پھلدار ہو جائے اور دنیا تیرے پھل سے فیض یاب ہو اور تیرا یہ فیض قیامت تک جاری رہے۔

عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ پرور، ذرہ نواز، دنیا تو پھر دنیا ہے اور اسے فنا ہی فنا ہے۔ اِقْتَرَبَۃَ السَّاعَةِ کا نقارہ بج رہا ہے۔ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے۔ اگر زندگی بخشنی ہے تو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمادیں۔ لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی بھی مَرَّافَقَتِكَ کی شرط سے مشروط ہے۔ یعنی اس زندگی میں بھی آپ کا قرب حاصل ہو، آپ سے دوری تو عذاب ہے عذاب، خواہ یہاں کی ہو یا وہاں کی۔

میرے کریم نے کرم فرمایا، میں نے آخرت کی زندگی میں آپ کا ساتھ طلب کیا تھا، آپ نے اس زندگی میں بھی اپنے قدموں میں سلا لیا، پھر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ مجھے بے نام و نشان نہ رہنے دیا۔ مجھے قبر بنا کر دفن فرمایا۔ اس پر ایک مینار کھڑا کر دیا۔ جسے دنیا آج بھی استن حنانہ سے یاد کرتی ہے۔

آپ کو یاد ہے کہ آپ تو خطبہ ارشاد فرمانے والے تھے۔ آپ کا خطبہ وحی الہی تھا۔ سبحان اللہ! لیکن درمیان میں ایک دکھی کی فریاد سن کر، خطبہ ہی ارشاد فرمانا بھول گئے اور میرا دکھ بانٹنے لگے، ہاں نبی ہوتا ہی وہ ہے جو رحمة للعالمین ہو۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے، جسے اپنے چاہنے والوں کا دکھ درد بے چین کر دے، بے قرار کر دے اگر آپ یہ کرم نہ فرماتے، میں تو خاک میں مل کر کبھی کا خاک ہو چکا تھا۔ لیکن آپ کے قرب نے لذتِ قرانواں سے سرشار کیا۔ خود تکلیف اٹھانا، دوسروں کو آرام پہنچانا، یہ نبیوں کا اور ان کے جانشینوں کا شیوہ ہے۔

ایک میں ہی اس کا دیوانہ نہیں ہوں دوستو
اس حسین کو جس نے بھی دیکھا وہی شیدا ہوا

عشق

عشق اور محبت پتھروں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ ہاں ہاں! واقعی۔ دنیا کا سب سے سچا انسان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی سچائی کی، اس کی محفل میں بیٹھنے والے عدیم المثال سچے لوگوں نے دی، اور اغیار کے سروں پر اس کا سچ، اس کی صداقت، جادو بن کر چڑھی۔ اگر وہ میری حکایت بیان کرتا ہے تو اس کی سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے باوصف، اگر تو اب بھی گوگلو کی کیفیت میں ہے تو مجھے کہنے دیجئے

تو عشق میں ناکام ہے

تیری محبت خام ہے

تو عشق حقیقی اور مجازی کے چکر میں نہ پڑ۔ عشق، عشق ہی ہوتا ہے، اگر عشق میں آ رہے سے کٹنا، کھال کھنچوانا، صلیب کو خود اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرنا، کوئی سایہ شجر ملے، اور نہ قطرہ آب ملے، تو سمجھ لے، عشق کی سیڑھی چڑھ رہا ہے۔

عشق نگر کی ہوائیں، درختوں کو زرد کرتی ہیں، پتے نوچتی ہیں، دیئے بجھاتی ہیں، چھتیں اڑاتی ہیں اور ریزے ریزے فضا میں بکھیرتے دیکھی ہیں۔

عشق کی دھرتی میں صرف ایک ہی فصل اگتی ہے اور وہ فصل، درد کی فصل ہے، فضا میں سسکیاں بھرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اس راہ میں دیئے جلانے کے لیے جگر کا خون ڈالنا پڑتا ہے اور آگ جلانے کے لیے ہڈیوں کا بالن، بالن پڑتا ہے۔

عاشق پر سونا، حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

میں، مرد پر سونا، حرام ہو جاتا ہے۔

میں نے ایک دن، نیند سے پوچھا، تو عاشق کے گھر میں، کیوں نہیں آتی، کہنے لگی، میرا گھر اس کی آنکھیں ہیں، اور اپنے گھر میں آنے کو، کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن جب کبھی میں کسی عاشق کے پاس آتی ہوں تو اس کی آنکھیں جو میرا گھر ہے اس میں کسی اور کو بسا ہوا دیکھتی ہوں، تو غیرت اور شرم سے واپس لوٹ جاتی ہوں۔

جب عاشق، عشق اور معشوق میں اتحاد ہو جاتا ہے تو مست، ساقی اور شراب سب ایک ہو جاتے ہیں، شاگرد، استاد اور کتاب میں تمیز باقی نہیں رہتی۔

عاشقاں را خود مدرس، حسن دوست

دفتر د درس سبق شاں روئے دوست

عاشقوں کا مدرس و معلم خود محبوب کا حُسن ہوتا ہے۔ عاشقوں کا درس

سبق اور سب کچھ محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔

عاشقاں را پانچ و شش درکار

عشق کو چار پانچ اور سات سے کوئی سرور کار نہیں ہوتا۔ یعنی عاشق، حساب

میں نہیں پڑتا۔ گن گن کے نام لینا، عشق کی توہین ہے، اس کا مقصد، صرف اور

صرف یار میں جذب ہو جاتا ہوتا ہے۔

عشق دے جھلے ای بازی لے گئے

عقلمنداں ایویں عمراں گالیاں

دانہ پانی اور مٹی میں جذب ہوتا ہے، تو سات سو دانے پیدا ہوتے ہیں۔

انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة۔ اگر دل کی زمین میں، اشکوں کے

پانی کا اور یادِ محبوب کا دانہ، کاشت ہو جائے تو عشق کی کار فرمائیاں دیکھ!

ہم بھی کسی کی چاہ میں مجذوب ہو گئے، پھر محبوب، خود، منبر سے اتر، اور

کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا، پھر دردِ دل تھم گیا، نیند آگئی پروانے کو۔

نہیں گر مونس و غم خوار مرا کوئی دنیا میں
تو پھر یہ سر پہ میرے ہاتھ رکھنے کون آتا ہے
کوئی تو ہے جسے احساس ہے ہم غم کے ماروں کا
سفینہ کوئی تو اپنا کنارے سے لگاتا ہے

(شیخ عطاء الرحمن ایڈووکیٹ)

صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم

گوشت، ہنڈیا، آٹا، سالن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور

آپ کی اطاعت

ہم سب ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بے جان، بے زبان، بے حس و بے حرکت، جامد و ساکت، نہ ہوں نہ ہاں۔ اس لیے ہم مکلف بھی نہیں۔ جس طرح آپ مکلف ہیں۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ باختیار ہیں، ویسے ہم باختیار نہیں، آپ کسی کا حکم مانیں، مانیں، نہ مانیں، نہ مانیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم بے زبان، بے جان، بے حس و بے حرکت اور جامد و ساکت ہونے کے باوجود، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی قدم، مالک کی مرضی کے بغیر اٹھ نہیں سکتا، ہر لمحہ حکم خداوندی کے پابند اور منشاء خداوندی کے چاہنے والے ہیں۔

غزوہ خندق میں بھی ہماری بھرپور شمولیت رہی، الحمد للہ، خود جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں آنے والی خوش قسمت کدال کی معجز نمایاں، گزشتہ سطور میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ اس نے کس انداز میں سخت ترین چٹان کو توڑا، پتھر سے نکلنے والے شعلہ جات سے ماحول کو منور کیا کہ شام و فارس اور یمن کے محلات تک نظر آنے لگے اور مستقبل قریب میں ہونے والی فتوحات اور ان ملکوں پر قبضہ کرنے کی چابیاں، کس طرح جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

دست مبارک میں دے دیں۔ یہ سب آپ پر واضح ہے۔

سخت ترین سردی اور جاڑے کا موسم تھا۔ ایمان لانے سے پہلے کا بنی غالب کا ایک سفیہ اور احمق انسان، ابوسفیاں پورے عرب قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ کی ایک چھوٹی بستی پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ خود مدینہ منورہ میں بھی مار ہائے آستین کی کمی نہ تھی۔ اور وہ بھی ہر بہانے، قدمے، سخنے، درہمے، ہر انداز سے کسی نہ کسی صورت ڈنک مارنے کا موقع ہاتھ جانے نہ دیتے تھے۔

جانثارانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام بیرونی سازشوں اور کبیدہ خاطر کی اسباب کے ساتھ ساتھ، بھوک افلاس اور تنگدستی کے عفریت کا مقابلہ بھی کر رہے تھے۔ کم بخت پیٹ کی جوع اور بھوک نے، بڑے بڑوں کے ایمان ہلا کر رکھ دیئے لیکن یہ نہ جانے کس مٹی کے خمیر میں گندھ چکے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی مخالفانہ حربہ، ان کے ایمان کی مضبوط دیوار میں رخنہ نہ ڈال سکا۔ بلکہ اور زیادہ جوش و ولولہ سے کدال چلاتے، اور اپنا اپنا حصہ کھودنے میں سبقت کا جذبہ قابل دید تھا۔ خود جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کیفیات دیکھ کر بڑی رقت کے ساتھ یہ دعائیہ شعر گنگنار ہے تھے

إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْأَخْرَةِ

فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

یعنی بلاشک و شبہ اصل زندگی، تو آخرت کی زندگی ہے، اے میرے

خالق و مالک! تو انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما دے۔

جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نکلنے والی دعا سے

مست ہو کر، خود سرخیلِ انسانیت صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گنگنانے لگے

نَحْنُ الَّذِي بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

یعنی ہم راہِ عشق و محبت و مستی کے وہ مسافر لوگ ہیں جنہوں نے جانِ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں، حق کے کلمے کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتے ہی رہیں گے۔

یہ عجیب کیف و سرور کا عالم تھا۔ بھوک و افلاس سے تین دن سے ایک لقمہ بھی نہ ملنے پر، جسماً نقاہت فطری امر ہے۔ لیکن قلباً اور ایماناً پختگی کے انتہائی عالم میں بھی اپنے اپنے حصہ کی خندق، ذوق و شوق سے کھود رہے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو دیکھ دیکھ مسرور ہوتے اپنے ایک غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

اے ہمارے رب کریم! اگر آپ مہربانی نہ فرماتے تو نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے نہ صدقہ و خیرات کرتے اور نہ ہم نماز ادا کرتے۔

فَأَنْزِلْ لَنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا

وَتَبَيِّتْ أَقْدَامَنَا إِنْ لَا قِيْنَا

اے اللہ تعالیٰ! ہم پر اپنے کرم سے چین و سکون اور اطمینان نازل فرما اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم فرما۔

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کی زبانی آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ ان کی بیان کردہ روایت کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن مقرن المذنی رضی اللہ عنہ، اور چچہ انصاری صحابہ کے حصہ کی چالیس ہاتھ خندق کھود رہے تھے کہ ہمارا ایک بھائی کے

حصے کا پتھر اڑ گیا۔ صحابہ نے بڑا زور لگایا لیکن اس نے نہ ٹوٹا تھا اور نہ ٹوٹا۔ اس کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ آئے ہیں۔

اسی دوران، ایک صاحب نے ہمدردانہ انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تین دن سے کوئی چیز کھانے کو میسر نہ ہونے کی وجہ سے قوت برداشت جواب دے رہی ہے۔ ہم نے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً صرف اپنے پیٹ مبارک سے قمیص اٹھائی، تو صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم نے تو ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے اور جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ رکھے ہیں۔

یہ کیفیت تو سب صحابہ کرام کی تھی لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو برداشت نہ کر سکے۔ خاموشی سے اٹھے، گھر گئے، بیوی سے کہا، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، آج میں نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی ہے اور میں برداشت نہیں کر سکا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ بیوی نے کہا چند سیر جو کا آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا میمنا ہے۔ بکری کا بچہ ذبح کر لو، میں آٹا گوندھ لیتی ہوں اور تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموشی سے عرض کر دو، ایک دو جو آپ کے قریبی صحابہ ہیں ان کو ساتھ لے آئیں اور دیکھنا احتیاط کرنا کہیں مجھے زیادہ دوستوں کو دعوت دے کر روانہ کر دینا۔

انہوں نے کہا فکر نہ کر، مجھے نہیں پتہ کہ گھر میں کتنا کھانا ہے۔ خیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہنچے اور انتہائی سرگوشی میں موقع تلاش کر کے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! انتہائی مختصر سی دعوت ہے۔ قبول فرمائیں۔ دو ایک ساتھی لے لیں۔ اور خاموشی سے تشریف لے آئیں اور ماہر تناول فرمائیں۔

آپ تشریف جو لائیں گے تو احسان ہوں گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت پیش کی اور حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خندق کھودنے والے اصحاب کو یاد فرمایا۔ سب غلام حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بھائی! آج جابر نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ چلو جابر کے گھر چلیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یوں محسوس ہوا، جیسے ان کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، جانثاروں کی ایک کثیر تعداد جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار کے قریب تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی چاروں ناچار اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے آگے چل دیئے البتہ حضور نے آواز دے کر فرمایا: جابر! میرے آنے تک ہنڈیا سے ڈھکنہ نہ اٹھانا اور نہ آٹے سے کپڑا اتارنا۔

یہ حکم شاید ہمارے آقائے، ہماری خدمات پر پردہ پوشی کے لیے ارشاد فرمایا تھا لیکن عشق اور مشک کبھی چھپائے چھپتے ہیں۔ ہم سب کو، آٹے کو، گوشت کو، شوربے کو، ہنڈیا کو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ہاتھوں کو، ان کی ہمتوں کو، ان کے حوصلوں کو، چولہے کی آگ کے ہر شعلے کو، آج اپنی اپنی وفاداریوں کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ہماری پردہ پوشی فرمادی اور جوشِ عشق میں ہوش کا دامن مضبوط رکھنے کے لیے پردہ ڈالے رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔

ورنہ جس طرح سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زمین کے سنگلاخ سینے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے نکلنے والے پانی اور اس کے جوش کو زم زم کہہ کر روک دیا تھا ورنہ شاید وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکتا اور اپنے سوتے اتنے کھول دیتا کہ ساری زمین کائنات کے کونے کونے تک پہنچ جاتا۔ پہنچ تو وہ اب بھی رہا ہے لیکن وہ انداز کچھ اور ہوتا لیکن شاید اتنا احترام قائم نہ رہتا، جتنا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زم زم کہنے سے ہوا کہ چیز کی کثرت

بے پایاں، اس کی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ جلدی جلدی گھبراتے ہوئے افتاں و خیزاں، گھر پہنچے اور ایک ہی سانس میں سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندی بڑے حوصلے والی تھیں۔ پوچھا! میرے سر کے تاج! آپ نے خود سارے صحابہ کو دعوت دی ہے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ارشاد فرمائی ہے۔ کہنے لگے، بھلیے! میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! دو چار ساتھی لے کر تشریف لائیں۔ اور شام کا کھانا آج آپ ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ ابھی میرے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ آپ نے سب کو دعوت دے دی۔ اب بتا! میں وہاں کیا کرتا تو اس اللہ تعالیٰ کی بندی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا پھر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے اب سرکار دعوت دینے والے جانیں یا دعوت قبول کرنے والے جانیں۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی حوصلہ ہو گیا۔ اتنے میں جان بہار و جان عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے جلو میں تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی پہلے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا۔ کچھ پڑھ کر اپنا لعاب دہن یعنی اپنے منہ مبارک کا تھوک مبارک ڈالا۔ پھر آٹے کو یہ شرف عطا فرمایا۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زبان مبارک تھی جو صرف ہم جمادات ہی سمجھ سکتے تھے۔ بس ہم سمجھ گئے کہ آپ سرکار کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے دامن کی تنگ دامنیوں کی ساری طنابیں توڑ پھوڑ دینے کا حکم تھا اور جوشِ محبت میں ہوش کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کا ارشاد تھا۔ اب ہم نے خاموشی سے، ادب کا دامن تھامتے ہوئے اپنا سلسلہ اور کنکشن، منبع فیض سے جوڑ دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔

ہادی انس و جن، منتظم اعلیٰ بزم امکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

دس دس آدمی بلا تے جائیں اور کھانا کھلاتے جائیں۔ پتہ نہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ کے ہاتھوں میں چولہے کی آگ کی پکاوٹ میں، توے کی خدمت، آٹے کی روٹی بننے تک کے سفر میں آسانیاں، جلدیاں اور سُرعتیں اور برکتیں کہاں سے آگئیں۔ وہ اکیلی ہی پکار رہی ہیں، لوگ آرہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روٹیاں، سالن اور بوٹیاں برتنوں میں ڈال ڈال کر پیش کئے جا رہے، دس دس آدمی کھانا کھا رہے ہیں اور یہ سلسلہ تادمِ آخر جاری و ساری رہا۔ نہ آٹا کم ہوا، نہ ایندھن اور لکڑیاں کم ہوئیں، نہ چولہا جلانے میں دقت ہوئی، نہ توے نے روٹیاں جلائیں، نہ شور با کم ہوا، نہ بوٹیاں کم ہوئیں، نہ جابر صاحب کی ہمت نے ساتھ چھوڑا، نہ صحابہ کرام جو تین تین دن سے بھوک سے تلملارہے تھے، نہ ان کے صبر کے تار ٹوٹے۔ حتیٰ کہ آخری دس آدمیوں نے بھی کھانا کھالیا۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں جان ڈال دی، خود بھی کھانا تناول فرمایا پھر اہل خانہ نے کھانا کھایا۔

ذرا سوچیں! اس اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ایک ہزار انسان کے لیے روٹیاں پکاتے پکاتے ہاتھ کیوں شل نہ ہوئے، اس کی ہمت نے جواب کیوں نہ دیا، پھر اس کے بعد تھکاوٹ سے دس دن چار پائی پہ کیوں نہ پڑی رہی۔

غرض ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے حصہ کی خدمت میں کمی نہ آنے دی، اگر کہیں بھی کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہوتی تو ہمارے اس واقعہ کے خلوص و للہیت کی خوشبو آج تک اس واقعہ کے پڑھنے اور سننے والوں کو مسحور نہ کر رہی ہوتی۔

ثابت ہوا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جنوں اور انسانوں کے رسول نہیں وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ نے آٹے میں، ہنڈیا میں، لعابِ دہن ڈالا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہنڈیا کا اپنا دامن، تو بیچاری کا انتہائی مختصر تھا لیکن تنگ دامنی کی اسے شکایت نہ تھی

کہ اسے خبر تھی کہ لعابِ دہن ڈالنے والا علاج تنگی داماں بھی جانتا ہے۔ پھر اس نے اپنی طرف نہ دیکھا کچھ پڑھ کر پھونکنے والے کی ذات پر نظر رکھی۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

گوشت تھا ہی کتنا، چند بوٹیاں، جو دس بیس افراد زیادہ سے زیادہ کھا سکتے تھے۔ لیکن بوٹیوں میں، شوربے میں، نمک میں، مرچ میں، مصالحوں میں، برکت ڈالنے والے پر نظر رکھی اور ہر چیز بڑھتی چلی گئی کہ یہی حکم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور اسی کی محبت میں اس کے حکم کی تعمیل ہمارا فرض تھا۔

آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ کے ہاتھوں کا پوچھا ہی نہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی نیک بندی جس نے حضرت جابر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اگر آپ نے خود احبابِ رسول کو دعوت دی ہے تو ذرا فکر و تدبر کی بات ہے لیکن اگر جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ہے تو وہ جانیں، وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ۔ پھر اس نیک بخت کے ہاتھوں کی پھرتی، چولہے میں ڈالے جانے والے ایندھن کی کمال سرعت اور تیزی و طمازت، دیکھتے جائیے۔ اور ایمان کو تازگی بخشتے جائیے۔ ایک ہزار انسان نے آخر کھانا کھایا اور پیٹ بھر کر کھایا، وہ ساری روٹیاں، وہ چولہے کی تیاری، وہ لکڑیوں کا جلانا، آپ کے سامنے ہے۔

دراصل حضرت جابر کے گھر میں ایک بے جان اشیاء کا پورا قافلہ مصروف عمل ہو گیا۔ نہ داد طلب کی اور نہ اس کی چاہت تھی۔ صرف اظہارِ محبت کا ایک عاجزانہ کا اظہار ہے۔ جو انہوں نے کر دیا۔

جب آپ سب کے جانی سیر ہو گئے تو ہم بھی سیر ہو گئے۔ ہمارے سیر ہونے کی خوشی و مسرت کی خوشبو اتنی پھیلی کہ آج ایک ہزار چار سو سال سے آگے بڑھ کر ۲۸، ۲۹ برس ہونے لگے ہیں وہ خوشبو اب تک ماند نہیں پڑی۔

خوشبو ہے کہ اب تک نہیں جاتی میرے گھر سے
اک شب کوئی مہمان مرے گھر میں رہا تھا

عصاءِ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آپ نے پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے انتہائی لاڈلے اور پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک عصاء تھا جس رات آپ کو کوہ طور پر آپ کو آپ کے منصب نبوت سے آگاہ فرمایا گیا اور ذاتِ باری تعالیٰ نے شرفِ ہمکلامی بخشا تو وہ عصاء اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں تھا بلکہ اس پاک محفل میں، اس عصاء کا، باقاعدہ تعارف ہوا۔ مالک نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھا، اے موسیٰ! یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، عرض کیا، ہِیَ عَصَایَ۔ یہ میرا سوٹا ہے میں اس سے یہ یہ کام لیتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ڈنڈے سے وہی کام لیتے تھے جو ساری دنیا لیتی ہے۔ اب عہدہ نبوت سے آگے اس سے صرف وہی کام لیے جاتے تو نبی اور غیر نبی میں کیا فرق رہ جاتا۔ اس لیے مالک نے فرمایا: اے میرے پیارے نبی! اب آپ اور عوام ایک جیسے نہیں اب یہ ہماری مخلوق وہ کام ہمارے حکم سے آپ کے لیے کرے گی، جو غیر نبی دنیا کا کوئی انسان بھی، اس سے وہ کام نہیں لے سکتا۔ ہم خود قانون بنانے والے، خود نافذ کرنے والے، ہم خود ڈیوٹیاں لگانے والے، ذمہ داریاں عطا کرنے والے، آج سے عصاء، آپ پتھر پر ماریں، تو پانی کے چشمے جاری کرے، پانی پر ماریں تو خشک راستے بنادے، آپ ہاتھ میں رکھیں تو عصاء اور ڈنڈا، آپ کے ہاتھ سے جدا ہو تو سانپ اور اژدھا اور اژدھا بھی ایسا کہ ہزاروں سانپ، بچھو اور زہریلے جانور ہضم کر جائے اور اس کا پیٹ موٹا نہ ہو۔ اور جو کام آپ اس سے پہلے لے رہے تھے وہ بھی جاری و ساری، آپ سہارا لے کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ آب بکریوں کے لیے درختوں سے پتے اور ٹہنیاں توڑ

سکتے ہیں، یہ آپ کا ہمراز بھی ہے، ساتھی بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور معاون بھی۔
لیکن یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخصوص تھا۔ یہ سارے کام، صرف
وہی عصا کر سکتا تھا اگر کوئی اور عصا آپ پکڑتے تو شاید یہ سارے کام اور یہ
ساری خدمات وہ انجام نہ دے سکتا۔

ہاں! البتہ اگر سید عالم، جانِ کائنات، راحتِ جانِ حزیں، رحمۃ للعالمین صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو اس کا رنگ ہی اور ہے آپ تو جس کو اشارہ فرمادیں
وہی حکم کا پابند اور ہر وہ کام کرنے لگے، جو دنیا نے دیکھے نہ بھالے۔

ہوں تو میں بھی ایک عصا، جانِ ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف
بخشا ہوا تھا کہ میں آپ کے خانہ اقدس میں پڑا رہتا۔ گا ہے گا ہے، حضور سراپا نور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی استعمال فرماتے تھے۔

غزوہ خندق کے بعد کفار کی ناکامیوں اور نامرادیوں کے باوجود، چند
بد نصیب و بد باطن ایسے بھی تھے جو ریشہ دوانیوں میں لگے رہتے تھے۔ انہیں اسلام
کے نام پر محبت و الفت اور مساواتِ انسانی کی خیرات کا بٹنا اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ
اپنی ناکام سازشوں کی پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے تھے۔ چمگاڈر کو
سورج کی شعاعوں کا چار دانگ عالم میں پھیل جانا اور اندھیروں کا دور ہونا اچھا
نہیں لگتا، انہی بد باطن، بد بخت و بد نصیبوں میں ایک بد نصیب خالد بن سفیان بن
فتیح تھا جو اپنے دوستوں، ساتھیوں، اور اپنے تعلق داروں کو جمع کر رہا تھا تاکہ وہ
سب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہتاب عالم تاب پر تھوکنے والوں میں
اور مغضوب و ضالین میں اپنا نام شامل کر لے۔

راحت و جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حضور جان
عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اس فتنہ کو بھی ابتداء ہی سے
ختم کرنے اور نیست و نابود کرنے کا ارادہ فرمایا۔

آپ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا اور اس مذکور خالد بن سفیان بن قبیح الہذلی کے بارے میں بتایا اور فرمایا، اس کا انتظام کیا جائے اور فرمایا، اس فتنہ کی سرکوبی کر دی جائے۔

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اشارہ پاتے ہی تلوار کو اپنے گلے میں جمائل کیا اور اس کی طرف چل دیئے۔ نماز کا وقت تھا، انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اگر نماز پڑھنے لگا تو حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی۔ دشمن کے علاقہ میں جا کر پڑھی تو وہ میرے مسلمان ہونے پر آگاہ ہو جائیں گے۔ دل نے فیصلہ کیا حکم کی تعمیل میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہئے۔ دشمن کو بھی خبردار کرنا مناسب نہیں اور مالک کے حضور سے حاضری سے محرومی پر راحتِ جان و دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ لہذا سواری پر سوار ہی نماز کی نیت باندھ لی اور اشاروں کنایوں سے رکوع و سجود کی تکمیل کرتے گئے، کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی اور دشمن کی طرف سفر بھی جاری رکھا۔

حتیٰ کہ آپ خالد الہذلی کے ڈیرے تک پہنچ گئے۔ اس نے آہٹ پا کر پوچھا، من الرجل، کون ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے سنا ہے تم مسلمانوں کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہو اور دن رات اسی کرب میں مبتلا ہو۔ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے سوچا ہوگا۔ یہ بد بخت کب تک اس کرب اور قلق میں مبتلا رہے گا۔ اس کرب سے نجات دینے میں اس کی مدد کرنی چاہئے۔

اس نے یہ سمجھا، یہ میرا ہمدرد اور ساتھی ہے اور آپ کو اپنے راز میں شامل کر لیا۔ غصے و تعصب کی آگ کے جلاپے، اپنوں اور غیروں میں امتیاز کی صلاحیتیں، چھین لیتے ہیں، اس لیے فوراً آپ کو اپنا ہمراز بنایا۔ آپ کو ساتھ لیا اور کسی اور بد نصیب کو اس دلدل میں پھنسانے کے عمل اور منصوبے کی تکمیل میں چل

پڑے۔

راستے میں حضرت عبداللہ نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے، اسے دنیا کے جہنم سے نکال کر موت کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آپ نے موقع پا کر تلوار درمیان سے نکالی اور بجلی کی سرعت سے اسے سر پر غرور کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ اپنے فرض کی تکمیل کے بعد آپ واپس شہر مدینہ منورہ کی طرف لوٹے۔ جب سرکار ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھا تو فرمایا: اَفْلَحَ الْوَجْهُ - یہ چہرہ کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں کا چہرہ ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، حضور! میں نے اس کم بخت کو قتل کر دیا ہے۔ خس کم، جہاں پاک، آپ نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو۔

اتنا فرما کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور مجھ عصاء کو اٹھایا اور حضرت عبداللہ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے انیس کے صاحبزادے! لو یہ عصاء، اسے اپنے پاس رکھنا، وہ مجھے لے کر، پاک لوگوں کی محفل میں لے کر گئے۔ سارا واقعہ سنایا اور عصاء بطور انعام ملنے کا بتایا۔

صحابہ نے کہا عبداللہ! ممکن ہے۔ اس میں کوئی راز ہو۔ شاید کسی اور مہم پر بھیجنا مقصود ہو، پوچھ تو لینا تھا کہ سرکار! یہ عصاء عطا فرمانے میں کیا مصلحت ہے۔

حضرت عبداللہ بن انیس واپس لوٹے اور حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عصاء کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اَيَّةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنَّ اَقْلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِرُونَ يَوْمَئِذٍ - یہ ع، میرے اور تیرے درمیان روز قیامت نشانی و اعتماد ہوگا۔ وہاں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اپنے کولہوں پر ٹیک لگاتے (آرام سے) کھڑے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے تو پھر زندگی پھر اپنی ذات سے جدا نہ کیا۔ بلکہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد میرے کفن کے اندر،

میرے جسم کے ساتھ ملا کر رکھ دیا جائے۔

یہ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی کبھی مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میری اپنی کیفیت کیا تھی۔ سرکار نے اپنے پیارے غلام، جانثار غلام، عبداللہ بن انیس کا ساتھی بنا دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن انیس وہی بارگاہِ ربوبیت و بارگاہِ نبوت سے انعام یافتہ تھے۔ جن کے راستے پر چلنے کی دعا آپ کی عبادت کا جز بنا دی گئی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یا الہی! ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔

اس کے ساتھ روز قیامت تک مجھے زندگی عطا فرمادی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مٹی میرے وجود کو ہضم نہ کر سکے گی۔ کیونکہ میں تو روز محشر سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے درمیان، ایک نشان کے طور پر موجود ہوں گا۔

ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی بڑی شان ہو اور ہے بھی، میں مانتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں۔

کائنات دے رنگ برنگ کھانے تیری جواں دی روٹی توں دار دیواں
 وس ہووے تے چن نوں توڑ کے تے سوہنے گنبد دی چوٹی توں واردیواں
 نیلی چھت والا بے کرمن جاوے اوہدی بارگاہ چہ عرض گزار دیواں
 پیرس جہتے ہزاراں بے شہر ہوون میں مدینے دی جھوک توں واردیواں
 میرھے آقا میں تاج سکندری نوں، تیری جتی دی نوک توں واردیواں
 عصاء ملے بے موسیٰ کلیم والا تیرے ہتھاں دی سوٹی توں واردیواں

صلی اللہ علیٰ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ

واصحابہ وبارک وسلم

تیر کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

جب سرور ہر دو عالم، جان عالم و عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ شریف کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے اصحاب جوق در جوق افواج در افواج، آپ کے ساتھ ہم سفر ہو گئے۔ شب و روز قیام فرماتے ہوئے جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کی سواری قصوی اونٹنی، وہاں بیٹھ گئی۔ لوگ اور ساتھی یہ سمجھے، سفر کی تھکاوٹ نے اس مقام پر اونٹنی کو بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے لیکن حامل اسرار الہیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خبر تھی کہ میری تو اونٹنی بھی مامور من اللہ ہے یعنی میں تو الحمد للہ نبی ہوں ناں، میری اونٹنی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہی کرتی ہے، آپ نے اصحاب کے اس وہم کو دور فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا: **انَّهَا حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ**۔ یعنی اس کو اس نے روکا ہے جس نے مکہ پر حملہ سے روکنے سے ہاتھیوں کو روکا تھا اور حکم فرمایا: یہیں سامان اتار دو، خیمے لگا دو، اور تا حکم ثانی یہیں قیام کرو۔

صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہاں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، تمام کنویں خشک پڑے ہیں۔

جو ہادی راہ میں قدم قدم ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے میں بھی ٹھوکریں ہی نصیب ہوں گی اور جس کے قدم کی ہر ٹھوکر، ایک نئی اور صاف ستھری راہ نکالے تو یقین اور کامل اور پختہ ہو جاتا ہے۔

آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا یہ تیر کسی بھی خشک کنویں میں جا کر گاڑ دو، پانی پانی ہو جائے گا۔ **اِنْشَاءَ اللّٰهِ**

صحابہ نے وہ تیر لیا اور ایک کنویں میں اتر گئے۔ پانی تو جیسے پہلے ہی حکم کا منتظر تھا بس تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے

کنواں پانی سے بھر گیا۔

زمین سے پانی نکالنے کے جتنے اسباب بھی دنیا نے استعمال کئے ہیں، خالق و مالک نے جب چاہا اپنے بندوں کے لیے حزب اللہ، یعنی اپنی پارٹی کے بندوں کے لیے خصوصی طور پر کوئی سبب بھی ان میں سے استعمال نہیں کیا۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے معصوم چھوٹے سے دودھ پیتے بیٹے کے لیے سنگلاخ زمین سے بہت ہی نیچے سے، ان کی ننھی سی ایڑیوں کی ٹھوک سے، پانی نکال دیا۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور لاکھوں کروڑوں اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کی بھوک اور پیاس بجھا رہا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ جی وہ تو جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا جس سے چشمہ جاری ہوا۔ چلو مان لیتے ہیں لیکن جبرائیل نے یہ منایا مژدلفہ یا عرفات اور جبل نور یا کہیں اور قرب و جوار میں پر کیوں نہیں مارا۔

ایک اور عرض ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو انبیاء کرام کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہر نبی کے حضور، پیغام الہی لیکر آتے رہے اور پیش کرتے رہے تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ خادم کا کمال مانتے ہو اور جس مخدوم کی خدمت پر وہ مامور ہے اس کے کمال سے انکار کرتے ہو۔ فی اللعجب!

اچھا! ایک اور زاویہ نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا اور چشمہ بہہ نکلا تھا تو جب اللہ تعالیٰ نے رئیس الصابرين حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ كَهَا اَيُّوبُ! اپنا پاؤں مارو۔ زمین سے چشمہ ابل رڑے گا۔ هَذَا نَغْتَسَلُ وَبَارِدٌ۔ تو اس وقت پانی زمین سے کس کے قدموں کی ٹھوک سے نکلا تھا کیا اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا اگر جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے ہی پانی نکلا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی پر

مارنے کا حکم، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیتا۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام و مرتبہ سے انکار نہیں، نہ ان کی قوت و طاقت سے انکار ممکن ہے۔ ان کی عظمت تسلیم، لیکن یارو، جبرائیل علیہ السلام کے مخدومین حضرات انبیاء کرام کے مقام و مرتبہ ہائے مبارک سے تو انکار نہ کرو۔

اب میری کیا حیثیت ہے، ایک بے جان، بے حس و بے حرکت سا، میں تو زیادہ سے زیادہ کسی کی زور آزمائی سے، بڑا بھی تیر ماروں گا تو کسی جسم کو زخمی کر کے، اس کا خون نکال دوں گا۔ لیکن کنویں کے خشک سوتے سے پانی نکال لوں۔ یہ میرے بس میں نہیں، نہ پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ شاید بعد میں کبھی ایسا ہو، یہ تو سارا کمال، اس دست مبارک کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شان والا ہے، جو محبوب رب العالمین ہی نہیں، محبوب کائنات بھی ہے اور ہم جو جمادات سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری ساری پارٹی کے بھی محبوب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

یہ انہی کی زبان مبارک کی تاثیر ہے کہ جو لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، صدقے جائیں وہ سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں بھی تو آپ کے ترکش میں تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری ذمہ داری اور ڈیوٹی اب کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے اپنی زبان میں صدیوں سے خشک کنویں کے سوتوں کو بھی بات سمجھا دی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا، جلدی سے زندہ ہو جا کہ میں مردوں کو زندگی بخشنے والے کا پیغام بر بن کر آیا ہوں، اگر تو آج بھی خشک رہا ناں، تو پھر قیامت تک خشک ہی رہے گا۔ پتہ نہیں، اس اتنی سرعت سے سینکڑوں فٹ زمین کے نیچے بہنے والے پانی کی اس نے منتیں کی ہوں گی۔ اس کو حکم دیا ہوگا۔ بہر صورت، وہی ہوا، جو ہونا چاہئے تھا۔ اس خشک کنویں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر

گیا۔

اٹھایا قلم تو تیرے نام نے

میری ذہن کو تازگی بخش دی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَتَّى
لَا يَبْقَى مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَالْبِرَكَةِ شَيْءٌ

انگلیوں سے چشمے

حدیبیہ کے حوالہ سے اگر اجازت ہو تو گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔
حدیبیہ میں حضور کے جانثاروں کا قیام بیس پچیس دن تک رہا اور تعداد بھی کچھ کم نہ
تھی۔ ڈیڑھ ہزار کے قریب تھی۔ شدید گرمیوں کا موسم، نہ ندی نہ نالہ، نہ نہر نہ دریا،
اور اگر کوئی کنواں تھا بھی تو وہ سب خشک۔ بے آباد اور ویران پڑے تھے۔ بلکہ ایک
وقت تو ایسا بھی آیا کہ کسی صحابی کے پاس اپنے لیے اپنے جانوروں اور مویشیوں،
اونٹوں اور قربانی کے جانوروں کے لیے پانی بالکل نہیں تھا۔ صرف وہی ایک پیالہ
میں پانی تھا جس میں سے خود جان ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔
مستقبل فریب کی تصویر دیکھنے والے دانشوروں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں
بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی۔ حضور پانی نہیں، سوائے اس کے
جو اس وقت آپ کے پیالہ میں ہے۔

کسی اپنے اور بیگانے کا دکھ نہ دیکھ سکنے والے رحم المساکین صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے
ہاتھ کو پیالے میں رکھا۔ دنیا نے زمین سے چشمے جاری ہوتے دیکھے تھے۔ پتھروں
سے پانی کے سوتے جاگتے دیکھے تھے لیکن کسی نے انگلیوں سے چشمے پھوٹتے کبھی
نہیں دیکھے تھے۔ دستِ یمین مبارک سے پنجاب رحمت کے پانچ دریا اہل پڑے۔

حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں:

فَوَضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي
الرَّكْوَةَ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِثْلَ الْعَيْونِ فَشَرِبُوا
وَتَوَضَّأُوا قَالَ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ كَفَّانَا كُنَّا
خَمْسَةَ عَشْرَةَ مِائَةً۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ابلنے لگا، جس طرح
چشموں سے پانی ابلتا ہے۔ سب لوگوں نے پانی پیا، وضو کیا، میں نے
پوچھا، اس وقت آپ کتنے لوگ تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے
جواب دیا اگر ہم ایک لاکھ ہوتے پھر بھی کافی تھا۔ ویسے ہماری تعداد
پندرہ سو تھی۔

ڈیڑھ ہزار انسانوں کا پانی پینا، اپنے جانوروں اور مویشیوں کے لیے محفوظ کر
لینا، وضو کر لینا، وہ بھی صرف ایک پیالہ پانی کے چند قطروں سے، اور پانی بھی
انگلیوں سے، اے اشرف المخلوقات ذرا سوچ کے بتاؤ، وہ چھوٹے سے پیالے کے
دامن کی تنگ دامانی کا علاج کیسے ہو گیا۔ یا پیالے کو کون سمجھا گیا تھا کہ اب کیا کرنا
سے جواب صاف ظاہر ہے کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ محبت محبوب کے اشارہ
کو دیکھتا ہے اور الف سے ی تک ساری بات سمجھ جاتا ہے کہ کس بات کا حکم ہوا
ہے اور پھر حکم سجالاتا ہے خواہ اس کے اس انداز سے بظاہر نظم کائنات کتنا ہی
مختلف ہو۔

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَوَةُ الْأَبْرَارِ
صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيِّبُونَ الْأَخْيَارِ

۔۔۔۔۔ (ملک بوڑھی انصاری عورت مدینہ منورہ)

صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولنا محمد و آلہ
و اصحابہ و باریک وسلم۔

ایک اور کنویں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

قانون اور ضابطے، صاحبانِ عقل و شعور کے لیے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے ہوتے ہیں جو مکلفین ہوتے ہیں، ہم جمادات و نباتات اور حیوانات یا مانع اشیا، کیا جانیں، قاعدے اور قوانین کیا ہوتے ہیں۔ ہم تو حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم حکم کے سامنے چونکہ چنانچہ کیوں کیسے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کفر تصور کرتے ہیں۔ یہی سبق، ہم سب اہل ایمان کو اپنے عمل سے دیتے ہیں کہ محبت ہو تو ایسی ہو۔

ایک بار جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ کو علم ہوگا کہ عرب کے صحراء پانی کی نعمت سے کتنے محروم ہیں۔ لقم و دق صحراء یا خشک پہاڑ اور ٹیلے، کوئی مسافر، سفر میں راستہ سے بھٹک جائے اور پانی کی چھاگل بھی اس کے پاس موجود نہ ہو تو پھر پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مرنا یقینی ہوتا ہے۔

اس سفر میں ہزار ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام، نفوسِ قدسیہ آپ کے ساتھ ہم سفر تھے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پانی نایاب ہو گیا۔ میرے نصیب جاگے، آپ میری منڈیر پر تشریف لائے۔ آپ نے تھوڑا سا پانی طلب فرمایا۔ اپنے کلی فرمائی اور وہ کلی میرے دامن میں ڈال دی۔ میں جو صدیوں سے اپنے دامن کی تہوں میں پانی چھپائے بیٹھا تھا وہ سارے کا سارا یکدم اکٹھا کیا اور اس مبارک کلی والے پانی کی پذیرائی میں پیش کر دیا اور اپنے دامن کو لبالب بھر دیا۔ اور آپ کے غلاموں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

وہ سرکار کی کلی مبارک تھی۔ کوئی کدال نہیں تھی جس سے میری تہوں سے پانی کرید کرید کر نکالا گیا ہو کہ قانون اور قاعدہ تو پانی نکالنے کا یہی ہے لیکن اس موقع میں کون کدالیں اور کسیاں تلاش کرنے جاتا، کون کھدائی کرتا اور اگر اتنی دیر میں مزاج پار ہی برہم ہو جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔

فرازِ عرش سے لے کر حریمِ دل کی دھڑکن تک
خلق ساری قدم چومے حکومت ہو تو ایسی ہو

(ظفر چشتی)

(تاریخ انجیس جلد ۴، ص ۱۱۶، ضیاء النبی، جلد چہارم ص ۱۵۴)

فَصَلِّ الْمَلِيكَ وَلِيَّ الْعِبَادِ
وَرَبُّ الْعِبَادِ عَلَيَّ أَحْمَدُ

(سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ)

اے مالک الملک، بادشاہ عالم، بندوں کے والی اور پروردگار عزوجل،
حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام و رحمت نازل فرما۔

اشیاء خورد و نوش، آپ سے محبت

جہاں تکیہ رب دا اونہاں رزق ہمیش
پلے رزق نہیں بنھ دے پنچھی تے درویش

کبھی کسی نے کسی چڑیا، طوطا، مینا، کبوتر اور فاختہ کو اپنے ہاتھ میں روٹی کا ڈبہ

اٹھائے ہوئے یعنی ٹفن کیریر اٹھاتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ اس لیے کہ ان کو یقین

کامل ہوتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں گے وہیں چونچ ماریں گے اور ہمارا رزق وہیں

موجود ہوگا۔ اسی طرح فقیر اور درویش خدا مست بھی لمبے چوڑے منصوبے بنا بنا کر

سامان خورد و نوش اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے۔

حدیبیہ سے واپسی پر جب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرا الظہران

سے آگے نکل کر وادی عسفان میں پہنچے تو سامانِ خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ انسانی

فطرت کا تقاضا ہے کہ فاقہ کشی سے پریشانیاں بڑھ گئیں، سفر طویل تھا۔ مسائل کا

حل تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر اجازت ہو تو سواری کے جانور ذبح کر لیے جائیں۔ گوشت

سے پیٹ کی آگ بجھالیں گے۔ چمڑے سے جوتے بنالیں گے۔ ان کے پیٹ سے نکلنے والے پانی سے پیاس بھی بجھالیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشفی کی خاطر ان کے دلائل سن کر اجازت عطا فرمادی۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی جن کے متعلق حمیر اخبار اسرار الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک صاحب الہام ضرور رہا ہے اور میری امت میں صاحب الہام عمر فاروق ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دوڑتے ہوئے حاضر اقدس ہوئے۔ معذرت خواہانہ درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر جانور ذبح کرنے شروع کر دیئے تو سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اجازت ہو تو ایک تجویز پیش کروں۔

سرکار نے تبسم کناں اجازت عطا فرمائی۔ تو عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تمام صحابہ کو حکم ارشاد فرمائیں جو چیز جس کے پاس ہے تھوڑی یا بہت وہ لا کر یہاں پیش کر دے۔ پھر:

ثُمَّ تَدْعُوا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَبْلَغُنَا بِدَعْوَتِكَ۔

پھر آپ اس پر برکت کی دعا مانگیں۔ یقیناً آپ کی دعا کی برکت سے ہر چیز ہمیں منزل تک کفایت کر جائے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر قربان جائیں۔ ان کی تجویز پر ہماری بھی بن آئی۔ اب خوردنوش کی ہر چیز جو کسی کے پاس تھی بچھائے ہوئے دسترخوان پر جمع کی جا رہی ہے۔ لوگ جوق در جوق لا رہے ہیں۔ کوئی مسمی بھر کھانا لا رہا ہے تو کوئی چند کھجوریں اٹھائے لا رہا ہے۔ جب سارا سامان اکٹھا کیا گیا تو وہ سارے کا سارا اتنا تھا جتنی بیٹھی ہوئی ایک بکری اور افراد صحابہ کی راد چودہ سو سے زیادہ تھی۔

بہر صورت جان عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھ پر تشریف لائے،

دعاء خیر و برکت فرمائی۔ ہماری ہر چیز، آٹا روٹی، کھجور، پنیر، جو کچھ بھی تھا خوشی و مسرت سے پھولے نہ سماتے تھے۔ اب ہر صحابی کو حکم ہو گیا، اپنے اپنے کشلول، تھیلے، کھرجیاں بھرو، کھاؤ بھی اور لے بھی جاؤ۔ ڈیڑھ ہزار آدمی نے جی بھر کر سامان اکٹھا کیا اور خوب کھایا بھی اور دیکھا کہ وہ سامان ابھی جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ جیسے اس میں سے ابھی کچھ بھی نہیں نکالا گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ضحک رَسُولُ اللَّهِ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ کی خوشی سے ہنسی نکل گئی۔ پھر آپ نے فرمایا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَلْقَى اللَّهُ
عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حُجِبَ مِنَ النَّارِ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! کوئی بندہ مومن جو ان دو حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریگا اور اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا جائے گا۔

(سہل الہدیٰ جلد ۵، ص ۹۵، ضیاء النبی، جلد ۴، ص ۱۵۷)

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آنکھوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

معرکہ خیبر پاپا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو خون ریز جنگ کے باوجود فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ حضور سراپا نور و ظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَالِمُ عُلُومِ مَا كَانَ مَا يَكُونُ اور شافی مطلق جل و علی کے واحد نمائندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا عَطِيَّةَ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ يَأْخُذُهَا عَنُورَةً۔

کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعہ کو فتح فرمائے گا اور وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی قوتِ بازو سے اس قلعہ پر قابض ہو جائے گا۔

اب مسئلہ طاقت کا، زور کا، شجاعت کا، ہمت کا نہیں تھا۔ اب تو مسئلہ تھا آپ کی عطاء کا، آپ اس روز مورِ ضعیف جیسے شخص کو بھی جھنڈا عطا فرمادیتے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی قلعہ خیبر پر فتح عطا فرمادیتا۔

اس لیے آج کی شب ہر شخص بارگاہِ ربوبیت میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ میرے مالک! صبح جب طلوع ہو اور آپ سرکارِ علم عطا فرمانے لگیں تو میرے مقدر کا ستارہ طلوع ہو۔

حضرت علی المرتضیٰ شیر خدارضی اللہ عنہ اس اعلان سے بے خبر، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے بڑی تکلیف میں مبتلا اپنے خیمہ میں صاحبِ فراش ہیں۔ آپ تو آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے قافلہ کے ساتھ مدینہ سے بھی روانہ نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب قافلہ روانہ ہو چکا تو آپ برداشت نہ کر سکے کہ کریم آقا، اور ان کے سارے جانثار تو خیبر کو تشریف لے جائیں اور علی گھر میں پڑا ہے۔ آنکھوں کی تکلیف برداشت کر لی لیکن سرکار کی جدائی برداشت نہ کی۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کے باوجود آپ مدینہ منورہ سے خیبر پہنچ گئے لیکن آشوبِ چشم، سفرِ طویل اور بے آرامی کی وجہ سے تکلیف زیادہ تھی اور اپنے خیمہ میں آرام فرماتے تھے۔

اب وہ دن طلوع ہوا جب ہر شخص اپنے طالع بیدار کی تمنا لیے آپ کی مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبانِ اقدس سے دو بول سننے کے لیے بے تاب ہے جس سے اس کی قسمت اور مقدر کا ستارہ چمکے گا۔

دور و نزدیک کی خبر رکھنے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہائے

مبارک دا ہوئے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا: علی کہاں ہیں، عرض کیا گیا ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے اور شدت تکلیف کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پارہے۔ آپ نے فرمایا: انہیں بلاؤ۔

حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں، میں اٹھا اور آپ کو بلانے کے لیے گیا۔ میں نے جا کر ساری صورت حال بتائی اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ گل کی خبریں رکھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی! کیا بات ہے۔ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں دکھ رہی ہیں اور مجھے اپنے سامنے سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔

آپ نے نزدیک بلایا اور آپ کے سر مبارک کو اپنی آغوشِ محبت میں لیا اور دنیا طب میں ایک انوکھے باب کا اضافہ فرمانے کے لیے مرہم کل زمن ایک عجیب اور ندرت کے مالک لعابِ دہن مبارک آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آنکھوں میں تھوک مبارک کا لگنا تھا کہ تکلیف اور بیماری سمجھ گئی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور اب پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے گھر کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کرنا اور پھر کبھی ادھر کا رخ کیا بھی نہیں۔ (ضیاء النبی جلد ۲، ص ۲۳۰)

وہ لعابِ دہن مرہم کل زمن
اس کی تخلیقی ندرت پہ لاکھوں سلام

(ظفر چشتی)

تھوک تو بیماریوں کو پیدا کرتا ہے جا بجا تھوک سے منع فرمایا گیا ہے۔ گندگی پھیلتی ہے۔ گھن آتی ہے، بار بار تھوکے والے کو دیکھ کر طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ سب قبیح صفات میرے اور تیرے تھوک میں ہیں۔ اے انسان! تو جتنا بھی مشک و عنبر سے منہ کو دھو لے اور پھر اپنے تھوک کو کسی بیماری کی شفا کے لیے

استعمال کرتھوک پھر بھی تھوک ہی ہے اس میں خطرناک بیماریاں پھیلنے والے جراثیم موجود رہتے ہیں۔

لیکن شافی مطلق، جل وعلیٰ نے اپنے محبوب کے تھوک میں سے وہ تمام عیوب کشید کر کے علیحدہ کر دیئے اور ہر بیماری سے شفا کے جراثیم رکھ دیئے۔
سبحان اللہ!

ہم نے پھولوں کو چھوا وہ کانٹے ہو گئے
تو نے کانٹوں پر قدم رکھا گلستاں کر دیا

علی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم

آگ کے شعلوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

فاتحِ قلوبِ دنیا و مافیہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو بے شمار انسانوں کے دلوں کو بھی فتح فرمایا اور وہ کلمہ توحید و رسالت کی خوشبو سے زبان و دل کو معطر، معنبر اور مسحور کرنے لگے لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے دلوں میں کدورتوں کی غلاظت کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے۔ حسد اور بغض کی آگ نے جلنے کے لیے ان کو پسند کر لیا ہوا تھا۔ ان میں ایک شخص شیبہ بن عثمان بھی تھا وہ تو حضور جانِ حیاتِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمعِ حیات کو گل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی دیرینہ آتشِ انتقام میں جل بھن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں نورِ خدا کی شمع کو بجھا کر اپنے بڑوں کے قتل کا انتقام لے کر رہے گا۔

شیبہ بن عثمان خود بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنی ہوازن سے گھمسان کارن پڑا تو میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی بہانہ ملے۔ آپ کو کہیں غافل پاؤں اور اچانک حملہ کر کے اپنے مقتول چچا کا انتقام لے لوں اور دل سے یہ پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر اسلام عرب و عجم کے کونے کونے تک بھی پہنچ

جائے میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا۔

جب آپ سرکار اپنی سواری گدھے سے نیچے اترے اور صحابہ کرام انتہائی افراتفری کا شکار ہوئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اپنی تلوار، میان سے نکالی اور اپنے مزموم ارادہ کی تکمیل کے لیے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی دائیں جانب آپ کے چچا حضرت عباس انتہائی مستعد کھڑے ہیں۔ میں نے سوچا یہ تو کسی قیمت پر بھی مجھے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ میں بائیں طرف ہوا تو آپ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان کھڑے تھے۔ ادھر بھی یہی کیفیت تھی۔ میں آپ کے بائیں طرف ہوا وہاں کوئی بھی نہیں میں اچانک بھرپور وار کرنے کو لپکا تلوار لہرائی حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شعلہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس آگ کے شعلے کی چمک اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے پہچان کر فرمایا: يَا شُعَيْبُ اُذْنُ مِئِي - شعیب ادھر میرے قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو جان عالم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنْهُ الشَّيْطَانَ - یا اللہ! اس سے شیطان کو دور فرما دے۔

اس کے بعد جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو سرکار مجھے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے دل سے بھی زیادہ پیارے نظر آنے لگے۔ بس آپ کی ایک توجہ سے، ایک نگاہ سے، دل کا فیصلہ ہو گیا کہ دور تیں ختم ہوئیں، دوریاں دور ہوئیں۔ آپ نے فرمایا: چل اور کفار سے نبرد آزما ہو جا۔

وہ تلوار! جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے لیکر آیا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے کام آگئی۔ میں اسلام کا سپاہی بن کر دشمنان اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ جب بنی ہوازن کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیام گاہ میں تشریف لائے میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرَادَ بِكَ خَيْرًا مِمَّا أَرَدْتَ۔

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ رب العزت کے لیے ہیں جس نے تیرے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا ورنہ تم تو اپنی کشتی ڈبونے کا فیصلہ کر ہی چکے تھے۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام باتیں مجھے ارشاد فرمائیں۔ جو میں آپ کے بارے میں اپنے نہاں خانہ دل میں چھپائے پھرتا تھا۔

(ضیاء النبی، جلد ۴، ص ۵۱۸)

ہاں آپ سوچتے ہوں گے۔ وہ آگ کے شعلے کہاں سے لپک پڑے۔ تو سنو! جس طرح اہل ایمان جن اور انسان اور ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے جانثار سپاہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنیٰ سپاہی ہے۔ ہم تو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ دوستوں کے کام آتے ہیں اور دشمنوں کو انجام تک پہنچانا بھی ہمارے فرائض محبت میں شامل تھا۔

ہم نے شیبہ کو، اس کی تلوار کو، اس کی نیت اور ارادے کو، دیکھ لیا تھا۔ وہ جس طرف سے بھی آتا اس کو اپنی شکل ضرور دکھاتی تھی۔

ہم اسے جلا کر، راکھ کا ڈھیر بنا کر، عبرت کا نشان بھی بنا سکتے تھے لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی۔ اس کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہم دنیا کی آگ سے شعلوں سے بچالیا اور جہنم کی آگ کے شعلوں سے بھی بچالیا ورنہ بے چارے شیبہ کی کیا حیثیت تھی کہ ہماری موجودگی میں آپ پر حملہ آور ہوتا اور بچ کر نکل جاتا۔

دل اپنی طلب میں صادق تھا گھبرا کے سوئے مطلوب گیا
دریا ہی سے موتی یہ نکلا تھا دریا ہی میں جا کے ڈوب گیا

صلی اللہ علیٰ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد

وآلہ و اصحابہ و باریک وسلم

کھجوروں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و اطاعت

جب فاتحِ قلوب جن و انس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے۔ آپ اپنے جانثار ستاروں کے جھرمٹ میں ماہِ کامل کی صورت جلوہ افروز تھے۔ کیا بھلے لگتے ہوں گے تارے ماہِ کامل کے قریب۔ ایک شخص جو بنی سعد بن ہذیم میں سے تھا۔ آیا، سلام عقیدت و محبت پیش کیا اور بیٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی حاضر تھے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: يَا بِلَالُ أَطْعِمْنَا۔ اے بلال! ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ بھائی۔ حضرت بلال نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور گھی میں گوندھی ہوئی کھجوریں مٹھی بھر کر ہمارے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ حضور سراپا نور و ظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھئی کھاؤ۔ ہم سب نے کھانا شروع کر دیں۔ کھاتے رہے، کھاتے رہے جب ہم سیر ہو گئے تو وہ کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی پہلے سامنے رکھی گئی تھیں۔

اسی قبیلے کے محمد بن عمر الواقدی اپنے انہی بزرگوں سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ سرکار کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہ جتنی کھجوریں تھیں اتنی کھجوریں ہم میں سے ایک آدمی کھا سکتا ہے لیکن یہ ایک انوکھی بات ہوئی کہ ہم اتنے سیر ہو کر فارغ ہوئے ہیں اور یہ پھر اتنی کی اتنی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمان اور بندہ مومن صرف ایک آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافر اور بے ایمان سات آنتوں سے کھاتا ہے۔

وہ کہتے ہیں، میں دوسرے دن پھر اسی وقت حاضر ہوا تا کہ میرے ایمان میں

پختگی ہو۔ شاید وہ وقت کھانے کا تھا۔ آپ نے فرمایا: يَا بِلَالُ اطْعِمْنَا۔ بلال! ہمیں کچھ کھلاؤ ہم اسی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت بلال وہی تھیلی لے آئے اور اسی طرح کھجوریں نکال نکال کر ہمارے آگے رکھتے چلے گئے۔ شاید حضرت بلال کے دل میں کوئی خدشہ پیدا ہوا ہو یا ویسے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَا بِلَالُ اُخْرُجْ وَلَا تَخْشَ مَنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا۔

اے بلال! کھجوریں نکالتے جاؤ۔ عرش کے مالک سے ان کھجوروں کے کم ہونے کا اندیشہ نہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک اور بوری لے آئے۔ اور آ کر انڈیل دی۔ میں نے اندازہ لگایا۔ وہ کھجوریں تقریباً دو مدتھیں۔ آپ سرکار نے اپنا دست مبارک کھجوروں کی طرف بڑھایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرو۔ سب حاضرین نے میرے سمیت خوب سیر ہو کر کھجوریں کھائیں۔ اس کے باوجود دسترخوان پر اتنی ہی کھجوریں، اب بھی موجود تھیں۔ جتنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکھیری تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کھجوروں میں سے کوئی ایک دانہ بھی کسی نے اٹھا کر نہیں کھایا۔

تیسرے دن تو میں صبح ہی صبح پہنچ گیا اور دیگر اربابِ محبت بھی آ بیٹھے۔ جن کی تعداد دس تھی۔ حضور نبی رحمت، جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً ناشتے کے طور پر پھر حضرت بلال سے فرمایا: يَا بِلَالُ اطْعِمْنَا۔ اے بلال! کچھ لاؤ اور ہمیں کھلاؤ۔ حضرت بلال وہی تھیلا پھر اٹھالائے اور دسترخوان پر کھجوریں بکھیر دیں۔ جانِ عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرو۔ ہم نے کھانا شروع کر دیا حتیٰ کہ ہم دس کے دس آدمی خوب سیر ہو گئے۔ حضرت بلال نے وہ کھجوریں پھر اٹھائیں اور اسی تھیلے میں ڈال لیں۔ الغرض ہم تین دن اسی تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہے،

سیر ہوتے رہے، پیٹ بھرتے رہے، لیکن کھجوروں کی مقدار میں کمی نہ آئی۔

(ضیاء النبی، جلد ۴، ص ۶۱۴)

آئیے! ہم خود اپنی کہانی آپ کو سناتی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ رب ذوالعرش کے کرم سے ہو رہا تھا۔ جس نے اپنے محبوب اور محبوب کے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہ فرمانے کا پختہ عہد کر رکھا ہے۔ زیادہ کو کم کر دینا، بے برکتی پیدا کر دینا، اور تھوڑے میں برکت ڈال کر زیادہ کر دینا، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی کے کرم سے، ہم بھی جانتی تھیں کہ ہمیں اگرچہ سارا زمانہ کھاتا رہے۔ اس سارے زمانے کے لیے بھی ہمیں قدرت نے اشارہ کر رکھا ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کس کے ساتھ کیا، اگر کوئی عام سا انسان ہو جس کا قبلہ صرف دسترخوان ہو۔ اس کے لیے تو بے برکتی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم اس کی آنکھیں سیر ہونے دیتی ہیں اور نہ پیٹ اور جس نے ابتدا ہمارے اور اپنے سونے رب کا نام لیا ہو۔ اس کیلئے ہمارے وجود کی برکت دیکھنے والی ہوتی ہے اور اگر چودہ طبق کی کنجیوں کے مالک کے حضور حاضری کا ہمیں موقع ملے تو وہاں ان کے حضور، ان کے غلاموں کے حضور ہم اپنے دامن کی ساری تنگ دامانیاں تھوڑ پھوڑ کر رکھ دیتی رہی ہیں۔ آخر وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ بظاہر بے شک وہ کچھ نہ کہیں، لیکن ہمیں احساس ہو جاتا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ ہم کو دکھاتی تھیں اور زمانہ حیران رہ جاتا تھا۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنْظُرْ حَالَنَا
يَا حَبِيبَ اللَّهِ اَسْمَعْ قَالَنَا
اِنِّي فِي بَحْرِ غَمٍّ مُّغْرَقٌ
خُذْ يَدِي سَهِّلْنَا اَثْقَالَنَا

اللهم صل على محمد النبي الامي و على آله وسلم تسليبا

کنویں اور کنکریوں کی آپ سے محبت و اطاعت

تبوک میں قیام کے دوران، قبیلہ سعد بن ہذیم ہی کی بات ہے۔ ان کے چند آدمی، آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے خاندان اور اہل خانہ و عیال خانہ کے حوالہ سے ایک درخواست پیش کرتے ہوئے عرض کرنے لگے۔

حضور بندہ نواز! ہمارے کنویں میں، پانی بہت قلیل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی میں پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کنویں کا پانی، ہماری ضرورت پوری نہیں کرتا اگر یہ پانی ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں ہمیں ادھر ادھر بکھرنا پڑے گا۔ کافر، مشرک اور فذاق ہمیں لوٹ لیں گے۔ ہمارے مال مویشی اور اہل خانہ کو پریشان کریں گے، ہمارے علاقہ میں ابھی مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے کنویں کے پانی میں برکت ڈال دے۔

اگر ہم کنویں کے پانی سے سیراب ہونے کے قابل ہو گئے تو اس علاقہ میں ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہ ہوگا اور ہم کافروں، مشرکوں اور بے ایمانوں سے ادھر سے گزرنے بھی نہیں دیں گے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چند کنکریاں اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ ان میں سے ایک شخص تین کنکریاں اٹھا کے لے آیا۔ حضور سرورِ ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنے ہاتھوں میں ملا اور فرمایا: یہ کنکریاں لے جاؤ اور ایک ایک کر کے کنویں میں پھینک دو اور ہر بار سوہنے مالک، اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہ بھولنا۔

وہ لوگ گئے اور حسب ارشاد تینوں کنکریاں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کنویں میں پھینک دیں۔ کنکریاں پھینکنے کی دیر تھی کہ کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا نکلا اور کناروں تک بھر گیا۔ مالک نے انہیں پانی میں خود کفیل بنا دیا۔ جناب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ سارا قبیلہ ایمانہ اسلام میں داخل

ہو گیا اور بارگاہ رسالت میں آ کر قدم بوس ہوا۔

(سہل الہدیٰ جلد ۵، ص ۶۵۲-۶۵۱، ضیاء النبی جلد ۴، ص ۶۱۴)

آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے ہم تین کنکروں کو اپنے ہاتھوں میں مل کر کیا ارشاد فرمایا تھا اور ہم نے جا کر کنویں سے کیا کہا تھا کہ وہ اپنے خشک سوتوں کو جگا کر کنویں کو کناروں تک بھر دے۔ اور یہ صرف ایک ہی بار نہ ہو۔ جس طرح کوئی جادوگر لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر کے کوئی کرتب دکھا دیتا ہے۔ بلکہ یہ کنواں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کناروں تک بھرا رہے۔ شاید یہ بات قبیلہ سعد بن ہذیل کے لوگوں کو بھی معلوم نہ ہوئی ہو۔ حالانکہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا تھا۔ اب ہم بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھاتے۔ لیکن بات اتنی پوشیدہ بھی نہیں۔ آپ کے مقدس ہاتھوں کے لمس نے ہمیں سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ ادھر کنویں سے جا کر کہہ دینا کہ دیکھ ہمیں کس نے بھیجا ہے۔ بس وہ بھی سمجھ جائے گا۔ دراصل ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے دام غلام ہیں اور آپ کی پارٹی کے بندے ہیں۔ ہمیں جو اشارہ ملے وہ ہم کر گزرتے ہیں۔

زہے تاثیر ان کا نامِ نامی جب لیا جائے

زباں کو لازماً صل علی کہنا ہی پڑتا ہے

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

ایک برتن اور پیالے کی شان

غزوة تبوک میں حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرِ لوائے رحمت تیس ہزار صحابہ کرام تھے۔ بارہ ہزار اونٹ اور بارہ ہزار ہی گھوڑے تھے۔ سفر سے واپسی پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک جگہ پانی کا چشمہ تھا۔ حضر۔ بو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے موقع کی مناسبت سے کہا کہ یہیں

قیام کر لیتے ہیں لیکن صحابہ نے سفر مزید بائیں رکے میں صلیحت سمجھی کہ ابھی غروبِ آفتاب میں کافی وقت ہے سفر کچھ اور ہلکا ہو جائے گا۔

قافلہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا۔ جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اونٹ گھوڑے تیس ہزار صحابہ کا لشکر جرار، پریشانی ایک فطری امر تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک برتن اور ایک پیالے میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: **اِحْتَفِظْ بِمَا فِي الْاَدْوَاتِ وَالرَّقِيَّةِ فَاِنَّ لَهَا شَانَ**۔ اے ابو قتادہ! اس برتن اور پیالے کی حفاظت کرنا، ان کی بڑی شان ہے۔

آپ نے نماز فجر میں سورۃ المائدہ تلاوت فرمائی۔ نماز سے فراغت کے بعد اہل قافلہ کی پیاس کی شدت سے پیدا ہونے والی صورت حال دیکھی تو فرمایا: اگر ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر اور عمر کی بات مان لیتے تو ہدایت پا لیتے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا جو انہوں نے چشمے کے پاس ٹھہرنے کی تجویز پیش فرمائی تھی۔ پیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کے باعث سوار یوں کی اور صحابہ کی گردنیں لٹک گئیں اور جھک گئیں۔

یہ کیفیت دیکھنے کے بعد آپ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے وہ برتن اور پیالہ منگوایا اور فرمایا اس برتن کا پانی اس پیالے میں انڈیل دو۔ برتن سے پانی پیالے میں انڈیل دیا اور حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھ دیا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے پانی کی نہریں جاری ہو گئی ہیں۔

پیاس کے مارے، جن لوگوں کی حالت ناگفتہ بہ ہو چکی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پانی نوش کرنے لگے۔ جب سب سیراب ہو گئے اس کے بعد بارہ ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار اونٹ بھی پانی پی کر سیراب ہو گئے۔ سارے قافلے

والوں نے اپنے اپنے برتن بھی پانی سے بھر لیے۔ کچھ دیر پہلے جو حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ سے فرمایا تھا کہ برتن اور پیالے کو سنبھال کر رکھنا ان کی بڑی شان ہے وہ اشارہ اسی مقصد کے لیے تھا۔

(سبل الہدیٰ جلد ۵، ضیاء النبی، جلد ۴، ص ۶۲۶-۶۲۷)

شان تو، شان والوں کی ہوتی ہے ہم جیسے مٹی کے برتن اور پیالے، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں موجود ہوں گے۔ ان میں تو یہ کیفیت پیدا نہ ہوئی یہ تو ہمارے نصیب جاگے کہ ہماری نسبت ایک شان والی ذات کے ایک غلام ابو قتادہ سے ہو گئی جس برتن کا دامن زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ ایک آدمی وضو کر سکتا ہو اور جس پیالے کا دامن اتنا ہو کہ صرف ایک آدمی اپنی پیاس بجھا سکتا ہو اور اس کے دامن میں اتنا پانی جمع ہو جائے کہ تیس ہزار انسان جاں بلب انسان سیراب ہو جائیں اور چوبیس ہزار اونٹ اور گھوڑے سیراب ہو جائیں یہ سب کچھ ہمارے اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا صدقہ ہے۔

جمال ہمنشیں در من اثر کرد
وگر نہ من ہما خاکم کہ ہستم
حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ حضور کی شان اقدس بیان کرتے ہیں:

يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا
يَكُونُ فَلَا يَكُونُ وَلَا يَحُورُ

آپ ہمیں غیب کی خبریں بھی سناتے تھے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے اور آپ کی دی ہوئی خبروں میں نہ کوئی خرابی ہوتی تھی اور نہ کوئی ہیر پھیر۔

فَلَمْ نَرِيْ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا
وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيْلٌ

نہ تو ہم نے زندوں میں ان جیسا کوئی دیکھا اور نہ فوت ہونے والوں
میں ان کی کوئی مثال دیکھی۔

مَوْلَايَ صَلَّى وَسَلَّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

آسمانی بجلی اور طاعون کی گلٹی

قبیلہ بنو ثقیف کے مرد وزن نے خلوص نیت سے ہمارے خالق و مالک کی
وحدانیت اور اس کے محبوب ترین رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی رسالتِ بینہ کو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
پڑھ کر دولتِ ایمان سے سرشار ہوئے۔

البتہ اس قبیلہ کے تین سردار تھے۔ عامر بن طفیل، اربد بن قیس اور جبار بن
سلمہ ان میں عامر بن طفیل خوبصورت شکل و صورت کا مالک تھا لیکن شکل و صورت کا
حسن تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب تک دل کی دنیا کی کالک اور سیاہی نہ دھل
جائے۔

نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے
اللہ والے بے دیکھن نے دل ویکھ دل

اس کے دل میں عداوتِ مصطفوی کی کالک کی سیاہ تہیں اتنی جمی ہوئی تھیں کہ
اس کو اہل قبیلہ نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی۔ ایمان قبول کرنے کی دعوت پیش کی
لیکن اس نے کہا میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو کچھ مرضی ہے ہو جائے میں ہرگز
دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گا۔

ایک دن اس نے اپنی بدبختی میں شریک کرنے کے لیے اربد بن قیس اور جبار

بن سلمیٰ کو تیار کیا اور اربد جو بڑا ہوشیار قسم کا جنگجو اور شاطر قسم کا انسان تھا۔ اس سے کہا ہم تینوں ان کے پاس چلتے ہیں میں انہیں باتوں میں لگا لوں گا اور تم تلوار سے ان پر حملہ کر دینا۔ یہ اربد عرب کے مشہور شاعر لبید کا بھائی تھا۔

یہ تینوں اپنے سازشی ذہنوں کی تپتی ہوئی بھٹی کے ساتھ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے اپنا دوست اور یار بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا: جب تک تو دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنی ذہنی و فکری غلاظتوں کو دھو نہیں لیتا میں تمہیں اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ اس نے دو تین بار یہ جملہ دہرایا اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کیا اور باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک پر جھک گیا۔ اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اب اسے امید تھی کہ اربد اپنا کام کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا لیکن وہ توبت بنا کھڑا تھا۔ اس نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تین باتیں رکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک تسلیم کر لیں:

۱- اَنْ يَكُوْنَ لَكَ اَهْلُ السَّهْلِ وَلِيَّ اَهْلِ الْوَيْرِ

۲- اَوْ اَكُوْنَ خَلِيْفَتَكَ مِنْ بَعْدِكَ

۳- اَوْ اَغْزُوْ مِنْ غُطْفَانَ بِالْفِ اَشْقَرِ وَ بِالْفِ شَقْرَاءِ

یعنی ۱- صحرائی سارے علاقے کے آپ حاکم ہوں گے اور شہری

علاقوں کا میں مالک ہوں گا۔

۲- یا آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا دیں۔

۳- یا پھر میں غطفان سے ایک ہزار سرخ گھوڑوں اور ایک ہزار

جنگجوؤں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گا۔

آپ نے اس کی پہلی دو باتوں کو بالکل ہی مسترد کر دیا اور تیسری بات کے

بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ البتہ آپ سرکار کئی روز تک یہ دعائے مانگتے رہے: **اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ عَامِرِ ابْنِ طَفِيْلِ بِمَا شِئْتَ**۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ! مجھے عامر بن طفیل کے شر سے محفوظ رکھ جس طرح تو پسند کرتا ہے۔

جب عامر بن طفیل بارگاہ رسالت سے ناکام ہو کر نکلا تو اس نے اربد بن قیس کو بہت برا بھلا کہا اور اسکو اس کی بزدلی اور کوتاہی پر بڑی عار دلائی کہ تو اپنے آپ کو بڑا بہادر کہتا تھا لیکن تو تو انتہائی بزدل آدمی نکلا ہے۔ میں نے کتنی بار موقع دیا اور تو ایک بار بھی حملہ کرنے کی ہمت و جرات نہیں کی۔

اس نے جواب دیا مجھے الزام دینے سے پہلے میری بات غور سے سن۔ لگتا ہے وہ اکیلے نہیں اُن کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی ہے جو نظر نہیں آتی اور کسی دشمن کو ان پر حملہ آور نہیں ہونے دیتی۔ پہلی دفعہ میں نے کوشش کی تو ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے، میرنی طرف لپکا اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے کچا ہی چبا لیتا۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری دفعہ حملہ کرنے لگا تو ایک آگ کا شعلہ آگے بڑھا اور تیسری دفعہ تو میرا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ میرا ہاتھ بل جل ہی نہیں سکا۔ پتہ نہیں وہ کونسی مخفی قوتیں ہیں۔ جو ان کی دشمن سے حفاظت کرتی ہیں۔

یہ تینوں نامراد و ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ یہ خائب و خاسر اپنے خاندان کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس کے تکبر کی وجہ سے اکڑی ہوئی گردن توڑنے کے لیے طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ لاچار ہو کر بنی سلول کی ایک عورت کے ہاں پناہ لی۔ بنو سلول بڑا خسیس اور پرلے درجے کا کمینہ خاندان مشہور تھا۔ اس کمینے خاندان کی کمینہ عورت کے گھر میں اتنے بڑے رئیس عامر کا بے بسی کی موت مرنا اس کے لیے موت سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ اس نے اپنے خاندان والوں کو بلا بھیجا کہ مجھے یہاں سے لے چلو لیکن جس کو ذلیل و رسوا کر کے ہی

مارنا مقصود ہو۔ اس کو اس عذاب سے کون بچا سکتا تھا۔ اس کے خاندان کے لوگ اس کو لینے کے لیے آئے بھی۔ انہوں نے اسے اٹھا بھی لیا لیکن وہ اسی عورت کے دروازے پر ہی گرا اور جہنم کے سب سے نچلے والے ہسپتال میں پہنچنے کے لیے موت کی آغوش میں چلا گیا۔

اربد اور جبار تو واپس آ گئے۔ لیکن عبرت کی آنکھ چونکہ گستاخی و دشمنی رسول کی وجہ سے سلب کر لی گئی تھی۔ اس سے اس عامر کی رسوا کر دینے والی موت سے عبرت نہ حاصل کر سکے۔ ان کے قبیلے والوں نے واقعہ پوچھا تو اربد نے بکو اس کی کہ اس نے ہمیں ایمان کی دعوت دی۔ جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ اگر وہ اس وقت سامنے ہوتا تو میں اس کو تیروں سے چھلنی کر دیتا۔

اس کم بخت سے کوئی پوچھتا جب تو گیا ہی اسی لیے تھا تمہیں قریب تر ہونے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ تو نے اس وقت یہ ناپاک قدم کیوں نہ اٹھایا۔ اگر اٹھاتا تو دنیا تیرے وجود سے عبرت حاصل کرتی۔

نبی رحمت، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ایک خادمہ موقع کی تلاش میں تھی بس اس خادمہ کے غصے کی بجلی کی کڑک، اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ دو تین دن بعد کی بات ہے اربد، باہر کھیتوں میں اپنے اونٹ چرا رہا تھا اور کہیں بادلوں کا نام و نشان نہ تھا۔ اچانک بجلی آئی، کڑکی، گرجی، برسی اور اسے جلا کر خاک سیاہ بنا کر چلی گئی۔

البتہ تیسرا سا تھی چونکہ پورے واقعہ میں خاموش تماشا سائی کی حیثیت سے شامل رہا تھا اس لیے اسے عبرت کا نشان بنانے کی بجائے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دیا گیا۔

ہم بے جان سہی لیکن بے حس نہیں۔ طاعون کی گلٹی نے اپنا ٹارگٹ منتخب کر لیا۔ اربد کا ہاتھ شل کرنے کے لیے ماحول کی فضاء نے اپنا فرض ادا کر دیا اور بجلی

نے تو اسے واصل جہنم کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا۔ یوں ہم حضور کی فوج کے بے جان سپاہی، اپنی اپنی جگہ اپنا کردار کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اظہار محبت کرتے ہی رہتے ہیں۔ (ضیاء القرآن جلد ۴، ص ۶۶۷)

عاشقاں راچہ کار با تحقیق

ہر کجا نام اوست قر بانیم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و بارک وسلم

آگ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سے محبت

خالق ارض و سماء نے اپنی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی انوکھا رنگ بھر دیا ہے اور وہ رنگ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ فطرتی صفت اس سے جدا نہیں کی جاسکتی۔ قینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام سینا ہے، سردی کا کام ہے اپنے معمول پر ایسی اثر انداز ہو کہ وہ گرم کپڑے پہنے بغیر رہ نہ سکے، گرم ماحول میں داخل ہو کر سکون پائے، آگ کا کام جلانا ہے، راکھ کرنا، خاک اڑانا ہے، اگر یہ صفات ان سے چھین لی جائیں تو ان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ پانی پیاس نہ بجھائے، ناپاک کو پاک نہ کرے، مردہ زمین سے نباتات نہ اگائے، تو پانی کا کیا فائدہ، سورج کی دھوپ اور تمازت، روشنی نہ دے، کان میں مخفی معدنیات کو، سونا، چاندی اور دوسری دھاتوں میں، قیمتی ہیرے جواہرات میں تبدیل نہ کرے۔ نباتات کی پیدائش میں معاون بن کر ان کو مٹھاس نہ بخشے، کونوں کھدروں میں تسلط جما کر بیٹھنے والی تاریکیوں اور گھپ اندھیروں کو بھاگنے پر مجبور نہ کرے تو بتاؤ سورج کا کیا فائدہ؟

وہ خالق و مالک، قادرِ مطلق، اللہ الصمد، بے نیاز و بے پرواہ رب، جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اس کے کام، اس کی جبلت میں شامل کر کے، اپنے اپنے فرائض ادا کرنے پر مامور کر دیا۔ وہ جب چاہے ہم سے وہ جبلت، وہ فطرت اور وہ

صفت و صلاحیت ہم سے چھین بھی لے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے۔

اگرچہ لاتبدیل لکلمات اللہ اس کی شان میں ہے۔ وہ اپنی عادات مبارکہ تبدیل نہیں کرتا لیکن جب وہ اپنے پیاروں کے لیے کسی قانون میں تبدیلی لانا چاہے بھی تو کوئی اسے ٹوک بھی نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، وہ پانی کو راستہ بنانے کا کہہ دے تو پانی بہتا پانی، اپنی فطرت چھوڑ کر راستے بنا کر پیش کر دینے میں فخر محسوس کرے گا۔ پتھر کو پانی کے چشمے جاری کرنے کا کہہ دے تو پتھر کیلئے یہ اعزاز ہے، لاٹھی سانپ مارنے کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر خود اسے ہی سانپ بن جانے کا کہہ دے تو کہہ سکتا ہے اور وہ لاٹھی سانپ بن کر دکھا بھی دے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن اگر اس چھری ہی کو مرہم بن کر نازک حلقوم کی حفاظت پر مامور کر دے تو یہ اس کے لیے اعزاز ہے۔ میں آگ ہوں، میرا کام جلانا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا فقیر، میں سب کو جلا کر رکھ کر دیتی ہوں۔ میری حدت، میری جلن سے بچنے کے لیے کچھ احمقوں نے مجھے معبود تک مان لینے کی حد تک پہنچ گئے لیکن میں ان کو بھی معاف نہیں کرتی۔

لیکن دیگر حکم کی پابند تخلیقات کی طرح، مجھے بھی اعزاز ملا ہے کہ میرے مالک نے مجھے ارشاد فرمایا: يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ۔ اے آگ! ہمارے ابراہیم جس نے کبھی بھی ہمارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آج وہ تیرا مہمان بننے والا ہے، آج اپنی فطرت بدل لے۔ صرف ٹھنڈی ہی نہیں ہونا بلکہ اپنے انگاروں کو کہہ دو کہ تمہاری قسمت جاگ اٹھی۔ ازل سے دکتے انگارو، دیکھو آنے والے کے قدم چوم لو اور گلاب، موتیا، چنبیلی، نسترن، زگس کے پھولوں کا روپ دھار لو جس نے تمہاری فطرتی جلن سے تمہیں نجات دلانے کا موقع فراہم کیا۔

میری حدت، میری جلن، میری حرارت، بھرپور اپنے جو بن پر تھی کہ اچانک

میرے خالق و مالک کا خلیل، دوست، فرمانبردار بندہ، ابراہیم، میرے ہاں تشریف لے آیا اور میری فطرت اچانک بدل گئی۔ اتنی جلدی تو مجھ پر پانی ڈالا جائے تو میں ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ اور بھڑکتی ہوں اور بھڑکتی ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے سے تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے آپ سورج کی جھلستی گرمی سے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں آ کر اچانک سکون محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا۔ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سکون ملا ہو۔ چونکہ وہ سکون کے محتاج نہیں تھے۔ انہیں تو سکون پہلے ہی حاصل تھا۔ انہوں نے کسی لمحے بے سکونی اور بے صبری نہیں دکھائی تھی۔ البتہ ان کے آنے سے مجھے سکون میسر آ گیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔

کبھی کبھی میرا مالک، مجھ پر احسان فرماتا ہے کہ میں آگ ہو کر بھی آگ نہیں رہتی۔ آنے والے اپنی پارٹی کے عظیم بندے کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہوں۔ سلامتی والی بن جاتی ہوں۔ البتہ میری جلن کا رخ بدل جاتا ہے۔ میں فریق مخالف، کافر و مشرک اور بے ایمانوں کی ناکامی کی جلن بن کر جو ان کو جلاتی ہوں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اگر پوچھنا ہو تو کبھی نمرود اور آل نمرود سے پوچھ لیجئے۔

چلیں چھوڑیں۔ ان کم بختوں کے ذکر کو۔ اپنے ایمان کے کام و دہن کا ذائقہ کیوں خراب کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور خوبصورت واقعہ سناتی ہوں۔

اللہ تعالیٰ، جل و علی، کے ساری دنیا کے لیے واحد نمائندے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام، حضرت ابو مسلم خولانی تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دنوں یمن میں ایک احمقوں کے سردار اسود عنسی نے اپنی سیاہ دلی سے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کچھ نامراد لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور حضرت ابو مسلم خولانی اس علاقہ میں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کے صحیح جانثار اور عاشق صادق معروف و مشہور تھے۔

ایک دن اسود عسی کذاب ابن کذاب نے آپ کو اپنی مجلس میں بلایا اور کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آپ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا: ما اسمع، میں کچھ نہیں سنتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ نے جھٹ جواب دیا۔ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

اس نے یہ دو سوال تین بار دہرا دہرا کر پوچھے اور آپ نے بھی اسی ترتیب سے اس کے دونوں کا جواب اسی طرح دیا۔

اس نے طیش اور غصے میں آ کر اپنے چیلوں چانٹوں سے کہا فوراً آگ جلائی جائے اور اس آگ میں اس کو پھینک دیا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ فوراً لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں۔ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کر دیا گیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو رسیوں میں باندھ کر بھڑکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔

میں جلنے کے ابتدائی وقت سے آخر تک کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ ملت ابراہیم کا ایک نمائندہ، بے خطر، آتش نمرود میں پھینکا جانے والا ہے، اب کیا ہوگا کہ میرے مالک نے مجھے وہی دو ہزار سال پرانا حکم پھر سنا دیا۔ یا نسا کونی بردا و سلاماً۔ اے آگ! ہمارے محبوب کا ایک چاہنے والا، تیرے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے اس کے لیے اپنے اس کردار کو بدل کر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔

بس جونہی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں اسی طرح ان کے لیے بھی بردا و سلاماً کی شان والی

ہوگئی۔ الحمد للہ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کے جسم کو آگ لگنا تو بہت دور کی بات ہے آپ نے جو لباس پہن رکھا تھا میں نے اس لباس کو بھی آنچ نہ آنے دی۔

البتہ اسود غسی اور اس کے مشیروں کو ان کی ناکامی کی آگ اور اس کی جلن نے جلا کر ان کو راکھ کر دیا۔ آخر انہوں نے مشورہ کیا۔ ابو مسلم کو یمن سے نکال دو۔ ورنہ یہ ہمارا سارا ماحول خراب کر دے گا اور ہمیں مزید ذلیل و رسوا کر دے گا۔

جب یہ واقعہ ہوا اس وقت جان عالم و جان ہر جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے واصل باللہ ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورِ خلافت تھا۔

حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف کر دیا۔ اس سارے واقعہ کے اثرات و کیفیات تو کوئی ان سے پوچھے۔ کہ ان پر کیا گزری۔ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر مسجد شریف ہی میں اپنا سامان رکھا اور ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔

اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک اجنبی مسافر کو اپنے سامان کے ساتھ، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعارف حاصل کرنا چاہا اور پوچھا: ممن الرجل؟ بھئی! آپ کون صاحب ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں یمنی ہوں اور یمن سے ہی آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو وہاں کے جھوٹے نبی نے آگ کے لاؤ میں پھینکا تھا۔ آپ نے بتایا انا ہُو، میں ہی وہ شخص ہوں۔ آپ نے حیرت سے دوبارہ پوچھا، واقعی تم وہی ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ اللہم نعم

اللہ کی قسم وہ میں ہی ہوں۔

بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو سینے سے لگالیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشار جاری ہوگئی۔ انہیں ہمراہ لیا اور خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے اور کہا، الحمد للہ۔ جس نے مجھے مرنے سے پہلے اس شخص کی زیارت کا شرف بخشا۔ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ۔

صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

ستاروں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

زمین کے ذرو! تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا محبوب ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہے، اگر تمہیں کوئی کور چشم مٹی کے ذرے ہونے کا طعنہ دے تو اسے تم کہہ سکتے ہو کہ کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ ہم آسمانوں کے مکین، بلندیوں کے امین، تمہارے مقدر پر رشک کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مالک نے ہمیں بلندیاں بخشیں، روشنی بخشی، چمکنا، دکلنا بخشا، بھولے بھٹکوں کو راہ بتانا بخشا، آسمان کو زینت دینا بخشا، لیکن محبوب سے دوری کے بدلے یہ تمام نعمتیں ہمیں ہیج نظر آتی ہیں۔

ہمیں وہ دن نہیں بھولنا جب مکہ معظمہ میں بہار اولین کے موسم میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہر جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔

آپ کی ولادت با سعادت کے وقت حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ موجود تھیں۔ وہ اس وقت کی گواہ ہیں کہ ہمیں آپ کی ولادت با سعادت کے وقت آپ کے گھر چراغاں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پورا ماحول بقعہ نور بن گیا تھا۔ اندھیرے چھٹ گئے تھے۔ آپ انہی کی زبان سے ان

لمحات کی عکاسی کا منظر سن لیں۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں:

قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدَلِّي حَتَّى قُلْتُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ
فَلَمَّا وَضَعَتْ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ وَالذَّارُ حَتَّى
جَعَلْتُ لَا أَرَى إِلَّا نُورًا۔

آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس ان کی ولادت کے وقت موجود تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان سے ستارے جھکنے لگے یہاں تک مجھے گمان ہونے لگا کہ مجھ پر ہی آگریں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ کے جسم مقدس سے نور نکلا جس نے درود یوار کو چمکا دیا اور مجھے ہر طرف سے نور ہی نور نظر آنے لگا۔

ہمیں اس وقت آپ کی تشریف آوری کے موقع پر آپ کی بلائیں لینے کی اجازت مل گئی تھی اور ہم آسمان سے نیچے آنے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔

یہی واقعہ آپ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سے بھی سن سکتے ہیں۔ ان کا اسم گرامی حضرت شفاء بنت عمرو بن عوف تھا۔ وہ بھی آپ سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے پاس موجود تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو:

فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ
قُصُورِ الشَّامِ۔

یعنی اس وقت مشرق سے مغرب تک سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں نے شام کے بعض محلات بھی دیکھ لیے۔

اس واقعہ کو ابن بریدہ اپنے والد ماجد سے یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور

وسرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کا خاص خیال کرنا اور اس کے بارہ میں کسی کاہن سے بھی نہ پوچھ بیٹھنا کیونکہ جب یہ شہزادہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ

كَانَهَا خَرَجَ مِنِّي سِهَابٌ أَضَاءَتْ لَهُ الْأَرْضُ كُلَّهَا۔

گویا مجھ سے ایک نور نکلا۔ ایک ستارہ نکلا جس کے نور سے ساری زمین ہی روشن ہوگئی اور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔

تو ایک دن آپ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہیں تشریف لے جا رہی تھیں۔ عرب کی ایک منڈی ذی الجواز میں جب پہنچی تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ایک کاہن کے پاس جمع ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس ہجوم کو دیکھ کر آگے بڑھیں۔ جب اس کاہن نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کا نام پوچھا، آپ کا چہرہ انور دیکھا پھر آپ کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو اس نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے آپ کو چھین لیا اور شور مچا دیا، اس بچے کو قتل کر دو، جلدی کر دو، پکڑو اور قتل کر دو۔ اس کی وجہ سے یہود و نصاریٰ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ کیفیات دیکھیں تو گھبرا گئیں اور جلدی سے کاہن سے بچہ چھین کر وہاں سے نکلنے ہی میں عافیت سمجھی۔ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں جلدی جلدی اپنے گھر آ کر سکون و راحت کا سانس لیا۔

نجاشی بادشاہ، ورقہ بن نوفل اور ایک بت

پتہ نہیں ہماری بد قسمتی تھی یا حضرت انسان کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ یا اس کی سوچ اور فکر کی تمام صلاحیتیں پتھر ہو گئیں تھیں کہ اس نے ایک مالک کے در کو چھوڑ کر ہزار چوکھٹ کا سجدہ پسند کر لیا۔ ہم پتھر کے بت، پتھر ہوتے ہوئے بھی، ہر

وقت کڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت تو ہماری بتوں کی حالت، اور بھی بگڑ جاتی تھی کہ ہمارا مخدوم، انسان، جس کی خدمت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا وہ نذر و نیاز اور نذرانے لیے عقیدت کا پیکر بن کر ہمارے حضور میں سجدہ ریز ہوتا تھا اور اگر ہم بے حس ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہم بے حس نہیں تھے۔ ہمیں علم تھا کہ کل قیامت کو جہنم کی آگ میں یہ ہماری عبادت کرنے والے پھینکے جائیں گے۔ وہاں ان کے اس عمل کو خوش ہو کر، اپنا سراونچا کر کے، فخر و غرور کے ساتھ، بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہوئے بھی، اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیئے جائیں۔

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کا یہی مطلب ہے اس لیے ہم گاہے گاہے کسی نہ کسی طرح، انسان کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے اور کبھی ہم اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے اور کبھی ناکام بھی۔

جس روز مطلع انوار و تجلیات ذات الہی، مرکز و محور مخلوقات ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے رونق افروز دنیا ہوئے۔ میں اس مکہ میں ورقہ بن نوفل کے گھر میں تھا اور آپ کی آمد آمد پر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور بلند آواز سے میں نے یوں کہنا شروع کر دیا:

وُلِدَ النَّبِيُّ فَذَلَّتِ الْأَمْلَاكُ

وَنَائِي الضَّلَالُ وَأَذْبَرَ الْأَشْرَاكُ

نبی رحمت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے اور بادشاہوں کی بادشاہیاں ذلیل و رسوا ہو گئیں، گمراہی دور ہو گئی اور شرک پیٹھ پھیر گیا۔

لَوْلَمْ يَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُّبِينَةٌ

لَكَانَ مَنظَرُهُ يُنْبِئُكَ بِالْخَبَرِ

(حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ)

اگر حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیگر واضح نشانیاں نہ بھی ہوتیں۔ پھر بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ہی تجھے بتا دیتا کہ آپ واقعاً اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم

چاند کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

پتہ نہیں دنیا کو میری کوئی ادا پسند آگئی ہے کہ جب بھی کسی حسین کی تعریف مقصود ہوتی ہے۔ اسے مجھ چاند سے ہی تشبیہ دیتے ہیں وہ تو چاند جیسا ہے حالانکہ میں خود جانِ کائنات اور حسنِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل پیشانی سے بھیک لے کر روشن ہوں۔ میں خود مملوک شاہِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جانِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں۔ میرے دو وزیر زمین پر ہیں۔ وزارتیں تو وہیں ہوتی ہیں جہاں جہاں بادشاہت ہو۔ آسمانوں کی بے شمار مخلوقِ خدا کی طرح میں بھی آپ کی بلائیں لیتا رہتا ہوں۔

بچپن کا زمانہ اور اس زمانہ کی آپ کی تمام حرکات و سکنات ہمارے سامنے ہوتی تھیں۔ جب رات کو میرے طلوع کا وقت ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں صحن شریف میں اپنے پنگھوڑے میں آرام فرما ہوتے۔ تو میں وہاں بھی آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر رقص کیا کرتا تھا بلکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی کھلونا تھا:

کھلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے
خود سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

اس لیے دنیا والوں کو کہہ دیں کہ وہ سارے زمانے میں اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے عزیز، اپنے محبوب، اپنے مطلوب، جس کو چاہیں، چاند کہہ لیں۔ چاند سے تشبیہ دے لیں۔ لیکن حسنِ ازلی کے شاہکار، شاہکار ربوبیت، آئینہ جمالِ الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی چاند سے تشبیہ نہ دیں۔

چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے
چاند کے چہرے پہ چھائیاں اُن کا چہرہ صاف ہے
ماہ و انجم کی جبینوں پر پسینہ آ گیا
پیکرِ انوار تیرا نوری تلوا دیکھ کر
پڑی جب نگاہ ان کے روئے حسین پر
تو چاند آ گیا شرم کھا کے گہن میں

آپ کہتے ہوں گے چاند! تو جذبات میں آ گیا ہے ہاں، ہاں! انہیں جذبات میں ڈوبے رہنا، میری عبادت ہے، میں نے اپنی زندگی میں، آپ کے اشاروں کو دور سے سمجھتے ہوئے دو دفعہ آپ کے قدموں میں حاضری دی ہے۔ زمانہ گواہ ہے آپ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی بلائیں لینے والے، آپ کی پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر برکات حاصل کرنے والوں کے بیان کردہ حدیث کو پڑھ لیں۔ آپ کو یقیناً یقین آ جائے گا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: - انشَقَّ الْقَمَرُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَقَتَيْنِ -
فَسَتَرَ الْجَبَلَ فَلَقَةً وَكَانَتْ فِلقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ - فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ -

(متفق علیہ وھذا لفظ مسلم)

رفی روایۃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ - (متفق عليه وهذا اللفظ مسلم)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! تو گواہ رہنا۔

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو مرتبہ چاند کے ٹکڑے کر دکھائے۔

’دیکھے نہ مجھے رشک سے کیوں چشم دو عالم
ورثے میں ملی ہیں مجھے حسان کی آنکھیں

(ظفر چشتی)

بادلوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

فضائی دنیا میں، بسنے والی، اڑتے پھرتے رہنے والی، بے جان مخلوق میں، میرا نام بھی شامل ہے، مجھے بادل کہتے ہیں جیسے ساری کائنات اور اس میں رہنے والی ہر قسم کی مخلوق اپنے خالق و مالک کی بے دام غلام ہے۔ اس نے ازل سے ہماری فطرت میں جو عبادت رقم فرمادی ہے۔ اس سے سرمو انحراف، ممکن نہیں۔ ہر لحظہ ہر آن ہر لمحہ ہمارا اسی کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتا ہے۔ وہی ہمارا محبوب، ہمارا معبود، ہمارا مسجود و مقصود۔ اگر اپنی مخلوقات میں سے کسی شاہکار تخلیق کو چاہتا ہو،

بلائیں لیتا ہو، پیار کرتا ہو، اس کی رضا کا طالب ہو، اس کے چہرے کو دیکھتا ہو، اس پر صلوٰۃ بھیجنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہو۔ تو ہم بھلا! ان کے حکم کی تعمیل نہ کریں بلکہ ہم ان کی پارٹی کے جو بندے ہیں یا ان کے بنانے سے جو ہمارے مالک کے صحیح معنوں میں بندے بن گئے۔ ہم تو ان کی خدمات میں بھی مصروف رہتے ہیں۔

ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن لیں۔ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انشاء اللہ۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقَى رَبَّكَ فَانظُرْ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مَطَرُوا حَتَّى سَأَلَتْ مَنَاعِبُ الْمَدِينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمَطِّرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلَا يُمَطِّرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجَابَةَ دَعْوَتِهِ (متفق عليه)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ مدینہ منورہ میں اس وقت خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے۔ لہذا اپنے رب سے بارش طلب فرمائیں تو آپ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں بھی اس وقت، آسمان پر کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تو فوراً بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر سے آ آ کر ملنے شروع ہو گئے۔ پھر بارش ہونے لگی۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہنے لگیں اور بارش اگلے جمعۃ المبارک تک متواتر ہوتی رہی۔ پھر وہی شخص یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا جبکہ اس وقت بھی حضور سر اپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم تو غرق ہونے لگے۔ لہذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے اور دعا کی، اے اللہ تعالیٰ! ہمارے ارد گرد برسنا۔ ہمارے اوپر نہ برسنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا دو یا تین دفعہ فرمایا۔ پس بادل چھٹ گئے اور مدینہ منورہ کے دائیں بائیں جانے لگے۔ چنانچہ ہمارے ارد گرد (کھیتوں اور فصلوں پر) بارش ہونے لگی۔ ہمارے اوپر سے بارش بند ہو گئی۔ یونہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دکھاتا ہے۔

آپ نے ساری بات پڑھ لی۔ آپ سوچتے رہوں گے کہ دعا تو منگوائی گئی تھی کہ خشک سالی ختم ہو جائے، خشک سالی کے ختم ہونے تک کی ضرورت کے مطابق بارش ہو جاتی۔ پھر بند ہو جاتی۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں جو حکم ملا تھا وہ برسنے کا حکم ہوا تھا۔ ہم نے برسنا شروع کر دیا نہ ہم نے اپنی مرضی سے برسنا شروع کیا تھا اور نہ اپنی مرضی سے بند کر سکتے تھے۔ جس طرح برسنے میں بھی کسی کے حکم کے پابند تھے۔ اس طرح بارش بند کرنے میں بھی کسی کے حکم کے پابند تھے۔ جس طرح سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ذیح اللہ کا لقب پانے

والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مقدس ایڑیوں کی ٹھوکرا سے نکلنے والے پانی کو آپ زم زم کہہ کر نہ روکتیں تو وہ پانی سارے زمانے کے کونے کونے تک پہنچ جاتا۔ انہوں نے روک دیا تو وہ رک گیا۔ اسی طرح اگر ہمیں بھی برسنے سے رکنے کے لیے نہ کہا جاتا تو ہم بھی قیامت تک برستے برستے رہتے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یونہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور دعا کے اثرات دکھاتا رہتا ہے کہ لوگو! ہوش میں آؤ۔ کہیں تم بھی بعض نا عاقبت اندیش لوگوں کے جال میں پھنس کر نہ کہنا شروع کر دینا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ ساری دنیا کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے وہ جو چاہیں کر دیتا ہے۔ وہ بارش کی درخواست کریں تو شروع ہو جاتی ہے، وہ نہ چاہیں یا جب تک وہ نہ کہیں ہوتی ہی رہتی ہے۔

حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم فرمانا بھی اسی بات کا غماز ہے کہ مدینہ منورہ کے باسی لوگ مہاجرین و انصار وہ سب ایسے تھے کہ دامن نچھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں لیکن ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ **اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ**، اور بے نیاز رب بھی جتنی ان کی مانتا ہے اور کسی کی نہیں مانتا۔

تیرے مونہوں گل جیہڑی نکلے اوہ تیراے

جیہڑا توں اشارہ کریں اوہو تقدیراے

صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم

جنتی پھل کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

اس دنیا کی زندگی کا ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی صاحب اختیار ہو۔ دولت کے انبار اتنے ہوں کہ اس کا حساب لگانا بھی اس کے بس میں نہ ہو۔ اس دولت کے خرچ کرنے پر کوئی قدغن اور پابندی بھی نہ ہو۔ بے حد وعد انسان بدل و جان

چاکری کے لیے ہمہ وقت حاضر ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ پوری دنیا کا چپہ چپہ اس کی گرفت ہو۔ اس کے باد صاف، ضروری نہیں کہ وہ دنیا کے ہر قسم کے پھل سے اپنی زندگی میں لطف اندوز ہو۔ ہزاروں قسم کے پھلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ زمین کے مختلف خطوں کے موسموں کے مطابق وہاں پھل پیدا ہوتے ہیں۔ سردیوں کے موسم کے پھل، گرمیوں کے موسم کے پھل، معتدل موسم کے پھل، خزاں کے موسم کے پھل، بہار کے موسم کے پھل، برصغیر پاک و ہند کے پھل، چین، چیچنیا، روس کے پھل، افریقہ، برطانیہ اور امریکہ کے پھل، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کی دسترس میں ساری زمین کے ہر موسم کے پھل ہوں۔ پھر ان کو کھانے پر قادر ہو۔ کسی پھل کا ذائقہ بہت ہی میٹھا، کسی کا بہت پھیکا، کوئی اس کی صحت کے لیے مفید کوئی اُس کے لیے مضر۔

غرض کوئی انسان ایسا نہیں جو دنیا کے ہر قسم کے پھلوں پر قادر ہو۔ اس کی پہنچ میں ہوں، یا وہ کھانا نصیب ہوں، کھائے تو کھانا نہ سکے، البتہ انسانیت کی معراج کا تاج پہننے والے تاجدار، چودہ طبق کے والی، ساری کائنات کی چابیاں، ان کے خزانوں کی چابیاں اپنے جیب میں محفوظ رکھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں دنیا کے پھل بھی ہیں اور جنتی پھل بھی۔ ان کو پکڑنے کی قدرت رکھنے والے، ان کے کھانے پر کوئی قدغن نہیں۔ یعنی جنتی پھلوں پر بھی گرفت رکھنے والے ساری کائنات میں، صرف آپ ہی کی ذاتِ اقدس ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا و آخرت کے پھل ان کی گرفت میں کھانا چاہیں تو کھالیں نہ چاہیں تو نہ کھائیں، نہ کوئی مجبوری، نہ کوئی معذوری، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی پابندی اور نہ کوئی قدغن، نہ زمانے کی قید، نہ عمر کی قید، جب چاہیں اپنے خالق و مالک کی ہر عطا کردہ چیز استعمال فرمائیں۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس عظیم شخصیت کے حضور حاضر رہنے والے بچوں کے بادشاہوں میں سے کسی ایک کی زبان سے دیکھا ہوا

چشم دید واقعہ پڑھ لیجئے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ
الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ
تَكْفَكَّتْ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُقُودًا وَلَوْ
أَخَذْتُهَا لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا . (متفق عليه)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہمایوں میں سورج گرہن ہوا
اور آپ نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک والک وسلم! ہم نے دیکھا کہ آپ
نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی اور کھانا پسند فرمائی پھر ہم
نے دیکھا آپ کسی قدر پیچھے ہٹے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: مجھے جنت نظر آئی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک
خوشہ پکڑ لیا اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے
رہتے۔ (اور وہ ختم نہ ہوتا)

اس کو کہتے ہیں ”کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی ان کی“ سورج گرہن لگا ہوا ہے،
تمام پاک اور نفوسِ قدسیہ، باہر میدان میں اپنے مالک کے حضور، دعاء استغفار میں
مصروف ہیں۔ ان کا امام آگے کھڑا نماز پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ! لیکن عالم یہ ہے
کہ امام جنت کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اس کے پھل، اس کے گوشے اور خوشے
ہاتھ میں پکڑ رہا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے کہ جنت و دوزخ کا مسئلہ یَوْمِنُون
بِالْغَيْبِ تک ہی محدود نہ رہنے دیا جائے اور نمازی حضرات ہیں کہ نماز کی حالت
میں بھی، امام صاحب کی حرکات و سکنات پر نظریں جمائے کھڑے ہیں کہ کوئی ادا،

آپ کی رہ نہ جائے اور اس پر عمل نہ ہو۔

اس امام پر اس کی امامت پر لاکھوں سلام، ان کے عظیم مقتدیوں اور ان کی اقتداء کے انوکھے انداز پر سلام۔

عشق احمد سی دنیا میں نعمت نہیں مال و زر کی بھی کوئی حقیقت نہیں
بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در کے جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے

صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولنا محمد و آلہ

و اصحابہ و بارک وسلم

چھاگل کی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے محبت

جس انسان کے اندر کی سوئی ہوئی خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہوں کہ مردار نظر آجائے تو سوئے ہوئے کتے کا بال بال جاگتے ہی دانت بن جائے اور وہ مردار کو جھنجھوڑ کر نندیوں کی طرح کاٹ کاٹ کھانا شروع کر دے۔ اس کی بات نہ کر نہ اس کے ذکر سے اپنے دل کی پیار کی دنیا ویران کر۔

آ۔ ان کی بات کریں جن کے ساتھ لگ کر گدھے بھی انسانوں جیسے کام کرنے لگیں۔ بے شعوروں کے باڑے اور کھلوڑے سے نکل کر باشعوروں میں شامل ہو جائیں جن کی اونٹنیاں مامور بن اللہ ہو جائیں۔ جن کے دروازے پر ننھی اور نازک ترین مکڑیاں جالاتان کر اسلام کے بدترین دشمن کا منہ پھیر دینے پر مجبور کر دے۔ پتھر، روڑے، روڑیاں، کنکر، ریت اور مٹی کے ذرے جن کا کلمہ یاد کر لیں ان کی بات کریں ان کے ذکر سے کانوں میں رس کھولیں دل کے درتے باز کریں۔

میں پانی کی چھاگل ہوں۔ میرا ظرف جتنا ہوتا ہے اتنا پانی ہی اپنے دامن میں سما سکتی ہوں۔ اگرچہ گلشن میں تنگی سماں کا سامان موجود ہو، تنگ دامانی کے شکوے دور کرنے والے خود رجوع ہو تو فکر کا ہے کی۔ مقام حدیبیہ میں جہاں جان

کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بے شمار اشیاء کو خدمت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس نے مجھے بھی اس ہمت سے محروم نہیں رکھا۔ حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی زبانی بات سن لیں۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَطَشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرَبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَّانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (رواه البخاري واحمد)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضوء فرمایا۔ لوگ پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہمارے پاس نہ وضوء کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے ہے۔ صرف یہی پانی ہے جو آپ سرکار کے سامنے پڑا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (یہ سن کر) اپنا دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا۔ تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا۔ چنانچہ ہم سب نے (خوب پانی) پیا اور وضوء بھی

کیا۔ (حضرت سالم رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس وقت آپ کتنے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ البتہ ہم سب اس وقت پندرہ سو افراد تھے۔)

مجھ چھاگل میں اس دست کرم کا کمال تھا جس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے اور ڈیڑھ ہزار آدمی نے پانی پی بھی لیا اور وضو بھی کر لیا اور اتنے پانی کو سمونے کا ظرف بھی عطا فرمایا۔

جمالِ ہم نشین در من اثر کرد

وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

میرے کرم فرما ہمنشین کے حسن و جمال کے اثرات تھے وگر نہ میں تو وہی ایک مٹی کا برتن تھا۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

توشہ دان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی و موت، جینا اور مرنا، اوڑھنا اور بچھونا، گفتگو کرنا یا خاموش رہنا، سونا اور جاگنا، مسکرانا اور غم زدہ ہونا۔ آپ کی تبلیغ و دعوت اور اس کے نتیجے میں سارے کرب۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ، ساری حکمرانیاں، ساری سلطانیاں، ساری بادشاہیاں، کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے ہے بلکہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز انہی کے لیے، میں ایک توشہ دان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بے کراں مخلوقات میں میری کیا حیثیت ہے لیکن جب مالک نے پیدا کیا ہے، اس کے حسین نظام کائنات میں مجھے

خلیق کیا گیا ہے تو اسی حیثیت سے میں بھی تو حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہوں۔ اگر میری سرکار، میرے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں اور اس کی تعمیل میں کوتاہی ہو جائے تو لاکھ بار لعنت ہے میرے ہونے پر۔ الحمد للہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی، اس کے فرشتوں اور ساری مخلوقات کی لعنتوں اور پھٹکاروں سے بچا ہی نہیں۔ میرا نام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانبردار غلاموں میں شامل ہو کر تاریخ میں امر ہو گیا ہے۔ الحمد للہ۔

سیدی و مرشدی، آقائی و مولائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا۔ میرے نصیب دیکھیں میں ان کی ملکیت تھا۔ میرے حوالے سے میرا واقعہ آپ انہی سے سماعت فرمائیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهِنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ خُذْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِرْوَدِكَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْمِرْوَدِ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَادْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَا تَشْرُهُ نَشْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ (رواه الترمذی و احمد و ابن حبان) (وقال ابو عيسى هذا

حدیث حسن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ان کھجوروں میں برکت

کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا فرمایا۔ میرے لیے ان میں دعاء خیر و برکت فرمائی۔ پھر مجھے ارشاد فرمایا: انہیں لے لو اور اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور جب بھی ان میں سے لینا چاہو تو اپنا ہاتھ ان میں ڈالو اور ضرورت کے مطابق لے لیا کرو۔ لیکن اس توشہ دان کو جھاڑنا نہیں ہے لہذا میں نے ان میں سے اتنے اتنے (یعنی کئی) وسق لیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں۔ ہم خود بھی ان میں سے کھاتے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے۔ وہ توشہ دان کبھی میری کمر سے جدا نہیں ہوا۔ یعنی کبھی کھجوریں ختم نہیں ہوئیں۔ یہاں تک کہ جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔

ساری دنیا کے سب سے سچے انسان کے پروردہ اور تربیت یافتہ لوگ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کئی وسق کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں۔ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع 22 تولے کا ہوتا ہے جس کا کل وزن 1320 تولے ہوتا ہے۔ (اور ایک وسق دو سو چالیس گرام کا ہوتا ہے۔) اس میں خود بھی کھاتے رہے۔ دوسروں کو بھی کھلاتے رہے۔ اور توشہ دان کبھی کمر سے جدا بھی نہیں ہوا۔ جس توشہ دان میں اتنے سو کلو گرام کھجوریں نکلتی رہیں۔ نہ اس کا وزن زیادہ ہوا، نہ اس حجم بڑھا اور نہ ہی بوجھل ہونے کی وجہ سے ان پر بار ہوا۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی ہو جاتی، بوجھ بڑھ جاتا، حجم بڑھ جاتا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے مسئلہ بن جاتا اور دعاء خیر و برکت کا کیا فائدہ ہوتا۔

آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کھجوروں میں دعاء خیر و برکت کرانے کی کیوں سوچھی۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی

اللہ عنہ کو دودھ میں خیر و برکت کا واقعہ تازہ تازہ ہوا ہوگا۔ جو ایک پیالہ ستر آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اس قسم کے واقعات جو خلاف معمول ہوں عقل تسلیم نہ کرتی ہو۔ زمانہ اس پر گواہ ہو، کوئی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات بھی نہ ہو۔ ایسے واقعات روز روز ہوتے ہوں۔ لکڑیوں کے تھم روتے ہوں، ان کو چپ کرایا جاتا ہو، ان کو ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دی جاتی ہو، جنت میں جانے کی نوید دی جاتی ہو، پتھر بولتے ہوں، کلمے پڑھتے ہوں، تسبیحات کی سماعت کے لیے انسانی سماعت سے پردے اٹھائے جاتے ہوں، خشک کنویں، پانیوں سے لبالب بھر جاتے ہوں، چاند چرتے ہوں، سورج نظام ہستی درہم برہم کر کے ڈوبے ڈوبے واپس لوٹ آتا ہو، زیر سواری آنے والی اونٹنیاں مامور من اللہ ہو جاتی ہوں، ایسے سخاوت کے بہت بڑے دریا سے چونچ بھر لے جانا، کب کسی کو ناگوار گزرتا ہوگا اور کب کوئی پیچھے رہ جانا پسند کرتا ہوگا۔

دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بڑھ کر شوق سے

دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا

بس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بابرکت توشہ دان سے ہر وقت کمر

سے لگے رہنے اور ہر وقت بغیر کسی بوجھ کے محسوس کئے، کئی کئی سومن کھجوریں

نکالتے وقت، کتنے نشے سے سرشار رہتے ہوں، اسی نشے کا نام ہمارے نزدیک

ایمان ہے، عشق ہے، محبت ہے۔

اس کی بابت سوچنا اور سوچنا بھی رات دن

پھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں

اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولنا علی محمد و آلہ

و اصحابہ وان واجدہ و اولیاء و علماء ملتہ اجمعین ۔

پانی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور کھانے کی اشیاء کی تسبیح کی سماعت

پانی کی اہمیت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ خصوصاً صحراؤں میں تو دور دور تک کہیں نہ کہیں پانی کا میسر آ جانا، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت تصور کیا جاتا تھا۔ عرب کے صحرائی لوگ تو صحراؤں میں پھرتے رہتے تھے۔ جہاں کہیں اتفاق سے پانی مل جاتا وہاں کچھ دیر قیام کر لیتے، پانی ختم ہو جاتا تو آگے چل دیتے۔ ایسے ماحول میں اگر پانی معجزاتی طور پر کثیر تعداد میں کہیں میسر آ جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ایسے واقعات اکثر پیش آیا کرتے اور غلاموں کی سرشاریوں میں اضافہ ہو جاتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی ہی کیفیات سے سرشار ہو کر بیان کرتے ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَهً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا
 كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ
 فَقَالَ اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ
 يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطُّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَهَ مِنْ
 اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ

(رواه البخاری و الترمذی)

(وقال ابو عيسى هذا حديث حسن)

”حضرت عبداللہ (ابن مسعود) رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم تو معجزات کو برکت شمار کرتے تھے اور تم لوگ انہیں خوف دلانے والے شمار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں تھے۔ حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ پانی کی قلت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کچھ بچا ہوا پانی ہے۔ لے آؤ۔

لوگوں نے ایک برتن آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا: پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ اور یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمہ کی طرح پانی ابل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔“

ایک چھوٹے سے برتن کے چھوٹے پن میں بھی اتنی وسعت پیدا ہو جانا کہ کثیر لوگ پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور کسی کو مایوسی نہیں ہوتی۔ زمین سے، پتھروں سے، پہاڑوں سے، تو پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے لیکن انگلیوں سے چشموں کا پھوٹنا، بالکل انہونی بات ہے۔

ارشاد رب العزت والا کرام ہے کہ **إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ** کہ اس کی مخلوق سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح و تہلیل میں ہمہ وقت مصروف نہ ہو۔ لیکن وہ ان کی تسبیح و تہلیل کتنوں کو سنائی دیتی ہے۔ بے شک کانوں کے ساتھ لگا لو، سنائی نہیں دے گی۔ پھر ہر ایک چیز کی تسبیح اس کی اپنی زبان میں ہے۔ ہر چیز کی اپنی زبان کس کس کو سمجھ میں آئے گی۔ اُن کا تسبیح و تہلیل میں مصروف رہنا، میرے نبی کا معجزہ نہیں۔ بلکہ معجزہ یہ ہے کہ ان کی تسبیح سننے کے لیے اپنے غلاموں کے کانوں کو سماعت عطا فرمادی جائے اور ان کی تسبیح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بیدار کر دی جائے۔ جبکہ عوام کالانعام کے لئے اصول وہ ہے۔ **وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ**۔ لیکن تم کی ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ہر چیز کی تسبیح اس کی اپنی زبان میں سننا، سمجھنا یہ عطیہ عطاء محبوب و جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جانور آپ سے باتیں کرتے تھے،

مچھلیاں آپ سے گفتگو کرتی تھیں، چرند پرند درند حتیٰ کہ جن و ملائک آپ سے ہمکلام ہوتے تھے اور آپ بہت دور سے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے چیونٹی کی آواز، اس کی بات سن لیتے تھے سمجھ لیتے تھے، اور بعض اوقات ان کی نادانی کی گفتگو پر مسکرا بھی دیتے تھے۔ لیکن ان کے غلاموں میں ان کے صحابہ میں کتنے تھے جن کو یہ نعمت میسر آئی تھی۔

لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تذکارِ جمیل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کی وجہ سے اس نعمت سے مالا مال تھے۔ وہ پتھروں کا حضور سرایا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، مختلف اوقات میں ان کا تسبیح و تہلیل میں مصروف ہونا سنا کرتے تھے۔ یہ سب صحبت کا فیضان تھا اور یہ ان کا عقیدہ بھی تھا کہ یہ سب کچھ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ جیسا کہ اسی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ مبارکہ ہیں کہ **كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً** کہ ہم ان معجزات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت شمار کیا کرتے تھے۔

چاند سورج میرے دروازے پر پہرے دار تھے

جب میری بینائی کے حجرے میں آئے مصطفیٰ

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و باریک وسلم

پانی اور برتن کا ایک اور تذکرہ

میں بحیثیت ایک مائع کے اپنے ظروف جتنا ہی کسی میں سما سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ کی تو گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن جب ظرف کو وسعت دامن دینے والا، خود یہ سیم ہونا۔ کہ کیا اعتراض اگر ظرف کو وسعت مل جائے اور مجھے بھی حکم ہو

کہ اب یہ طرف اس وقت تک خالی نہ ہو جب تک ہم نہ چاہیں تو سبحان اللہ! جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا پانی اور ظرف کے واقعات سے اگر ایمان کو تازہ کرنا مقصود ہو تو میرے گوشہ ذہن میں کتنے ہی واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک واقعہ ضرور آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَ مِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا مِائَةَ خَمْسِ عَشَرَ مِائَةً . (متفق علیہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ اس وقت زوراء کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور تمام لوگوں نے وضوء کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت آپ کتنے لوگ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تین سو یا تین سو کے لگ بھگ تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ ویسے ہم پندرہ سو تھے۔

اے اشرف المخلوقات میں سے بھی سب سے اشرف ترین انسانو! میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس حدیث مبارکہ کے واقعہ

کے بیان کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام بھی جب اس قسم کا واقعہ دیکھتے تو حیرت و استعجاب اور محبت کی وارفتگیوں میں گم ہو کر دوسرے دوستوں سے بیان کیا کرتے تھے اور وہ بھی حیرت و استعجاب سے پوچھا کرتے تھے، یا تم اس وقت کتنے لوگ تھے، پوچھنے والا سوچتا ہوگا کہ ہوں گے کوئی دس بیس لیکن جب وہ سنتا کہ تین سو، تین سے زیادہ و کم، پندرہ سو۔ یا جب کہنے والا کہتا ہوگا تین سو، یا پندرہ سو کی بات نہ کر وہاں تو ایک لاکھ انسان ہوتا تو پانی کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ سب پانی سے سیراب ہو جاتے تو وہ بھی حیرت میں گم ہو جاتا ہوگا بلکہ عظمت و رفعت و شانِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کمالات کے حسن و زیبائی میں اور غرق ہو جاتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ خدا کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کی صحبت کن کی صحابیت نصیب ہوئی کن کے دیدار دنواز سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے مقدروں یہ ناز کرتے ہوں گے اور ہمارا حال تو نہ پوچھے، پانی، آگ، ہوا، مٹی، ریت کے ذرے ہماری کیا حیثیت ہے لیکن بے نواؤں کو نوا بخشنے والے کریم کی کرم نوازیوں نے ہمارے انگ انگ کو سرشار کر رکھا تھا۔ الحمد للہ۔

میرے دل پہ ہیں نقشِ قدم آپ کے
مجھ گنہگار پر ہیں کرم آپ کے
چڑھتی رہتی ہے مینار پر زندگی
گرتے رہتے ہیں قدموں پہ ہم آپ کے

فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و بارک و سلم

کھجوروں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت

کسی بھی چیز کی تعداد پانچ ہو یا دس بیس، وہ جتنی بھی ہوگی وہ اتنی ہی رہے گی۔ جادو ٹونے اور مسمریزم سے وقتی طور پر لوگوں کو دھوکا تو دیا جاسکتا ہے لیکن نہ

حقیقت بدلتی ہے نہ کیفیت اور نہ کمیت میں مستقل اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام اور ان کے پیغمبر خاص غلاموں کو یہ اعزاز حاصل ہوا اور انہوں نے کیفیتیں بھی بدلیں، کمیتیں بھی بدلیں۔ دوریاں نزدیکی میں اور نزدیکیاں دوریوں میں بدلیں۔ اور ایسی بدلیں کہ کوئی ان کا نہ دھوکا کہہ سکا نہ فریب، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب لازوال کتاب، ریب و شک سے پاک کتاب، ایسے کئی واقعات محفوظ کئے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک غلام آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔

واقعہ حضرت آصف بن برخیا اختصار کے ساتھ

ملکہ سبا نے جب اپنا وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اس نے بے انتہا قیمتی تحفے اور بے شمار سونا اور جواہرات بطور نذر بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کے آنے سے پہلے کئی میل تک سونے کا فرش بچھا دیا تاکہ آنے والوں کو علم ہو سکے کہ زیادہ سونے کا مالک ہونے سے انسان بادشاہ نہیں بن جاتا۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو سونے کی ہلاکت سے بچ جائے۔ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ساری زمین کو چاندی کی بنا دے گا تاکہ سونے اور چاندی کے پجاریوں کو احساس ہو سکے کہ اس دربار میں سونے اور چاندی کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہر کس و ناقص کے قدموں کے نیچے بچھا دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سونا، وہ ہیرے اور جواہرات اور قیمتی تحائف واپس کر دیئے کہ ہماری نظر تمہارے ان اسباب و دولت و ثروت پر نہیں بلکہ ہم تو انسانوں کو ایمان کی دولت دے کر زریں اور قیمتی بنانا چاہتے ہیں اگر تم مومن مخلص بن جاؤ گی تو خود کیمیا گر بن جاؤ گی۔

ملکہ سبا، حضور کی اس بے نیازی اور شفقتِ ایمانی سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اپنی بادشاہت و وجاہت، حکومت و ثروت اور جاہ و

جلال اور تمکنت سے یوں بے نیاز ہوگئی جیسے کوئی ننگ و نام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایمانی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اتنا قیمتی تخت خود لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتی لیکن اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے اٹھا کر لانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ ملکہ کو ایمانی عروج پا کر تخت سے محبت تو نہ رہی ہوگی۔ اس کے باد صفا ابھی نیا نیا اتنا قیمتی تخت چھوڑنے کا تھوڑا بہت قلق تو ہوگا۔ اس لیے تخت منگوا ہی لینا چاہئے۔

تخت سے ملکہ کی محبت، ایک بچگانہ فعل تھا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ تخت منگوا ہی لینا چاہئے۔ یہ کام اس کی اس تخت سے محبت کی بنا پر نہیں بلکہ عبرت کے حصول کے لیے تھا۔ جیسے ایاز کے لیے اس کی گدڑی اور ٹوٹی ہوئی چیل عبرت کا نشان تھی کہ ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی اصل اور پہلی حالت یاد کرتا رہتا تھا کہ میں کیا تھا اور شاہ کی عنایت سے میں کیا سے کیا ہوگا۔ ملکہ بھی اپنے عرفانی معراج پر پہنچ کر کبھی کبھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تخت کو دیکھ لیا کرے گی کہ میں اپنی حماقت میں ڈوب کر کس چیز سے محبت کرتی رہی ہوں اور شاہ کی مصاحبت سے میں اب کس مقام پر پہنچ گئی ہوں۔ پہلے میری حالت کتنی خراب تھی اور اب میں روحانیت کے کس مقام پر فائز ہوگئی ہوں۔

ہاں ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا

وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کی ابتداء تو ان چیزوں سے کی گئی تھی کہ ان کا ذکر بھی زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس کرتا

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے بھری بزم میں پوچھا ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا اور کتنی دیر میں لائے گا۔ ان کی محفل سے ایک جن، آپ کا خادم، آپ کا صحابی، اٹھا حضور! یہ خدمت میرے سپرد کیجئے۔ میں آپ کے آج کے اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ امانت داروں کا تربیت یافتہ ہوں، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، سچوں کا پس خوردہ کھانے والا ہوں، وعدہ خلافی بھی نہیں کروں گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کام تو جن کر ہی لیتے ہیں۔ یہ کام کوئی انسان کرتا تو پھر بات بھی تھی۔ آپ کے خدام میں ایک انسان اٹھا، پڑھا لکھا، علم الکتاب کا ماہر اٹھا اور جن سے بھی بہر اعتبار کئی ہاتھ آگے قدم بڑھا کر کہنے لگا، حضور بندہ پرور! غلام حاضر ہے بس اجازت دیں اور تخت بلقیس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے حضور حاضر!

حضرت آصف بن برخیا نے تخت کو مخاطب ہو کر کہا ہوگا۔ اے لکڑی کے بنے ہوئے تخت، ہوش میں آ، تو احمقوں کو اپنی محبت میں پھنساتا ہے، احمقوں کا شیوہ ہی یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ پتھر اور بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، سن! یہ سارے بتوں کے پجاری اور بزعم خویش بنے ہوئے معبود، سب جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، کیا تو بھی اسی جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے۔

میرادل کہتا ہے تخت بلقیس جہنم کا ذکر سن کر کانپ اٹھا ہوگا۔ جھر جھری لی ہوگی اور آصف کے اشارے پر اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ چل دیا ہوگا کہ آج کے اس تیز ترین دور میں بھی اتنی تیزی کا تصور محال ہے اور یہ سارا عمل حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ہو گیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں، ہزاروں میلوں دور سے اتنے بڑے تخت کو دفعۃً دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے: هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اور میرے غلاموں کو یہ اعزاز، یہ قوت، یہ طاقت، یہ ہمت اور حوصلہ بخشا ہوا ہے۔

ہاں! مالک کے بندے، حکم خداوندی کی تسلیم کی خو سے جب سرشار ہو جاتے ہیں تو مالک خود ان سے ایسے کام کرواتا ہے جیسے دیکھنے والا دیکھ کر خود کہہ اٹھتا ہے کہ یہ کام کسی بندے نے کیا کرنا ہے یہ کام خود مالک ہی نے کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور برکت دیا۔ اپنے کسی بندے کا، کہ یہ کام میرے فلاں بندے نے کیا ہے دوریاں نزدیکیوں میں اور نزدیکیاں دوریوں میں وہ یوں بدلنے پر قادر ہے۔

حضرت عزیر علیہ السلام ایک سو سال آرام فرما رہے اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ کتنی دن یہاں ٹھہرے ہیں تو آپ نے فرمایا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ حضرات اصحاب کہف کئی سو سال سوتے رہے، ان کو بھی یہی احساس ہوا کہ صدیاں نہیں بٹتیں، بلکہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کل قیامت کو بھی حضرت انسان طویل سے طویل، رپا کر بھی یہی کہے گا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں قیام کیا ہے۔

چونکہ وہ تادم مطلق ہے وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اور جو اس کی شان کے مطابق ہو وہ کر گزرتا ہے حضور سیدی وسید عالم اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کا محبوب کون ہوگا جس کی چاہتوں کو ان سے زیادہ شرف قبولیت دیتا ہوگا۔

زمانہ گواہ ہے، ہم کھجوریں، جتنی تھیں، اتنی ہی تھیں، خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا احساس تھا کہ اتنی کم کھجوروں سے قرض نہیں اتارا جاسکتا اور قرض خواہ تھے کہ وہ اس بات پر مصر تھے کہ کسی کا قرض اترے یا نہ اترے ہماری رقم ہمیں فوراً واپس ملنی چاہئے پھر آئندہ فصل تک ہم انتظار نہیں کر سکتے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس صورتِ حال سے پریشان تھے۔ آخر وہ اس پریشانی میں ان کے حضور ہی حاضر ہوئے جہاں ہر پریشانی کا حل نہ ہوتے ہوئے بھی ہو جاتا تھا۔ آپ آگے کا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی سن لیں۔

جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوْفِي وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَحْلَهُ وَ لَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقُ مَعِيَ لَكِي لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرْمَاءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِّنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ اخْرَثُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ انْزِعُوهُ فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَ بَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ . (راوة البخاری و احمد)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور ان کے ذمہ قرض تھا۔ میں حضور نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے والد صاحب مرحوم نے وفات کے بعد پیچھے قرض چھوڑا ہے اور میرے پاس (اس کی ادائیگی کے لیے) کچھ بھی نہیں۔ ماسوائے ان کھجوروں کے جو چند درختوں سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اور ان سے کئی سال میں بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے کھجوروں کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر کے گرد پھرے اور دعا کی پھر دوسرے ڈھیر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا: قرض خواہوں کو ماپ تول کر دیتے جاؤ۔ سب کے سب قرض خواہوں کا پورا قرض ادا کر دیا گیا اور اتنی ہی کھجوریں بچ بھی گئیں۔ جتنی کہ قرض میں دی گئی تھی۔

اگر ہم کھجوریں کم سے زیادہ ہو گئیں کہ وہ قرض جو کئی سال ہا سال بھی نہیں اتر

سکتا تھا۔ وہ بھی ادا ہو گیا اور اتنی ہی کھجوریں بیچ بھی گئیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ یہ کمال تو اس دستِ شفقت کا ہے جس نے ہمارے ہاں قدم رنجہ فرما کر ممنونیت سے نوازا۔ اور ہمیں بھی اپنی بات سمجھا دی اور پھر اس بات پر عمل کا سلیقہ بخشنا اور اپنے ایک صحابی کو خدمت کا موقع مرحمت فرمایا۔

کون ہے جو اس طرح بنتا ہو سب کا آسرا
مجھ کو بھی بس آپ ہی کا آستاں درکار ہے

(ظفر چشتی)

اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا محمد و آلہ حتی لا یبقی من
الصلوة والسلام و البرکة شیئی

سورج کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

اے زمین کے باشندو! تمہارے مقدر پر رشک آتا ہے کہ چودہ طبق کے والی اور ساری زمینوں کے خزانوں کی چابیاں اپنی جیب میں رکھنے والے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے پاس رہتے ہیں۔ تمہیں کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طرح، خدمت کا موقع ملتا ہی رہتا ہے۔ ہمیں تو صدیوں بیت گئی ہیں، روز صبح طلوع ہوتا ہوں، شام کو غروب ہوتا ہوں، صبح ہوتے ہی نظر ان کی طرف لگی ہوتی ہے کبھی تو ہمارا کریم! ہماری طرف بھی نگاہ لطف فرمائے، میرا چھوٹا بھائی، چاند تو بچپن میں بھی ان کی انگلیوں کے اشاروں پر رقص کرتا رہا، ایک دو بار اسی انگلی کے اشارے پر سینہ چیر کر بلائیں لینے زمین پر اتر آیا۔ لیکن مجھے تو کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ کوئی ایسی خدمت کر گزروں کہ رہتی دنیا تک یاد رہے۔ آخر ایک دن میری قسمت جاگی، اور مجھے کروڑوں اور کھربوں سالوں سے چلتے نظام لیل و نہار کو، شمس و قمر کو، یکسر تبدیل کر دینے کا حکم ہوا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، نظام ہستی درہم برہم ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن تعمیل حکم میں سوچنے کا موقع بھی نہیں مانگا کہ کہیں

مزاج یار ہی نہ بدل جائے، ہوا کیا اس واقعہ کی تفصیل حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنئے!

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: - كَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُوحِي إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - اَللَّهُمَّ اِنَّا عَلِيًّا فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْزُقْ عَلِيَّ الشَّمْسُ . قَالَتْ اَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ وَرَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدُ مَا غَرَبَتْ .

(رواة الطحاوی و الطبرانی واللفظ له ورجاله رجال الصحيح)

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر کی نماز نہ ادا کر سکے تھے۔ یہاں تک سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ! علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھا۔ اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت محترمہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے سورج غروب ہوتے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔

اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی

تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں

حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عصر کی نماز کے لیے حضور نبی صالحین صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے میں نے نظام ہستی کے درہم برہم ہونے کی پرواہ کئے بغیر ڈوب کر بھی ابھر آیا تھا۔ وہ بظاہر تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے تھے جس سے اخذ کیا جاسکے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما رہے تھے لیکن چونکہ خود مطاع مطلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس ادا ہی کو اطاعت رسول قرار دیا ہے کہ آپ کا سر مبارک، عین حالتِ وحی الہی میں گود میں لیے بیٹھے تھے۔ اور بس!

اطاعت کی صحیح وضاحت بھی تو مطاع ہی کر سکتا ہے کہ ان کا اس طرح بیٹھے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور مطاع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی یقین کامل تھا کہ اطاعت الہیہ اور اطاعت محبوب الہی میں مصروف رہنے والے کا کیا مقام ہے اور ان کے لیے نظم ہستی بدلنا کوئی اتنا مشکل مرحلہ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے مالک سے جو مانگوں گا وہ مل جائے گا اور بس مالک نے بھی ثابت کر دیا کہ میرا محبوب خواہ مخواہ کسی کی سفارش بھی نہیں کر دیتا بلکہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کی زندگی بھر کا ایک ایک لمحہ جس طرح اطاعت الہی اور اطاعت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرا ہے وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں۔

ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے

اس وقت کے امام کی خاطر سورج لوٹانا ایک معمولی سا عمل ہے۔

بات تو بہت پرانی ہے لیکن صفحات لازوال میں رقم ہونے کی وجہ سے اس پر ابھی تک بھول بھلیوں کی دھول نہیں پڑی۔ وہ آج بھی اسی طرح تروتازہ ہے۔ جیسے آج سے چار ہزار سال پہلے تھی۔

ہمارے خالق و مالک کے مقابلے میں ایک احمق نے خدائی مسند بچھا کر اس پر بیٹھنے کی حماقت کر ڈالی۔ آپ کے اور ہمارے کریم آقا حضور جانِ کائنات صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو زک پہنچانے، اس کی خدائی کی حقیقت آشکار کرنے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے ساتھ مناظرہ کیا۔ صفحاتِ لازوال میں اس کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اتَّهَمَهُ اللَّهُ الْمَلِكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برابر وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تم صرف ایک بار مغرب سے سورج کو طلوع کر دو۔ اس سے وہ شخص مبہوت الحواس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔

ہمارے نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نے نمرود سے کہا کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تمہیں اپنے زعم پر اتنا ہی اعتبار ہے کہ مسند خدائی پر بیٹھنے کے اہل ہو تو ایک دن صرف ایک دن مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا دو۔

سورج ہو یا چاند، ستارے ہوں یا کہکشاں، دن ہو یا رات، صبح و یا شام، موسم خزاں ہو یا بہار، برسات ہو یا قحط سالی کا سامان، ہم سب خدائی فوج کے اپنی اپنی جگہ ادنیٰ سپاہی ہیں اور سپاہی بھی ایسے کہ حضرت انسان تو اپنی مرضی کر جاتا ہے۔

ہم تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ بلکہ ہمارے ہاں اپنی مرضی ہے ہی نہیں۔ ہمارا ہر فعل، ہماری ہر حرکت، صرف اسی کے حکم کے عین مطابق ہوتی ہے، نمرود چھوڑ، نمرود کا باپ بھی آجاتا اور ہزاروں وظیفے پڑھتا، وہ سینکڑوں سالوں سے مجھے معبود بھی مانتا تھا۔ میرے حضور سجدہ ریز بھی رہتا تھا۔ وہ اور اس طرح کے اقدام کر گزرتا، مہلت مانگ لیتا، میری منت سماجت کرتا، میں پھر بھی اس کے التجاؤں، منتوں اور زاریوں کو کبھی خاطر میں نہ لاتا۔ اس لیے کہ وہ ہماری پارٹی کا بندہ ہی نہیں تھا۔

اور ادھر تو ہم اشارہ آبرو کے منتظر رہتے ہیں جس کی رضا کی طلب میں ہمارا خالق و مالک بھی قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فرما کر چہرہ مقدس کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتا رہتا ہو۔ ہمارے مالک کی ہر چیز، ان کی اور ان کی ہر ادا، ہمارے مالک کے لیے وہ ہمارے مالک کی پارٹی کے سربراہِ اعظم ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا اشارہ ہو اور میں ڈوبا ہوا بھی واپس نہ آتا تو تف تھا میرے ہونے پر۔

اور اس میں طرفہ کمال یہ ہے کہ ڈوبا ہوا سورج، مغرب سے طلوع کرنے کو دنیا کا موحد ترین انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائی طاقت و شان قرار دے رہے ہیں لیکن ہمارے کریم آقامن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی طاقت و قوت اور اختیارات رکھتے ہوئے بھی خدائی دعویٰ نہیں کیا بلکہ اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ کا اعلان فرما دیا یعنی میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمانبردار بندہ ہوں۔

ہمارے کریم و مولا، سرور انس و جان، جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان انی عبد اللہ کے اتنے اثرات مرتب ہوئے کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوا جس نے اس کے بعد خدائی دعویٰ کیا ہو، اس

لیے کہ خدائی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہوگا کہ میں کس برتے پر خدائی دعویٰ کروں۔ وہ اتنے باختیار، وہ اتنی طاقت کے مالک، وہ اتنے اوصاف حمیدہ سے موصوف ہو کر بھی اس کے بندے ہیں، اب کون ان سے کوئی بڑھ کر ہو اور وہ خدائی دعویٰ کرے۔

بلکہ آپ کے مرتب جلیلہ، مناسب عظیمہ، فضائل و کمالات فراواں دیکھ دیکھ بعض ناہنجاروں کے منہ میں پانی بھر آیا کہ خدائی دعویٰ تو نرا درد سر ہے۔ چلو، نبی بن جاتے ہیں اگرچہ ان کی اس حماقت پر ان کے سر پر جوتے برسائے گئے، گندگی اور غلاظت ان کا مقدر ہوئی۔ اور ہونی بھی چاہئے کہ ذات دی کو ہڑھ کر لی اور چھتیراں نوں چھے۔

خیر ان خباثت بھرے لوگوں کے ذکر سے اپنا مزہ کیوں کر کرا کریں۔ میں ایک سورج ہی نہیں، آسمان اور آسمان کی ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے کے غلاموں کے بھی غلام ہیں اور اسی غلامی پر ہمیں فخر ہے، ناز ہے، الحمد للہ۔

ساری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی
سوہنے دے چیتے کر کر کے بس نیر و ہاؤندیاں گزر گئی
اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولنا محمد
و آلہ بقدر حسنہ و جمالہ

گھی کے برتن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

ہر ترش کو شیریں بنانا، اس کی دستِ قدرت میں ہے۔ وہ زہر کو تریاق، اور تریاق کو زہر بنا سکتا ہے۔ آ اس کے حضور آ، ہم نے سب کچھ اس کے سپرد کر دیا ہوا ہے۔ ہم جتنی بے جان چیزیں ہیں۔ سب ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ہماری فطرت سے خود غرضی، خود پسندی اور اپنی مرضی استعمال کرنے کی طاقت، کشید کر لی

گئی ہے۔ اس لیے ہم فائدے میں ہیں۔ بس اپنے ماہی کی بات مانتی ہے اور کسی کی نہیں مانتی۔ اپنے مالک کی سنی ہے اور کسی کی نہیں سنی۔ اس لیے ہم ہر انداز سے فائدے میں رہے، نہ دوزخ کا ڈر، نہ جنت کی طمع اور حرص، مالک جہاں رکھے، جیسے رکھے، ہم ہر اس انداز میں خوش، وہ ہمارا دامن تنگ کر دے، یا دامن وسیع کر دے، دونوں پر خوش، گھی کا ایک چھوٹا سا برتن، اس میں کتنا دیسی گھی آسکتا ہے لیکن ہماری پارٹی کے عظیم ترین راہنما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو انسان اور خیر البشر ہو کر اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے۔ اس مالک کی رضا کے بغیر اپنی زبان بھی نہیں کھولتے۔ چند دن، چند روز، چند لمحے، ان کی خدمت میں گزارنے کا قدرتِ الہیہ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ تنگ دامانی کا، نہ ہمیں خود کبھی احساس ہوا، اور نہ ہمیں استعمال کرنے والے کو ہوا۔ میں اپنی بات خود آپ سناتا، تو ہو سکتا ہے اس کو تعلق سمجھا جاتا۔ میں جن کے گھر میں ہونے اور جن کے ہاتھوں کے لمس سے بارگاہِ مصطفوی سے فیض بار ہوا۔ آپ ان پاکیزہ صفت لوگوں کی زبانی میری بات سن لیں۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنَا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأُذْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنَا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُذْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصْرَتُهُ فَآتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصْرَتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَ كَتَيْهَا مَا زَالَ قَائِمًا (رواه مسلم و احمد)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سر ایا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے آکر ان

سے سالن مانگتے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو جس چمڑے کے برتن میں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی تھیں اس کا رخ کرتیں تو اس میں سے انہی گھی مل جاتا۔ ان کے گھر میں، گھی کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ حضور نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے اسی طرح ہی رہنے دیتیں تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔

حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا چمڑے کے برتن میں حضور کو گھی بھیجا کرتی تھیں، نہ حضور نے میرے لیے۔ اس میں دعاء خیر و برکت فرمائی، نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا۔ میں تو ایک گھی کے برتن کی حیثیت سے گاہے گاہے حاضر ہوتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں۔ حضرت ام مالک کو اپنے بچوں کے لیے مجھ سے گھی نکالنے کی کیا سوچھی، یا ایک دو دفعہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ پھر ان کی ڈھارس بندھی اور مسلسل میرے ساتھ رابطہ قائم کر لیا اور میں نے ان کے گھر سے، ان کے بچوں اور اہل خانہ کے لیے سالن کا مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت ام مالک کے اس اعتماد پر مجھے بھی صرف اس وجہ سے پورا اترنا پڑا کہ وہ ہماری ہی پارٹی کی ایک بندی تھی۔ مجھے حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کو مایوس کرتے حیا آتی تھی۔ آپ کو کیا خبر کہ کبھی میرے دامن میں کچھ ہوتا بھی تھا یا نہیں لیکن میں نے بھی ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ انہوں نے مجھے نچوڑ کر۔ خود ہی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کا فرمان بھی سچا ہے کہ اگر وہ مجھے نہ نچوڑتیں تو میں قیامت تک ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے گھی پیش کرتا ہی رہتا۔

علی محمد صلوة الابرار

صلی علیہ الطیبون الاخیار

نہیں جب میرا کوئی مونس و غم خوار دنیا میں
تو پھر پہ سر پہ میرے ہاتھ رکھنے کون آتا ہے
کوئی تو ہے جسے احساس ہے ہم غم کے ماروں کا
سفینہ کوئی تو اپنا کنارے سے لگاتا ہے

جو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

کہتے ہیں کہ ایک جو کے دانے کی کیا قیمت ہوتی ہے، نہ سہی، ویسے آپ غور
فرمائیں تو ایک ایک دانہ مل کر ہی ڈھیر بنتا ہے۔ ایک ایک تنکا مل کر ہی کھلواڑہ بنتا
ہے۔ قطرہ، قطرہ بہم شود دریا۔ یعنی قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ ایک ایک شخص
سے ہی جماعت بنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ٹیڈی پیسہ کہیں گرا پڑا تھا۔ ایک صاحب
نے اسے حقیر اور بے قدر و قیمت ٹیڈی پیسہ سمجھ کر کوئی اہمیت ہی نہ دی اور کہا چل
پیچھے ہٹ۔ میری منزل کھوٹی نہ کر تو اس ٹیڈی پیسے نے جواب دیا جناب آپ کی
منزل تو اسی دن ہی کھوٹی ہو گئی تھی جس دن آپ نے مجھے حقیر جان کے پھینک دیا
تھا۔ ویسے میری بات سنیں۔ میں بے شک بے وقعت ہوں، بے حیثیت ہوں، نہ
کوئی چیز مجھ سے خریدی جاسکتی ہے اور نہ بیچی جاسکتی ہے لیکن اس کے باوجود میری
ایک حیثیت ہے کہ سارے کے سارے ننانوے کے ننانوے پیسے مل کر بھی میرے
بغیر روپیہ نہیں بن سکتے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے اس لیے اگرچہ میں ایک جو
کا دانہ ہوں لیکن ایک ایک دانے سے ہی ڈھیر بنتا ہے۔

خیر ایک جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں ایک بات آگئی۔ ورنہ اس واقعہ
میں اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ میری نسبت جس ذات والا صفات سے ہو گئی
تھی۔ اس کی نسبت سے ہی میری قیمت اور حیثیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس واقعہ کی

تفصیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے خود سن لیں۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقٍ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَأَمْرَاتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ

(رواه احمد و مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ طلب کیا۔ آپ نے اسے نصف وسق جو عطا فرمائے وہ شخص اور اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی (ایک عرصہ تک) وہی جو کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو تول اور ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اگر تم ان کو نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور یونہی ہمیشہ باقی رہتے۔

ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع 22 تولے کا ہوتا ہے جس کا کل وزن 1320 تولے ہوتا ہے۔ گویا حضور خاتم ملک نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساٹھ کلوگرام، جو عطا فرمائے اگر وہ اللہ کے بندے تولنے اور ماپنے کے چکر نہ پڑتے تو یہ ساٹھ کلوگرام جو ہم یقین دلاتے ہیں وہ خود بھی اور ان کا خاندان بھی اور آیا گیا مہمان بھی ان کے بچے بھی ساٹھ سال تک کھاتے رہتے تو ہم ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔

تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا
جب بڑھائے تجھے اللہ بڑھانے والا تیرا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه
حتى لا يبقى من الصلوة والسلام و البركة شئ .

زمین کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

کسی برائی کا اجراء کرنے، یا کسی نیک کام کا اجراء کرنے والے، ہر دور میں موجود رہے۔ ایک پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ہزار بار لعنت، اور دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہزار بار رحمت۔ یہ کھاری اور بیٹھا پانی لوگوں کے درمیان صور پھونکنے اور مغرب سے سورج کے طلوع تک جاری رہے گا۔ اپنے لیے ان دونوں پانیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں ہے۔

قدرت نے یہ فیصلے کی قوت، طاقت اور استطاعت ہم جمادات کو عطا نہیں فرمائی اور نہ یہ پرزہ کہیں بازار میں پایا جاتا ہے کہ وہاں سے خرید کر استعمال کر لیا ہے۔ یہ کرم کا ایک ازلی قطرہ ہے جس کے چاہے نصیب ہو جائے ہاں! یہ نعمت ہمارے حصہ میں، ہماری فطرت اور ہماری جبلت میں رکھ دی ہے۔ ہم نے نیکی کے بیٹھے پانی کی لذت سے سرشار رہتے ہیں۔ ہمارا مالک جو حکم ارشاد فرمائے اس میں ہم ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ ہمیں وہ حکم من و عن ماننا ہی ہوتا ہے۔ یا ہمارے مالک کا کوئی بندہ، حزب اللہ میں شامل ہونے والا، ہماری ہی پارٹی کا بندہ تصور کیا جاتا ہے بلکہ وہ انسان ہونے کے ناتے سے ہم سے بہر انداز سبقت لے جاتا ہے اور جو ہو ہی سب انسانوں سے افضل و اعلیٰ، ساری انسانیت کی عزت و توقیر کی پیشانی کا جھومر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حکم ہم کیوں نہ مانیں۔ یوں تو ہم نے اس حکم کی تعمیل میں بہت سے کارنامے سرانجام دیئے ہیں لیکن غزوہ بدر میں ایک ایسا واقعہ ہوا اگر غیر بھی تعصب سے پاک ہو کر بنظرِ غائر دیکھے تو ایمان کی نعمت سے کبھی محروم نہ رہے اس کی تفصیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سماعت

ہے۔

عَنْ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَّغْنَا إِقْبَالَ أَبِي سُفْيَانَ وَقَامَ سَعْدُ ابْنُ عِبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخْضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرِّكَ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَتَدَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم و ابو داود)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ابوسفیان کے (قافلہ کی شان سے) آنے کی خبر پہنچی تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم ارشاد فرمائیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے اور اگر آپ ہمیں برک الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کر گزریں گے۔ (ان کے اس جذبہ جانثاری کے اظہار کے بعد) حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، اور چل دیئے اور وادی بدر میں جا کر قیام کیا وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ اپنا دست

اقدم رکھتے (ایک روایت کے مطابق اپنی چھڑی مبارک سے زمین پر دائرہ لگاتے) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر (دوسرے دن دوران جنگ) کوئی کافر حضور نبی اکرم و افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔

جبکہ ہمارا یہ حال تھا، بدر کی ساری زمین کا کہ اس گمسان کی جنگ میں گھوڑوں پر بدحواسی کے عالم میں بھاگا پھرتا تھا۔ اور ہم اس کی تلاش میں تھے۔ کسے خبر تھی، کس نے کہاں گرنا ہے اور کہاں گرنا ہے لیکن ہم نے جب سے سرکار کی زبان سے اس بد بخت کا نام سنا تھا کہ اس نے یہاں مرنا ہے، ہم پورے ہجوم میں ان کی شکلوں کی شناخت کر لی تھی۔ اگر وہ لگے ہوئے دائرہ یا نشان زدہ جگہ سے کہیں دو چار انچ ادھر ادھر گرا بھی ہوا تھا تو ہم نے اسے کھینچ کھانچ کر اپنے پاس بلا لیا تھا کیونکہ من اللہ عالم ما کان ویکون کو مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کے اصول کے مطابق خبر تھی کہ اس نے یہی آ کر واصل جہنم ہونا ہے۔ اس کا خمیر یہیں سے بنا ہے۔ اور یہیں اس نے مرنا تھا۔ اس حقیقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ تھے اور اس آگاہی کی ایک جھلک سے آپ نے قبل از وقت پردہ کشائی فرمادی اور وہ کم بخت وہیں آ کر مرا۔

تو دانائے ما کان اور ما کیون ہے
مگر بے خبر، بے خبر دیکھتے ہیں

(مولانا ابوالنور محمد بشیر)

الصلوة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون .

پتھروں اور درختوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

اگر ہوا کی جان کا مالک سے رابطہ نہ ہوتا تو بتا! وہ قوم عاد و ثود میں، نیک و بد میں امتیاز کیسے کر سکتی تھی۔ ایمان تو ہر غیب پر ایمان لے آنے کا نام ہے اور کسی کے

کہنے پر ہر نظر نہ آنے والی چیز کو ماننے کا نام ہے پھر اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر غیب اور چھپی ہوئی چیز خود نظر آنے لگتی ہے جیسے دریا نیل کو قوم موسیٰ علیہ السلام قبٹیوں اور سبٹیوں یعنی فرعونیوں کے درمیان فرق کیسے نظر آ گیا تھا۔ اچھا یہ بتا! نمرودی آگ کے انگاروں کو یہ کیسے پہچان ہو گئی تھی کہ یہ شخص وہی ابراہیم ہی ہے جس کے لیے گلزار بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس قانون کے مطابق لاکھوں انسان ایسے موجود ہیں جنہیں ان میں فرق نظر نہیں آتا۔ وہ سب کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں اور کچھ بے جان ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ فرق واضح نظر آنے لگتا ہے، بدکار، انسان اپنی بدکاری چھپانے کے لیے کوئی اچھا لباس پہن بھی لے تو ایک دن پہچان کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی ہے۔ اس کی بدکاری اور بے ایمانی کی بدبو قرب و جوار میں پھیلنے لگتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کا بیج اگنے لگتا ہے اور نیک لوگ گدڑی پوشی میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔

یہ پہچان کی طاقت اور صلاحیت قدرت نے ہم بے جان و بے حرکت جمادات کو حضرت انسان کی نسبت زیادہ بخشی ہے۔ حضرت انسان پہچان کے لیے بھی اپنے کچھ اصول مرتب کر لیتا ہے۔ اس نے جس رنگ کی بھی عینک پہنی ہوتی ہو وہ ساری کائنات کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حالانکہ نہ ساری دنیا سفید ہے، نہ سبز ہے، نہ نیلی ہے اور نہ کالی، دنیا میں تخلیق ہونے والی ہر چیز کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس کے اپنے رنگ میں بھی ایک حسن ہے۔

جبکہ ہم جمادات کی ساری پارٹی کے کسی ایک فرد نے بھی اپنی پسند کی، اپنی آنکھوں پر کوئی عینک نہیں چڑھائی ہوئی بلکہ قدرت نے ہماری بینائی، اتنی تیز کردی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی مخالف پارٹی کا کوئی فرد، کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے

آجائے ہم اسے پہچان لیتے ہیں اگر جعلی لباس پہن کر آنے والا بھی ہمیں اپنی پہچان میں دھوکا نہیں دے سکتا تو جو ہو ہی اصلی رنگ میں اور رنگ بھی ایسا اصلی کہ سبحان اللہ تو اس کی پہچان میں ہم سے خطا کیسے ہو سکتی ہے۔

حضور سید عالم و عالمین، جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی پہچان میں ہمیں کبھی دھوکا نہیں ہوا اور نہ ان سے پیار کے اظہار میں ان کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی اور کبھی کوئی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ اس کی ایک جھلک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی زبانی دیکھ لیں۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفِيحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِأَدَاوَةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَحَدَاهُمَا فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِّنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ يَا ذُنَّ اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى آتِيَ الشَّجَرَةَ الْآخَرَى فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِّنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ يَا ذُنَّ اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لَأَمَّ بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمَعَهُمَا فَقَالَ التَّيْمَا عَلَيَّ يَا ذُنَّ اللَّهِ فَالتَّامَتَا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَيَتَّبَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَّبَعِدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ افْتَرَقَتَا

فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَاقٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَقَفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو
إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ قَالَ يَا
جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاذْهَبْ
إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا غُصْنًا فَأَقْبِلْ بِهِمَا
حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ
يَسَارِكَ قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ فَاخَذْتُ حَجْرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ
فَانْدَلَقَ لِي فَاتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا
غُصْنًا ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجْرُهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي
ثُمَّ لِحِقَّتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ إِنِّي
مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَقَ عَنْهُمَا مَا
دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ.....الحديث - (رواه مسلم و ابن حبان)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک (غزوہ) کے سفر پر روانہ ہوئے۔
یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی وغیرہ
لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے (اردگرد) دیکھا لیکن آپ کو پردہ کے لیے کوئی چیز
نظر نہ آئی۔ اس وادی کے ایک کنارے پر دو درخت تھے۔ حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس
تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شاخوں میں

سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر وہ درخت اس اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانبردار ہو گیا جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو۔ اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو پکڑا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں درختوں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کے اذن سے جڑ جاؤ۔ لہذا وہ دونوں آپس میں جڑ گئے۔ میں وہاں ایک طرف اپنے آپ سے ہی کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ حضور جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت اپنے اپنے سابقہ اصل مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جابر! تم نے وہ مقام اور جگہ دیکھی تھی جہاں میں کھڑا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں! یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا: ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کی ایک شاخ کاٹ کر لاؤ اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اور ایک شاخ اپنی بائیں جانب ڈال دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر ایک پتھر توڑا اور اس کو تیز کیا۔ پھر میں ان درختوں کے پاس گیا۔ اور دونوں میں سے ہر ایک سے میں نے ایک ایک شاخ کو توڑا۔ پھر میں انہیں گھسیٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر لایا۔ ایک شاخ میں نے دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے مگر اس عمل میں کیا حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس جگہ دو قبروں کے پاس سے گزرا تھا جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب سے جب تک وہ دونوں شاخیں سرسبز و شاداب رہیں گی، ان قبروں والوں کے عذاب میں کمی آجائے گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ایک چشم دید واقعہ آپ نے ان کی زبان مبارک سے سن لیا۔ اگرچہ درخت نباتات کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی اس حدیث مبارکہ کا اصل موضوع ہے لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے درختوں کی شاخیں توڑنے کے لیے آپ کے حکم سے ہم میں سے ہمارے ایک پتھر کو توڑا اور تیز کیا، یہ پتھر توڑنا اور تیز کرنا، درخت کی شاخیں توڑنے کے لیے تھا۔ شاید اس وقت ان کے پاس کوئی چھری چاقو نہیں ہوگا جس سے شاخیں کاٹی جاسکتی ہیں۔ انہوں نے پتھر کو توڑا اور تیز کر لیا۔ پھر چاقو چھری اور کلہاڑی کا کام اسی پتھر سے لیا گیا اور اس نے دیا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اس سارے واقعہ کے پس منظر میں حکم احکام کا سلسلہ کسی ماہی کے ہاتھ میں تھا اور اس کے حکم کی تعمیل میں پتھر بھی درختوں کی شاخیں توڑنے لگے۔ ورنہ جس کا کام اس کو ساجھے والی بات ذہن میں رہے ورنہ یہ کام تو چھری، چاقو اور کلہاڑی ہی کا تھا۔ پتھر کو حکم تو سرکار نے نہیں دیا تھا اور پتھر توڑنے کا عمل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تھا لیکن جابر کن کے تھے۔ وہ بھی تو انہی کے تھے اور ہمارا بھائی پتھر بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ حضرت جابر رضی

اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ بظاہر تو یہ جابر ہی تھے لیکن وہ تو ان کو بھیجنے والے کو بھی دیکھ رہا تھا۔

محمد مصطفیٰ پہ جان و دل سے جو فدا ہوگا
جدھر جائے نظر اس کی جمال مصطفیٰ ہوگا
خدایا گر کہیں اس مہ جبین کا نقشِ پا پاؤں
قیامت تک نماز عشق کا سجدہ ادا ہوگا
اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد
وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

لاٹھی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

محبت، کوشش سے، محنت سے، دولت سے، عہدے سے، زر سے، زور سے
حاصل نہیں کی جاسکتی۔ محبت، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ احسان ہے، عطاء ہے، اس
کی دین ہے، عطیہ خداوندی ہے، محبت کا انمول تحفہ، مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے،
محبت کا خزانہ جس کو مل جائے اس کی زندگی، اس کی سوچ، اس کی فکر، اور اس کا
ظاہر و باطن، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کی تنہائی میں محفل ہوتی ہے اور اس کی
محفل میں تنہائی ہوتی ہے۔ روتا ہے، تو آنسوں چھلک پڑے ہیں، ہنستا ہے تو
پلکیں بھیگ بھیگ جاتی ہیں۔ محبت کرنے والا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس
دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے۔

محبت ایک راز ہے، گہرے سمندر کا موتی ہے، محبت میں سکون ہے، چین
ہے، راحت ہے، دنیا کی ہر نعمت کے ہوتے ہوئے بھی، زندگی کا خلاء صرف محبت
کی دولت سے پر ہو سکتا ہے۔ محبت، جنون کی راہ گزر ہے، عشق کی سیڑھی ہے،
جذبات کی خوشبو ہے، کیفیات کا خزانہ ہے کہتے ہیں Love ، God is Love
is God یعنی خدا محبت ہے، محبت ہی خدا ہے۔ قرآن کی تفسیر ہے، جانِ کائنات

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی خاک ہے، انا کی شکست ہے، نفرت کی قاتل ہے۔

یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان، محبت بھی کرے، اور عقلمند بھی رہے، دیوانگی، وارفتگی، خود سپردگی، سب اسی محبت کے رنگ ہیں۔

میں ایک جمادات کے قبیلے کی، ان کی ایک بہن لاشھی ہوں، لاشھی مارنے کے کام بھی آتی ہے، مارنے والے دشمن کا سر بھی پھوڑتی ہے۔ لاشھی اندھے کو راستہ بھی بتاتی ہے۔ لاشھی سانپ مارنے کے کام بھی آتی ہے اور مالک کا حکم ہو تو خود بھی سانپ بن جاتی ہے۔ اپنے مالک سے محبت کے کرشمے، تاریخ میں حروف زر سے میں نے خود لکھوائے ہیں۔ بلکہ میرے مالک نے خود اپنی لازوال کتاب میں میرے تذکرے فرمائے ہیں۔ یہ محبت ہی کا اعجاز تھا کہ لاشھی ہوتے بھی، کام وہ کئے، تو انسان بھی دیکھے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ مالک سے محبت، مالک کی مضبوط پارٹی، حزب اللہ کے سربراہ آدرہ اور سرکردہ شخصیات سے محبت کے انوکھے باب رقم کئے ہیں۔

آج کی اس بزم میں صدر بزم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بیٹھنے والوں کے ہاتھوں، اپنا ایک انوکھا واقعہ سنانا چاہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ آپ اس کو کہیں میری شیخی و تعلقا نہ سمجھ لیں۔ اس لیے مصدوق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادقین کی زبان سے سن لیں۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أَسِيدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ حَمَادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواة البخاری و ابو یعلیٰ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے (مجلس برخواست ہونے کے بعد) تاریک رات میں (گھر جانے کے لیے) نکلے تو (اس تاریک رات میں) اچانک ایک نور سامنے آ گیا (اور وہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ روشنی کے لیے چلتا رہا۔ اور جب وہ دونوں آدمی (مختلف اطراف میں گھر ہونے کی وجہ سے الگ الگ راہ پر چل پڑے تو وہ نور بھی ان دونوں کے ساتھ (دو حصوں میں تقسیم ہو کر) الگ الگ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے (تاریک رات میں گھر جانے والے) وہ دو آدمی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ تھے۔

خوشبوئیں بانٹنے والے لوگوں کی معیت، کچھ نہ کچھ تو خیرات دے ہی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیوی نے غیروں کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی غضبناک فوج کے عتاب کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اب الٰہی باد تک جینے لگے، ایک ابراہیم دنیا پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ دنیا کی آگ میں جل گیا اور ہمیشہ کی آگ بھی ابھی اس کی منتظر ہے۔ ایک ابراہیم نے دنیا پر لات دے ماری۔ اس کے لیے آگ بھی گلزار ہو گئی۔

حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے نور علی نور کی صحبت اختیار کی۔ رات کی تاریکیاں ان کے لیے روشنی کا انتظام کرتی پھرتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے در و دیوار کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ ”دیوار ہم گوش دارد“۔ کہ دیوار بھی کان رکھتی ہے تو یقیناً زبان بھی رکھتی ہوگی۔ بہرے شخص کی زبان، کتنی بڑی بھی ہو وہ زبان سے بولنے کا فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ زبان کا فیض کانوں کی سماعت پر موقوف ہے۔

کان اور زبان کا ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ورنہ گدھے کے کان اور زبان بھی ہوتی ہے لیکن وہ کانوں اور زبان کے ہونے سے انسان تو نہیں بن سکتے۔ کان اور زبان ہو، کسی کی بات سننے کے قابل ہو اور آگے بیان کرنے قابل ہو تو پھر کان اور زبان استعمال نہ کرنا نعمت خداوندی کی ناشکری ہے۔

ہم درو دیوار، اس کی مٹی اس کے ذرے، اور اس کا سارا ساز و سامان، اس شخص کے گھر میں تھے جس کی ہر بات سننے کے قابل تھی اور غور سے سننے کے قابل تھی۔ پھر اس پر زبان کھولنے کا شرف حاصل کرنا ابدی زندگی پانے کے مترادف تھا۔

ہم درو دیوار اور ہمارے جسم کا ایک ایک انگ، اس دولت سے نعمتِ خداوندی سے سرشار تھے اور سرشار رہتے تھے۔ ایک دن تو ہم خاموش رہ ہی نہ سکے۔ یہ کہانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے کی زبان سے سماعت فرمائیے۔

امام بیہقی، ابو نعیم اور ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرِ اُپا سرور و محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: آپ کل اپنے اہل و عیال سمیت اپنے گھر ہی میں رہئے گا۔ میں گھر میں آؤں گا مجھے آپ حضرات سے ایک ضروری کام ہے۔ (دوسرے دن) حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام اہل خانہ

حضور نبی رحمت اور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرماتے رہے۔ جب سورج کافی بلند ہوا تو سرکارِ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جناب رحمت عالم جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ آپ لوگ کیسے ہیں، سب نے کہا، الحمد للہ۔ ہم سب خیریت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے قریب آ جاؤ جب وہ سب ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور آپ کے بھی قریب ہو گئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان سب کے اوپر پھیلا دی۔ اور اپنے مالک و خالق جل و علیٰ کے حضور عرض گزار ہوئے۔ یا مولیٰ! یہ میرے چچا ہیں جو میرے باپ کی طرح ہیں اور یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچا جس طرح میں نے ان پر اپنی چادر ڈال کر ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کی اس دعا سے درودیوار سے بار بار آمین آمین کی آواز آئی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل خانہ نے جو فداکاریوں کے خوبصورت باب رقم کئے تھے نہ جانے حضور کی اس وقت کیا کیفیت تھی کہ آپ نے دوسرے دن ان کے گھر میں آ کر دعا فرمائی۔ اتنی عنایت فراواں کی کیفیت دیکھ کر ہم سب درودیوار اور ہمارا ہر ایک حصہ بے ساختہ اس دعا پر آمین کہنے سے سرشار ہو گیا۔

اس روایت کو ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن الغسل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا: اے میرے عم محترم! مجھے آپ سے اور آپ کی اولاد سے ایک ضروری کام ہے، آپ

انہیں لے کر چلئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک گھر میں داخل فرمایا۔ ان پر اپنا عمامہ پھیلا یا پھر دعا مانگی۔ اے میرے مولا! یہ میرے اہل بیت اور میری عزت ہیں۔ ان کو آگ سے اس طرح محفوظ رکھ جس طرح میں نے ان کو اپنے عمامہ کے نیچے محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کے ہر (مٹی کے) ڈھیلے اور ہر دروازے نے آپ کی دعا پر آمین کہا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد مندرجہ ذیل ہے:

حضرت فضل، حضرت عبداللہ، حضرت قثم، حضرت معبد، حضرت عبدالرحمن اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

جب مستجاب الاعوات لوگوں کے سرخیل و امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے اس وقت آپ کی کیفیت قابل دید تھی اور قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کی شانِ پاک والا، آپ کی اس دعا کی اجابت پر مہر محبت ثبت فرما رہا تھا۔ ہماری آمین ان کی دعا کی قبولیت کی محتاج نہیں تھی۔ بلکہ ہم تو اس چڑیا کی مانند جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے پانی کا ایک ایک قطرہ لا رہی تھی۔ ہم بھی شامل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کی مٹی کا ہر ڈھیلا، ہر دروازہ اور ہر کھڑکی شامل ہو گئی تھی۔

اللهم صل على محمد و آلہ واصحابہ و بارک وسلم

پتھروں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

پتھر کا موم ہونا، حیرت انگیز نہیں ہے۔ پتھر سے سخت جان، تو لوہا ہے۔ وہ بھی اگر بغیر کسی آگ کی آنچ دیئے یا بغیر کسی آلہ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ان کی چاہت کے مطابق موٹا یا باریک اور نرم و گداز ہو جاتا تھا تو پتھر کا موم ہونا کونسا اچنبا ہے۔ یہ تو مالک کی مہربانی ہے کہ اس کی عنایت سے لوہا اور پتھر نرم و گداز ہو جائیں۔ ورنہ ہم نے تو ہزاروں انسان ایسے دیکھے ہیں جو انسان ہو کر بھی

ان کے دل پتھر ہو گئے۔ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً يَا اس سے بھی سخت۔

اگر ہمارا ایک بھائی حضرت ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے جگر میں سمو کر عزت و تکریم اور شان و عظمتِ ابدی پاسکتا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہتے۔ جب کبھی سید کائنات اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے تو ہم آپ کے قدم مبارک چوم لیتے ہیں۔ بلکہ کئی عشاق پتھر تو آپ کے قدم مبارک کو اپنے اندر جذب کر لیتے۔ ہم تو بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی کہانی خود آپ بیان کرنے کی بجائے آپ ہی کے چاہنے والے محبتوں کے پیکروں نے جو خود اپنے چشم دید واقعات رقم کئے ہیں آپ خود ان کو پڑھ لیں۔

حضرت علامہ شہاب الخفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الشفاء“ شریف کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں یہ بات ہمارے عالم میں مشہور ہے اور عرب شعراء کرام نے ان واقعات کو اپنے اشعار میں نظم کیا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات چلتے تھے تو قدمین شریفین کے نشانات پتھر اپنے اندر جذب کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ بعض نشانات ابھی تک محفوظ و مامون ہیں۔ اور تا حال جوں کے توں موجود ہیں۔ لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ ان کی تعظیم کر کے ان سے برکات حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ایک نشان ”قدس“ پتھر پر تھا۔ پھر یہ پتھر مصر کے مختلف مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سلطان ہتھایتباہی نے اس پتھر کو بیس ہزار دینار میں خریدا اور وصیت کی تھی کہ اس پتھر کو اس کی قبر کے پاس رکھ دیا جائے۔ اب بھی وہ مبارک پتھر سلطان کی قبر پر موجود ہے۔

بعض اوقات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریت پر چلتے تو آپ کے قدموں کے نشانات نہیں پڑتے تھے۔

(حجۃ اللہ العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ص ۳۵)

امام القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المواہب“ میں فرمایا ہے کہ حضور جان بہار

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چٹان پر چلتے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان پڑ جاتے تھے جیسا کہ آپ کا یہ معجزہ ہر جگہ مشہور و معروف ہے۔ ادباء و شعراء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی اس معجزہ کی تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسی طرف اشارہ ہے۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّیْنَ كَمَا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ كَمَا جَاءَ

نماز بنا لو۔ (ایضاً ص ۳۵)

کنکریوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

ہمارے قبیلے کے تذکرے سے آپ سرشار ہو رہے ہوں گے۔ زمین کا ہر ذرہ، محبوب کائنات سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہے۔ آپ کے ارشادات کی تعمیل کرتا ہے۔ ہم میں کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں جیسا کہ انسان کو حاصل ہے کہ ہم آپ کے کسی حکم کو نظر انداز کر دیں، بھول جائیں، یا نہ مانیں، جو فرض ہمیں سونپ دیا جاتا ہم اس فرض کی ادائیگی میں کمر بستہ رہتے جب تک اس کو ادا نہ کر لیتے۔

امام احمد، حاکم، امام بیہقی اور ابو نعیم علیہم الرحمۃ والرضوان نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ:

قریش حجر میں جمع تھے۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ جب محمد (عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ادھر تشریف لائیں تو ہم سب انہیں ایک ایک چوٹ لگائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لیا۔ انہوں نے گھر جا کر اپنی امی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات حضور نبی رحمت سے بیان کر دی۔ آپ نے اپنی پیاری چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: بیٹی! فکر نہ کرو پریشان

ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

یہ ارشاد فرما کر آپ اپنے کاشنہ اقدس سے نکلے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ جہاں وہ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں لیکن ان پر کوئی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب نے آنکھیں جھکا لیں۔ جب تک اپنی محفل میں بیٹھے رہے سر جھکائے بیٹھے رہے اور ان میں سے کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس وہیں کھڑے رہے۔ پھر آپ نے مٹھی بھر کنکریاں لے کر ان کی طرف پھینکیں اور فرمایا شاہت الوجوہ۔ برباد ہو گئے چہرے۔ وہ کنکریاں جس جس شخص کو بھی لگیں وہ غزوہ بدر کے دن واصل جہنم ہوا۔ آپ کے ہاتھوں کے مبارک لمس نے وہ شعور بخش دیا تھا کہ کس کس کو لگ کر نشاندہی کر دینی ہے کہ اس نے یوم بدر میں کام آنا ہے۔

اشارہ پاتے ہی بتوں کا ریزہ ریزہ ہونا

حضرت انسان صدیاں بیت گئی تھیں کہ پتھروں سے بت تراش تراش کر ہمیں معبود کی طرح پوجتا تھا۔ پتہ نہیں انسان کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور تو پھر کسی نہ طرح اپنے مالک کو پہچانتا ہے انسان یہ تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔

ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ جا تو، تو ہے ہی کتا تو قریب بیٹھے ہوئے کتے نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے بھائی کو انسان کو اور جو کچھ کہنا ہے کہہ لے لیکن اسے کتا کہہ کر کم از کم ہماری توہین تو نہ کر۔ ہم تو کتے ہو کر بھی نجس و پلید اور ناپاک ہو کر بھی اپنے کتے پن سے نیچے کبھی نہیں گرے۔ جو خباثیں ہم میں ہیں وہ جیسی ازل سے ہماری قوم کے حصے میں آئی ہیں ہم اس گراف سے نیچے کبھی نہیں گرے۔ اور جو خوبیاں ہم میں

ہیں ان خوبیوں میں سے کسی خوبی سے بھی ایک انچ نیچے نہیں گرتے۔ شاید تمہیں خبر نہیں۔ ہماری قوم بے وفا نہیں ہوتی۔

خیر انسان اپنی انسانیت سے نقطہ انجماد سے بھی بہت نیچے گر چکا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں بت تراشتا، بناتا، سنوارتا، اونچی مسند پر بٹھاتا اور وہ جبیں جو رشک ملائکہ ہونی چاہئے تھی وہ بتوں کے آگے جکا دیتا۔

یوں صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے اور کتنی صدیاں بیت جاتیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی قابل رحم حالت پر رحم فرمایا اور پوری تخلیقات میں سے سب سے عظیم تر شخصیت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور باد نسیم سے بھی خنک تر پیغام سے انسانیت کے ضمیر پر دستک دی۔ لیکن انسانیت جتنی زیادہ قعر مزلت میں گر چکی تھی اتنی ہی طاقت سے اس پیغامِ جانفزا کی مدافعت میں مصروف ہو گئی۔

آخر وہ وقت آ پہنچا جس مقصد کے لیے آپ کو ارسال فرمایا گیا جس کے لیے شب روز تکالیف برداشت کیں، سختیاں جھیلیں، مخالفتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس صبح بہار کی آمد کا سورج طلوع ہوا۔ اندھیرے چھٹے، تاریکیاں دور ہوئیں، بتوں جھوٹے معبودوں کا راج ختم ہوا اور آپ ایک فاح کی حیثیت سے اس مقام کعبہ میں تشریف فرما ہوئے جہاں صدیوں سے ہمیں مسندِ خدائی پر بٹھایا ہوا تھا۔

ہم اپنے مالک کی خالق کی قسم کھا کر برملا کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہ تھا، سوائے اس کے کہ بت خانے میں ان کے بٹھائے بھگوان بنے بیٹھے تھے۔

جانِ کائنات اور جانِ بہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ خدا کا شکر ہے آپ کے ہاتھ میں گرز نہیں تھی جو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی ورنہ ہمارا وجود رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جاتا۔

آپ تشریف لائے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجئے یہ دونوں ثقہ صحابی اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کبھی ہاتھ کے ساتھ، اور کبھی چھڑی کے ساتھ اشارہ فرماتے اور زبان مبارک سے کبھی قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور کبھی جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ پڑھتے اور ہم دھڑام سے زمین پر گرنے لگے جس کے منہ کی طرف اشارہ ہوتا وہ پیٹھ کے بل اور جس کی پیٹھ کی طرف اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل گر پڑتا۔

یوں ہم نے آپ کو اپنے مالک کے واحد نمائندہ، محبوب ترین نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے والے کی حیثیت سے اپنا مرکزِ محبت تصور کرتے ہوئے جذباتِ تشکر سے لبریز خاک بسر ہو گئے۔

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو جھکا
تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا

(حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، ص ۳۵)

زمین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سراقہ کے گھوڑے کو دھنسا لینا
ہجرتِ مدینہ منورہ کی رات بھی کیا تاریخی رات تھی۔ ایک طرف کمر بند سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے والا اپنی تمام تر صلاحیتوں، رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کے اپنے اس فرض کی ادائیگی میں شب و روز مصروف ہے نہ اجرت طلب کرتا ہے اور نہ دادِ تحسین کا طالب ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف جہنم میں گرنے والے، جہنم میں گرنے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ وہ اندھیروں کے باسی، اندھیروں کے پیار میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اندھیروں سے نکال نکال کر روشنی میں لانے والا، انہیں اچھا ہی نہیں لگتا بلکہ اس کا وجود بھی ان کے لیے ناگوار ہو رہا ہے۔

زمانہ یوں بھی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے

وہ درسِ صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے

وہ راحتوں، رحمتوں اور برکتوں کا پیغام بر، انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا، ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر چڑھے ہوئے تعصب کے جالے نے خیر و شر کی اپنے بیگانے کی، نیک و بد کی، محسن و غیر محسن کی صفت امتیاز ہی ختم کر دی تھی۔ وہ خیر کو، خوبی کو، محسن کو، مہربانی کو، باد نسیم کے ٹھنڈے جھونکے کو، وہ خنک خنک باد صبا کو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے اور آج کی رات یہ غلیظ عمل یہ کلنک کا ٹیکہ اپنی پیشانی کے عین درمیان میں لگوا کر ساری کائنات کی نفرتوں، لعنتوں اور پھٹکاروں کی تھوک کا تھوبہ لگوانے پر تلے بیٹھے تھے۔

بس مزا دے جائے گی ہاں چھیڑیے

ہجر کی شب میں وصالِ یار کی کچھ داستاں

پابند حکم الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جب تاریکیوں کے متوالے روشنی کی آخری کرن اپنی پھونکوں سے بالکل بجھا دینے کی خاطر دروازے پر ننگی تلواروں کا سایہ کئے کھڑے تھے۔ مالک الملک جلّ وعلیٰ نے محبوب کے جلوؤں کی تابانیوں کو اور جلا بخشنے کے لیے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب سفر کا حکم ارشاد فرمایا۔

جانِ کائنات، روحِ بزمِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہوئے وحدت کا دم بھرتے ہوئے چند کنکریوں پر سورہ یسین کی چند آیات تلاوت کرتے ہوئے اندھیروں کے پروردہ اندھوں کے سروں اور آنکھوں میں ڈالتے ہوئے روانہ ہوئے۔ قدم قدم بچھ جانے والے، روشنی کے قدر دان، روشنی کے دلدادہ، ماہِ تابانِ عالم پر جانِ تصدق کرنے والے، ابوبکر کے نام پر صدیق کا حسین اور سچا لقب پانے والے آپ کے ہمراہ ہوئے۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ . أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . (الزمر ۳۳/۳۹)

کا تمغہ خداوندی اپنی پیشانیوں پر سجائے، دونوں غارِ ثور سے نکلتے ہوئے امِ معبد کو نوازتے ہوئے اس کی بانجھ بکری کے تھنوں سے لبناً خالصاً سے بھرتے ہوئے، سوئے ہوؤں کی قسمت کو جگاتے ہوئے، ان کی کتیا کو بقعہ نور بناتے ہوئے، ان کی کلبیوں (جھونپڑیوں) کو عرشِ اعظم بناتے ہوئے، میثرب کو مدینہ منورہ طابا اور طوبیٰ بنانے کے لیے جا رہے تھے۔

کفر اور اہل کفر اپنی ناکامیوں، نامرادیوں، اپنی بے بسیوں اور بیچارگیوں کی آگ میں جل رہے تھے۔ دوڑو، ڈھونڈو، پکڑو، قتل کردو، یا زندہ پکڑ کر لے آؤ۔ ایک سواونٹ، فی کس کے حساب سے انعام پاؤ۔

باہمت لوگ، بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی اس پہاڑ کی اوٹ میں، اور کوئی اس پہاڑ کی غار میں تلاش کر رہا ہے۔ کوئی ٹیلہ، کوئی پہاڑ ایسا نہ بچا ہوگا جہاں ڈھونڈ نہ مچائی گئی ہو۔

سراقہ بن مالک بن مالک کی کہانی ان کی اپنی زبانی سن لیں۔

جَاءَ نَارِسُلٌ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ دِيَّةً كُلًّا وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ نَاقَةٍ مِنَ الْإِبِلِ لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسْرَهُ - (سبل الھدیٰ والرشاد ۳-۳۵۲)

یعنی کفار اور مشرکین کے منادی ہمارے پاس آئے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو قتل یا گرفتار کرنے والے کو سواونٹیاں انعام میں دی جائیں گی۔

سراقہ بن مالک اپنے قبیلہ بنو مدج کے سردار تھے۔ اور اپنی ایک مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ وہ سواونٹیوں کا انعام کوئی معمولی انعام نہ تھا۔ منہ میں پانی بھر آیا لیکن ضبط سے کام لیا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا ایک شخص نے مجلس میں سے کسی نے کہا

بھی کہ میں نے کچھ دیر پہلے تین سوار جاتے دیکھے ہیں۔ ممکن ہے وہی ہوں تو سراقہ نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے فوراً کہا نہیں وہ نہیں ہیں وہ تو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے اور کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہے اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ ان کے تعاقب کے لیے جانے والے ہیں۔

تھوڑی دیر میں مجلس درخواست کی کہ گھر جا کر لونڈی اور خادمہ سے کہا میرا گھوڑا فلاں مقام پر پہنچا دو۔ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں، کنیر نے گھوڑا تیار کیا اور ساز و سامان تیار کر دیا۔ سراقہ وہاں پہنچے، گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا اور کچھ دیر بعد مخبر صادق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قافلے کو جالیا۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو آگے پیچھے دائیں بائیں نظر رکھے ہوئے تھے اور مسلسل نظر رکھے ہوئے۔ انہوں نے سراقہ کو گھوڑا سرپٹ دوڑاتے آتے ہوئے دیکھ لیا اور خطرہ کو بھانپ لیا۔ حضور سر اپا نور و ظہور بے فکری کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کریم آقا! خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ کوئی آپہنچا ہے، آپ نے فرمایا: صدیق! ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

حضور پر نور، راحتِ قلب حزیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آپ کے قدموں میں بچھ بچھ جانے والی زمین نے ابروئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناگواری پڑھ لی اگرچہ آپ نے زبان سے کچھ نہ فرمایا تھا لیکن میں زمین سمجھ گئی تھی کہ اب میرا کردار کیا ہے۔ میں نے فوراً گوزے کی ٹانگوں کو گھٹنوں سمیت اپنی گرفت میں لے کر اپنے اندر دھنسا لیا۔ اچھا خاصا، چلتا دوڑتا گھوڑا، ماہر ترین سوار کی مہارت خاک میں مل گئی اور دونوں زمین پر آ رہے۔ بڑی حیرت، بڑی ندامت اور شرمندگی سے اٹھے، کپڑے جھاڑے اور اپنے ترکش سے تیر نکال

کر فال لی کہ مجھے آگے بڑھنا چاہئے یا نہیں۔ فال نے مخالفت کی لیکن لالچ اور حرص کا بھوت سر پر سوار تھا۔ شکار سامنے تھا۔ اتنی جلدی چھوڑا نہیں جاسکتا تھا۔ مجھ زمین کو بھی بس اتنا ہی اشارہ تھا کہ صرف جھنجھوڑنا مقصود ہے۔ قارون کی طرح مکمل گرفت میں لینا مقصود نہیں۔

وہ پھر چل پڑے اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر مجھے بھی طیش آ گیا کہ مجھ پر چلنے والا اتنا اپنی طاقت پر اترائے اور ہمارے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں کامیاب ہو جائے تو تف ہے ہمارے خدام ہونے پر۔ میں نے پھر دوبارہ کچھ زیادہ جھٹکا دیتے ہوئے اپنے اندر دھنسا لیا۔

اب کے ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے آیا ہوں ان کی طرف سے تو ابھی مدافعت کی ابتداء بھی نہیں ہوئی اور اردگرد کے خدام نے ہی مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ان کی سمجھ میں بات آگئی۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

آخر التجا گزار ہوئے۔

أَنْظُرُوا إِلَيَّ فَوَاللَّهِ لَا أَذِيتُكُمْ وَلَا يَأْتِيكُمْ مِنِّي شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ .

مجھ پر نظر کرم فرمائیے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی

تکلیف نہیں دوں گا اور نہ لوگوں کو آپ کو تکلیف پہنچانے دوں گا۔

مکارمِ اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے آنے والے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ازراہِ لطف معاف فرما دیا اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے

فرمایا: اس سے پوچھیں کیا چاہتا ہے تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر

ساری کیفیت مکہ اہل مکہ اور کفار قریش کی بتادی اور انعام قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور صرف اتنا فرمایا: جاؤ اور ہمارا پیچھا چھوڑو۔

سراقہ نے واپس ہونے سے پہلے ایک امن نامہ لکھ کر عطا کرنے کی التجا کی جو قبول ہو گئی۔ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا عامر بن فہسیرہ کو جو اس سفر میں ہمسفر تھے۔ ان کو امان نامہ لکھنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امن نامہ لکھ کر عطا کر دیا۔

حیرت ہے جو سراپا خطرہ بن کر آیا تھا تیر و تنگ سے لیس ہو کر آیا تھا، قتل کرنے یا گرفتار کرنے کی غرض سے آیا تھا، چاہئے تو یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنی طرف سے امن نامہ لکھ کر دیتا کہ اب اس کے بعد میری طرف سے میرے خاندان اور دوسرے کسی بھی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ اَلثَّاوِدُ خُودِ اَمْنٍ كِي بَهِكٍ مَانِكٍ رَہَاہے۔ اور کہہ رہا ہے:

فسالت ان يكتب لي هو اذعة امن به .

کہ میں نے عرض کی کہ مجھے ایک تحریر لکھ کر عطا کی جائے جو میرے لیے امان نامہ ہو۔

دراصل اہل عرب سمجھ چکے تھے کہ یہ دین کا سورج عنقریب نصف النہار تک پہنچنے والا ہے۔ سراقہ کو فکر ہوئی کہیں عروج ملنے پر میری یہ حرکت اگر ان کو یاد رہ گئی و نہ جانے کیا سزا ملے۔ آپ سے امن نامہ لے لیا جائے تاکہ اس وقت کی اگہانی انتقامی سزا سے بچ سکوں۔ سراقہ کو کیا خبر کہ تیری تو حرکت ہی اتنی بڑی نہیں ن لوگوں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں فتح حاصل ہونے کے تد یہ تو ان کو بھی لَا تَشْرِيْبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ۔ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔

سراقہ نے دیکھا نظام ہستی کا ذرہ ذرہ آپ کی خدمت پر مامور ہے۔ اس

کے اپنے تیروں کی فال اس کے خلاف جارہی ہے۔ آخر وہ تیر بھی تو ہم جمادات کے قبیلے کے تھے۔ وہ اس کے اپنے ترکش میں ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھے وہ تو اپنے اصل خالق و مالک کی پارٹی کے بندے تھے۔ وہ تو اپنی پارٹی کے سربراہِ عظیم کے ساتھ تھے۔

سراقہ نے دیکھا پتھر ملی زمین، جس پر کدال بھی ماریں تو نتیجہ ناکامی کی صورت نکلے۔ آج وہ زمین مجھے بھی اور گھوڑے کو بھی اپنے اندر دھنسا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا گھوڑا اور میں زندہ ہی درگور ہو جائیں وہ تو سراقہ کی قسمت اچھی کہ اس نے دشمنی کے لیے بھی بڑی عظیم ہستی کا انتخاب کیا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل گردہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! صرف اشارہ کی دیر تھی۔ اشارہ ہوتا تو ہم مٹی کے ذرے زمین کی پہنائیاں اس کو، اس کے گھوڑے کو، پیچھے اس کے خادمہ کو، جس نے گھوڑا تیار کیا تھا، اس کے خاندان کو، بلکہ اس کی ساری بستی کو زمین بوس کر دیتے۔ صفحہ ہستی سے ان کا نشان مٹا دیتے۔ اس کے پورے خاندان کو عبرت کا نشان بنا دیتے۔ لیکن بڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ آپ کا اشارہ ہوا، چھوڑو نادان ہے۔ اس کو کیا کہنا ہے لالچ میں آ گیا ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، ہمارے نواسوں میں ایک نواسہ ایسا بھی ہونے والا ہے کہ اس کے گھر میں چور بن کر آنے والا قطب بنا دیا جائے گا۔ آج ہم بھی سخاوت میں اس کی خطا پر سزا نہیں اور بھی بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں۔

جب سراقہ امن نامہ لکھوا چکا، جذباتِ تشکر سے لبریز واپس مڑنے لگا تو دریائے سخاوت کی ایک چھل آئی چودہ طبق کے والی نے آواز دے کر فرمایا:

وَلَمَّا ارَادَ الْاِنْصِرَافَ قَالَ لَهُ كَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةَ اِذَا تَسُوْرَت

بِسُوَارِي كَسْرِي . (السيرة الحلبية، ۲: ۴۵)

جب وہ واپس مڑا تو آپ نے ارشاد فرمایا: سراقہ! اس وقت تیری

شان و منزلت کیا ہوگی جب شہنشاہ ایران کے ہاتھوں کے چھینے ہونے
سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔

نگاہِ نبوت کی دوررسی، کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کی ایک بہت بڑی
سپر پاور شکست خوردگی کے بعد اس کی بادشاہی اور شہنشاہی کی علامت، سونے کے
کنگن مالِ غنیمت میں، مسجد نبوی شریف میں آئیں گے اور حضور کا ایک بوڑھا غلام،
گھر سے بلایا جائے گا، سونا حرام ہوتے ہوئے بھی، اس کے لیے حلال ہو جائے گا
اور وہ کنگن اس وقت سراقہ کو بڑی شان و شوکت سے پہنائے جائیں گے۔

نہ جانے، سراقہ پر سارے راستے، اس ارشادِ عالی کا کیا نشہ رہا ہوگا۔ وہ کس
مستی میں گھر پہنچا ہوگا۔ لیکن ہم خاک کے ذرے، مٹی کے تودے اور اس کے
ترکش کے تیر، جن کے سامنے دشمن کو عنایاتِ کریمانہ سے جس انداز سے نوازا
جا رہا تھا وہ کیفیت تو ہمیں بھی مست کر گئی۔

یہ سب اسی مستی کا نتیجہ تھا کہ جب سراقہ کچھ عرصہ بعد اپنی محافل میں یہ واقعہ
لذت لے لے کر سنا تے تو قریش مکہ کو فکر دامن گیر ہو گئی یہ تو سارے علاقے کو
لے بیٹھے گا اور سارے علاقے کو مسلمان کر دے گا۔

سراقہ کی بات سن کر لوگ سوچنے لگتے، وہ کونسی غیبی طاقت ہے جو ان کی
حفاظت کر رہی تھی۔ سراقہ کے تیروں کی فال، کیوں اس کے حق میں نہ نکلی، سراقہ
کے گھوڑے اور سراقہ کو سنگ لائح زمین نے کیسے اپنے اندر دھنسا لیا۔ پھر ان کے
سامنے عبدالمطلب کے یتیم پوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، لڑکپن اٹھتی اور
ابھرتی بے داغ جوانی، صداقت و امانت کا شہرہ، اس کا ہر انداز، انوکھا، نرالا، البیلا،
پھر اعلانِ نبوت کے بعد سے سفر ہجرت تک کے سفرِ استقامت، قریش کی مخالفت،
نفرتوں کے زہر میں بجھے تیروں کی بوچھاڑ، آگے سے نہ سی کی آواز آتی ہے نہ بد
دعا نکلتی ہے۔

اعجاز اس کے حسن تکلم کا دیکھئے

ان کے سخن سخن سے پڑے پتھروں میں جان

ابو جہل ٹپٹا اٹھا اور اس نے سراقہ کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔
 فَلَمَّا ظَهَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ
 وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ جَعَلَ سَرَاقَةَ يَقْصُ عَلَى النَّاسِ مَارِئِي وَ
 مَا شَاهَدَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ
 مِنْ قَضِيَّةِ جَوَادِهِ وَاشْتَهَرَ هَذَا عَنْهُ فَخَافَ رُوسَاءَ قُرَيْشٍ
 مَعْرِتَهُ وَخَشَوْا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبِيلًا لِاسْلَامِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ -

(البدایۃ والنہایۃ، ۳: ۱۸۵)

جب سراقہ نے محسوس کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے تو سراقہ نے آپ سرکار ابد قرار صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں جو کچھ دیکھا اور اپنے گھوڑے کا
 (زمین میں دھنسنے کا) واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ واقعہ
 سراقہ کی طرف سے تمام شہر میں مشہور ہو گیا تو قریشیوں کو رئیسوں
 کو فکر و امن گیر ہوئی۔ انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں لوگ اس کی
 باتیں سن سن کر اسلام قبول کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔

وہ سازش کا پرکالہ، نفرت کی آگ سے لپٹا ہوا، سوز و گداز کے ساز کی
 لطافتوں سے محرومی کا شکار، اخوت و مروت کی جانشینی سے لب نا آشنا، بھاری پتھر
 کی طرح کفر سے چمٹا ہوا شخص، خیر و شر کی تمیز کے ہنر سے ناواقف، تاریکی اور
 اندھیروں کا دلدادہ، اگر اس ساری عبادت کا ترجمہ پوچھو تو صرف ایک لفظ اس کی
 جمائی کے لیے کافی ہے۔ ابو جہل۔

اس نے حضرت سراقہ کی زبان سے حقیقت حال اور پھر اس سے بکھرتی

خوشبو کا تذکرہ سنا تو جل بھن گیا اس سراقہ کے کردار پر حملہ کرتے ہوئے ہجو یہ اشعار لکھ بھیجے تاکہ اس کی ساکھ جو اس کے قبیلے میں، خاندان میں، قرب و جوار میں، اڑوس پڑوس میں بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ اس کی باتوں میں آکر دین اسلام کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ ابو جہل کے اشعار پڑھئے اور ایک ایک حرف سے اس کی جبلی خباثت ٹپکتی دیکھئے:

بنی مدلج و انی اخاف سفیہکم

سراقہ مستغول نصر محمد

اے مدلج کے خاندان والو! مجھے تمہارے بے وقوف سراقہ سے اندیشہ ہے کہ یہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت پر تیار نہ کرے۔

علیکم بہ الا یفرق جمعکم

فیصبح شتی بعد عز سودد

اگر تم اپنا اتحاد گنوانا نہیں چاہتے اور باہم افتراق و انتشار سے عزت و سیادت کھونا نہیں چاہتے تو اس بے وقوف پر قابو پالو۔
حضرت سراقہ بن مالک نے ابو جہل کی نفرتوں کے زہر میں ڈوبے ہوئے ہجو یہ اشعار کا جواب ارشاد فرمایا:

ابا حکم واللہ لو گنت شاہدا

لامرجو اذی اذ تسوخ قوائمه

اے ابو حکم (ابو جہل) اللہ تعالیٰ کی قسم! میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنتے ہوئے خود دیکھ لیتے۔

عجبت ولم تشکک بان محمداً

رسول و برهان فمن دا یقاومہ

تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے اور کوئی شک و شبہ تمہارے ذہن میں نہ رہ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کی دلیل ہیں لہذا ان کا مقابل کون ہو سکتا ہے۔

عليك فكف القوم عنه فاني

اخال لنا يوماً سبداً ومعالمة

تجھے چاہئے کہ تو اپنی قوم کو ان کے مقابلے سے روکے کیونکہ میری دانست میں وہ دن دور نہیں جب ان کی عزت اور کامیابی کی علامات ظاہر ہو جائیں گی۔

بامر تود النصر فيه فانهم

وان جميع الناس طرامسالمة

تو بھی ان کی آمد آمد کا خواہاں ہوگا اور تمام لوگ اس سے صلح کے خواستگار ہوں گے۔

بات کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی یہی محبت کی علامت ہے کہ محبت میں بات ختم ہی نہیں ہوتی اور محبت نہ ہو تو بات صحیح ٹھکانے سے شروع ہی نہیں ہوتی۔

اس سارے معاملے میں، میرا بحیثیت ایک زمین کے، سراقہ کو حضور کا دشمن سمجھ کر اپنے اندر دھنسا لینا، کوئی معمولی بات نہ تھی اس کے اثرات کہاں تک پہنچے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں:

وہاں وہاں میری آنکھوں کے ہیں دیئے روشن

• جہاں جہاں تیرے قدموں کے ہیں نشان آقا

فصلى الله تعالى عليه وآله

واصحابه وبارك وسلم

مقام ابراہیم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

میں بھی ایک پتھر ہی ہوں لیکن میں اس دنیا کا رہنے والا نہیں ہوں۔ میرا مسکن، جنت الفردوس ہے اگر جنت ہی میں رہتا تو شاید اتنا مقام و مرتبہ حاصل نہ کر پاتا جتنا زمین پر آ کر حاصل ہوا ہے۔

میرے خالق و مالک جل و علیٰ کی ازلی وابدی کتاب میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔ کبھی ان کی فداکاری کا، کبھی جانثاری کا، کبھی بچوں اور بیوی کی جدائی کا، کہیں بیٹے کی قربانی کا، کہیں ہجرت کا، کہیں مشرکین سے مختلف انداز میں، مختلف مقامات پر مناظروں کا، یعنی شاید ہی کوئی زندگی کا ایسا شعبہ ہوگا جس کے حوالے سے مالک نے گفتگو نہ کی ہو۔ ایسی شخصیتوں کے تذکرے آسمانوں پر بھی ہوتے رہتے ہیں اور جنتوں میں بھی، حوروں میں بھی غلمان میں بھی، پھلوں میں، پھولوں میں، جنتی ابدی نہروں میں اور ہر چیز ایسی شخصیات کی بلائیں لینے کی حسرت رکھتی ہے۔

لیکن ہر ایک کی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو مالک کی مرضی ہے جسے چاہے کسی نعمت سے نواز دے اور جسے چاہے کسی نعمت سے محروم رکھے۔

بیت المعمور کے عین نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال پہلے فرشتوں کے زمین پر آنے پر فرشتوں کے لیے بیت اللہ تعمیر ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آواری پر کچھ ترمیم و اضافہ ہوا۔ سنا ہے جنت الفردوس سے ہی سارا سامان آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی آمد سے پہلے احتراماً یہ بیت اللہ شریف پھر آسمانوں پر اٹھالیا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو ہمارے خالق و مالک عز و جل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ارشاد ہوا۔ آپ نے اپنے ہونہار اور جمیل القدر بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملایا اور تعمیر شروع کر دی۔ جب اس کی دیواریں، تھوڑی سی بلند

ہوئیں، تو خالق ارض و سما نے خالق کون و مکان نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے جنت کے پتھروں میں سے میرا انتخاب فرمایا اور مجھے جنت سے دنیا نیرا اتارا۔ میرا کام یہ تھا بلکہ مجھے سمجھا دیا گیا تھا کہ تیرا صرف یہی کام ہے کہ ابراہیم کی ۔۔ جاہت اور ضرورت اور منشاء ہو تو نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پورا کرنا ہے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر میں دیواروں کی بلندیاں تو آخر ہونا تھیں۔ وہاں گو کا سامان تو تھا نہیں، رسیاں، بانس اور پھٹے وغیرہ کہاں سے آتے۔ بس یہ ڈیوٹی میری تھی۔ میں نے سرانجام دینا شروع کر دی۔ جتنا اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی، میں اونچا ہو جاتا پھر جب نیچے ہونے کی ضرورت ہوتی میں نیچے ہو جاتا۔

مجھے اپنی قسمت پر ناز تھا کہ میں دنیا میں اپنے خالق و مالک کے ایک ایسے جلیل القدر بندے کی خدمت پر مامور ہوں جس کی فداکاری کی اسنا، خود۔۔۔ رے خالق نے آپ عطا فرمائی ہیں۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور دوسری جگہ فرمایا: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لہذا اس خدمت کے دوران موقع غنیمت جانا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے قدوم مینمت لزوم کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا آپ کے دونوں قدم مبارک میں نے اپنے اندر جذب کر لیے۔

تیری معراج کہ تو عرش بریں تک پہنچا

میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

میں نے وہ قدم اس طرح اپنے اندر محفوظ کر لیے کہ اگر کوئی شخص عدسہ لیکر اور

محدب شیشہ لے کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی لکیریں اور نقوش مکمل طور پر محفوظ کر لیے ہیں۔

اگرچہ مجھے تو اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ ہمارے کریم آقا و مولا، راحتِ جاں

جہانِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے بعد جب آپ کی عمر مبارک چھ سات سال کی ہوئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً دو ہزار سال تو ہو چکے تھے۔ جب کبھی آپ حرم کعبہ میں، اپنے دادا جان، حضرت عبدالمطلب کے لیے بچھائی گئی مسند پر آ کر دادا جان کے پاس بیٹھنے لگے تو چونکہ آپ کے احترام میں لوگ اپنے بیگانے آپ کی مسند پر نہ خود بیٹھتے تھے اور نہ کسی کو بیٹھنے دیتے تھے۔ اسی طریقہ کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو بھی لوگوں نے منع کیا تو حضرت عبدالمطلب نے لوگوں کو منع فرمایا کہ اس بچے کو کوئی نہ روکے یہ میرا بیٹا فرشتوں سے پیار کرتا ہے اور بنو مدلج کے لوگوں نے مجھے آ کر کئی بار کہا ہے کہ عبدالمطلب اس بچے کی حفاظت کرو۔ یہ کوئی عام سا بچہ نہیں، ہم نے اس کے قدم مبارک دیکھے ہیں، اس جیسے قدم کسی کے نہیں، اور جو مقام ابراہیم پتھر ہے اس میں موجود جو نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں ان نشانوں، لکیروں اور ریشوں کے ساتھ اس کے قدموں کے نشان آپس میں ملتے ہیں۔

پتہ نہیں، بنو مدلج کو کون بتا گیا بہر حال، جب میں نے سنا تو میری فرحت و انبساط کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم چومے ہیں وہاں میں نبی آخر الزمان، نبی رحمت، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین مبارک بھی چومے ہیں۔

بتاؤ! اگر میں جنت میں رہتا تو یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ رفعتیں اور یہ بلندیاں کہاں نصیب ہوتیں۔

پائے حضور پر ہے مرا سر جھکا ہوا

ایسے میں آ اجل تو کہاں جا کے مر گئی

حضرت عبدالمطلب، حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور سر اپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ بھی تھیں اور ہمہ وقت آپ کی

خدمت پر مامور بھی تھیں۔ اور حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی طرف سے ایک کنیز کے طور پر ورثے میں بھی ملی تھیں۔ آپ ان کو بھی فرمایا کرتے: ام ایمن! اس بچے سے غافل نہ ہوا کرو۔ کیونکہ اہل کتاب یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا اور اس بچے کے قدموں کے نشان مقامِ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے مطابق ہیں۔

(حجۃ اللہ علی العالمین جلد اول، ص ۳۲۸، ۳۲۹، ابن سعد، ابن عساکر، حضرت امام زہری،

مجاہد، نافع اور حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم)




الأنوار في شبك النبوة

شمائل النبی

کتابخانه کربلا

کتابخانه کربلا

کتابخانه کربلا



کتابخانه کربلا